[illegible]



# مشہور عالم جنتری

۱۹۳۶ء

کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے شائع کیا
سول ایجنٹس۔ گلاب سنگھ اینڈ سنز پبلشرز و تاجران کتب لاہور

ایڈیشن اول
۸۵۰۰۰

رجسٹرڈ
نمبر ۱۸۰۲

[illegible]

کوہ ہمالیہ جہاں سونے چاندی اور لوہے کی کانیں ہوتی ہیں وہاں انکا ست لیکر

عنایت پروردگار سے سلاجیت پیدا ہوتا ہے ہم اپنے دشوار گذار مقامات سے عرصہ ۴۵ سال سے منگا کر طب و ویدک کے طریقے صاف کرتے ہیں جو کہ ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے ہزارہا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں ؂

قوت بڑھانے والی طاقت دینے والی مردمی [illegible] اضافہ کرنیوالی تمام اقسام کے جریانوں سیلان الرحم کی بیماری دور کرنیوالی علمائے ویدی اور حکماء کی پسندیدہ

# اصلی سلاجیت

اکسیر اعظم

اکسیر اعظم

حکیم ویدیا ڈاکٹروں نے متفق ہو کر تجربہ کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ دنیا بھر کی ادویات میں شدھ سلاجیت کی برابر ہر قسم کے جریانوں کو دفع کرنیوالی کوئی دوا نہیں جس کے استعمال سے بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں [illegible] ایک ہی خوراک سے ہی فائدہ نظر آتا ہے ان کی سستی کمزوری ایکا ایک غائب ہو جاتی ہے کچھ دن استعمال کرنے سے ہر قسم کی منی جریان اور کمزوری [illegible] احتلام ہونا [illegible] پیشاب کے ساتھ منی کا جانا پیشاب کا بار بار آنا مثانہ کی کمزوری نامردی ناطاقتی ہر قسم کا درد تھکاوٹ، دماغی کمزوریاں سر کا درد چکر آنا پاگل پن مرگی وغیرہ ہمیشہ کیلئے دور ہو جاتے ہیں [illegible] وتیلی دھات کو بھی گاڑھا کر دیتا ہے اس کے استعمال سے نیا خون پیدا ہوتا ہے دل دماغ اور جسم میں طاقت اور آنکھوں میں روشنی بدن میں پھرتی اور چستی چہرے پر رونق آ جاتی ہے ایک ہی خوراک میں پیشاب کی جلن کرک پیلی رنگت دور ہو جاتی ہے سات روز کے استعمال کرنے سے پرانے سوزاک کو آرام ہو جاتا ہے ایسے ہی خونی و بادی بواسیر کو دور کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے ریاحی درد ہاتھ پاؤں کمر اور پسلی کا درد جسم کی ہر تکلیف کو اور ورم [illegible] قبض [illegible] ذیابیطس اور اس کی بیماری کو دور کرنیکی خاص طاقت اور اثر اس سلاجیت میں موجود ہے ؂ ہر سال کم سے کم ہر شخص ہماری سلاجیت کو ایک دو یا پانچ تولہ کھاتا رہے اور بچوں کو بھی کھلاتا رہے تو ہر قسم کی بیماریوں سے بچ کر موٹا تازہ اور تندرست رہیگا اور عمر بھی زیادہ ہوگی ترکیب استعمال چھپے ہوئے [illegible] ہوتی ہے جو بلا قیمت بھیجی جاتی ہے اور قیمت بھی بغرض فائدہ عام و خاص بہت کم رکھی گئی ہے ؂

**پانچ تولہ کی قیمت سوا دو روپے دس تولہ کی قیمت سوا چار روپے بیس تولہ کی قیمت آٹھ روپے محصول ڈاک پانچ آنے ۵**

**چالیس تولہ کی قیمت ساڑھے پندرہ روپے اسی تولہ یا سیر بھر کی قیمت تیس روپے - علاوہ محصول ڈاک**

ملنے کا پتہ ✻ **مالک ہمالیہ ڈپو ہردوار یوپی**

*Proprietor Himalaya Depo*
*P.O. Hardwar U.P.*

تصدیق (۱) [illegible] سلاجیت کا استعمال [illegible] حکیم سید محمد قاسم علی صاحب [illegible] تحریر فرماتے ہیں [illegible] آپکا صاف شدہ سلاجیت [illegible] بہترین چیز ہے (۲) آل انڈیا آیورویدک مہامنڈل اور [illegible] شاستری [illegible] آپ نے [illegible] کی تعریف بیان کی [illegible]

## پنڈت گردھاری لعل

منجّم و جفّار سیالکوٹی لاہور کی

# سن ۱۹۳۶

# مشہور عالم جنتری

رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳

جسے

## پنڈت رگھناتھ داس جوتشی خلف

## پنڈت گردھاری لعل منجّم و جفّار سیالکوٹی

مالک کارخانہ مشہور عالم جنتری

و

مشہور عالم پریس لاہور

نے

امرت الیکٹرک پریس میکلیوڈ روڈ لاہور میں باہتمام بابو دھرم چند بہارگو بی-ایس-سی چھپوا کر
کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور
سے شائع کیا

UNIVERSITY LIBRARY ALIGARH
۲۳۵۵۵
۵۲۹۶۳
M.A.LIBRARY, A.M.U.
U23555
URDU STACKS

# علم جادو کی بے نظیر کتابیں

علم جادوگری کے شائقین آئیں۔ اور ان کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ کہ اس علم کے متعلق ان کتابوں میں کیسے کیسے سربستہ راز کھول کر رکھ دئیے گئے ہیں۔ ہر شخص بلا مدد استاد ان کتابوں کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتا

## جادوگروں کا گورو گھنٹال

### دنیا بھر کے جادوگروں کا بادشاہ

### ملک بنگال کا زندہ جادو

ناظرین! آپ نے آج تک سینکڑوں جادو کی کتابیں دیکھی ہونگی۔ لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں۔ کہ ہماری اس کتاب کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ اس کے لائق مصنف نے صدہا قلمی اور بوسیدہ کتابوں کے مطالعہ کے بعد اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اس میں صدہا قسم کے جنتر منتر تنتر وہ ایسے ایسے درج کئے ہیں۔ جو اپنی عملی تاثیر میں بے مثال ہیں۔ اور جن کی ہر فرد بشر کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ ترکیب نہایت آسان اور عام فہم ہیں کہ ہر شخص بلا کسی مشکل کے عمل کر سکتا ہے۔ مفصل فہرست مضامین تو درج کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ البتہ مختصر طور پر آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ کہ اس کتاب میں ہمزاد کو قابو کرنے کے بے نظیر طریقے۔ ہمزاد کے مخفی راز۔ ہمزاد سے کام لینا۔ دور دراز کی خبریں چشم زدن میں منگوانا۔ بھوت پریت کو قابو کرنا۔ کسی کو مسخر کر کے اس سے حسب منشا کام لینا۔ دور دراز ملک کے تحائف گھر بیٹھے ہی حاصل کرنا۔ ہزاروں کوسوں کی خبر ایک منٹ میں منگوا لینا۔ خلقت کی نظر سے غائب ہو کر سب حالات دیکھنا۔ ایک رات میں معشوق کی ملاقات کرنا۔ معشوق کو بذریعہ جنتر منتر تنتر کے زیر کرنا۔ مسمریزم کے مفصل بیان۔ بذریعہ مسمریزم امراض کا علاج۔ سر درد دور کرنے کا منتر۔ دشمنوں کو زیر کرنے کا طریقہ۔ گھر بیٹھے تمام دنیا کی سیر کرنا۔ علم سیارگان۔ علم کاسٹ سحر۔ علم قیافہ وغیرہ وغیرہ غرضیکہ صدہا اس قسم کے مضامین درج ہیں۔ کتاب کی خوبی دیکھنے سے معلوم ہوگی۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے اس کی قیمت مجلد صرف دو روپیہ ([illegible])

## دیوتاؤں اور بھوت پریت جنات کو بس کرنا

اس کتاب میں تمام دیوتاؤں مثلاً ہنومان۔ بھیروں۔ کالی دیوی۔ اندر وغیرہ تمام قسم کے دیوتاؤں کو مسخر کرنا اور بھوت پریت جنات وغیرہ کو قابو کر کے ان سے ہر قسم کا کام اپنی مرضی سے لینا۔ ان سب کے مفصل طریقے۔ اور منتر درج ہیں۔ تھوڑی سی محنت سے ہر شخص عامل بن کر ہزار ہا روپیہ اس علم سے پیدا کر سکتا ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

## بنگال کا جادو

ہر قسم کے جنتر منتر۔ سحر طلسمات درج ہیں۔ جو کہ نہایت پُر تاثیر ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنے (۸؍)

## سلیمانی جادو

جس میں ہر قسم کے تعویذ ہر مطلب کیلئے جنتر۔ گنڈے جادو وغیرہ جو کبھی خطا نہ کریں۔ درج کئے گئے ہیں۔ قیمت صرف چھ آنے (۶؍)

## رسالہ خواب

خواب کا نیک و بد نتیجہ ہر قسم کا درج ہے۔ قیمت آٹھ آنے (۸؍)

## مردہ روحوں سے بات چیت

مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو عالم ارواح سے بلا کر ان سے بات چیت و ملاقات کرنے کے خواہشمند اس رسالہ کو منگوا کر پڑھیں۔ قیمت ۱۲؍

## ملک مصر کا قدیمی جادو

مصر کا ملک جادوگری میں قدیم سے مشہور ہے۔ اس لئے ہم نے بڑی محنت سے بڑی بڑی پرانی کتابوں کو حاصل کر کے ان میں سے یہ کتاب تیار کی ہے جس میں ہر مطلب کے جادو جنتر منتر درج کئے ہیں۔ جو کبھی خطا نہیں کرتے۔ غرضیکہ آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں چھپی پہلی مرتبہ ہم نے چھپائی ہے۔ اسکو ضرور منگوا کر فائدہ اٹھاؤ۔ قیمت صرف عہ

## تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے



اس کو جاننے کا طریقہ ہم سے سیکھو۔ انسانی ہاتھ میں جو لکیریں یعنی خط و خال ہوتے ہیں۔ وہ بے فائدہ نہیں ہوتے۔ ماہران علم پامسٹری نے اپنی محنت سے دیکھا ہر ایک شخص کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی تمام عمر کے حالات مثلاً عمر کتنے سال کی ہے۔ کس کس عمر میں بیماری یا تکلیف ہوگی؟ شادی کب ہوگی؟ عورت کیسی ملیگی؟ شادی ایک ہوگی یا زیادہ؟ اولاد ہوگی یا نہ؟ لڑکے لڑکیوں کی تعداد۔ روزگار۔ ترقی و تنزل کا زمانہ۔ بدقسمتی کا حال۔ نیک و بد چال چلن وغیرہ وغیرہ ایک نظر میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے جاننے کا طریقہ سنسکرت کے پراچین گرنتھوں اور زمانہ حال کی نئی امریکن و انگریزی تحقیقات کی مدد سے ہم نے اس رسالہ راز تقدیر میں درج کر دئیے ہیں۔ اور اس میں ہر قسم کے ہاتھوں کے نقشہ جات درج کر کے ان کا مفصل حال لکھا ہے۔ اس کتاب کو ایک مرتبہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے سے آپ پورے غیب دان بن کر دوسروں کے تمام عمر کے حالات معلوم کر لیں گے۔ اس فن والوں نے لاکھوں روپیہ اسی کام کے ذریعہ پیدا کر لیا۔ آپ بھی محروم نہ رہیں ✦ جلد نہایت خوبصورت کپڑے کی بنی ہوئی ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنے (عہ) محصول ڈاک علاوہ

**ملنے کا پتہ۔ مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ۔ لاہور**

محصول ڈاک سب کا خریدار کے ذمہ ہے

# جو چاہو گے وہی ہو جائیگا

## منتر سدھی

زمانہ قدیم میں یوگی مہاتما منتروں کے ذریعہ تمام دنیاوی مشکلات کو حل کر دیتے تھے۔ تمام امراض کا دفعیہ۔ دشمنوں پر فتحیابی۔ نظر بد۔ سایہ۔ آسیب۔ جن۔ بھوت کا دور کرنا وغیرہ وغیرہ منتروں کے ذریعہ ہی ہوتا تھا۔ افسوس کہ انقلاب زمانہ کے ساتھ ہی یہ علوم نیست و نابود ہو گئے۔ ہم نے بڑی محنت و کوشش اور جنگلوں و پہاڑوں کو چھان بین سے بڑے بزرگ سن رسیدہ مہاتماؤں کی خدمت میں رہ کر بصد مشکل ان سے سینہ بسینہ رازوں کو حاصل کیا ہے۔ اور اب بغرض فائدہ رفاہ عام اس کتابی شکل میں چھاپ دیا ہے۔ ان کی سدھی کے لئے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو گی۔ کسی جنگل۔ قبرستان یا شمشان میں نہ جانا پڑے گا۔ بلکہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر ایک گھنٹہ روزانہ عمل کرنے سے چند یوم میں منتر سدھ ہو جائیگا۔ منتر کے سدھ ہونے پر آپ تمام دنیاوی مشکلات کو چشم زدن میں حل کر لیں گے۔ سایہ جن و بھوت۔ نظر بد وغیرہ کو پھونک مار کر آزاد کر دیں گے۔ ایک نظر سے بے روزگاروں کے لئے روزگار اور ترقی کاروبار کا تقرر ہوگا۔ دشمن۔ دوست اور دوست فرمانبردار ہو جائیں گے۔ بچھڑے ہوئے محبوب خود بخود قدموں پر گریں گے۔

قیمت صرف ایک روپیہ معہ محصول ڈاک (ع۱؍)

## ہمزاد سدھی

ہمزاد سدھی ایک ایسی چیز ہے جس کو قابو میں کر کے انسان اس سے ہر قسم کا کام لے سکتا ہے۔ اس کتاب میں ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی نہایت آسان ترکیبیں لکھی گئی ہیں۔ اس کو منگوا کر پڑھیئے۔ اور بلا خوف ہمزاد کو اپنے قبضے میں کر لیجئے۔ چشم زدن میں مشکل کام سرانجام دیجئے۔ ہزاروں کوسوں کی اشیاء میوے پھل ہمزاد کے ذریعے منگوا لیجئے۔ دوسروں کے دلوں کے خفیہ بھید معلوم کر لیجئے۔ جن کو آپ چاہیں۔ اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیجئے۔ تمام دنیا کا حال گھر بیٹھے بذریعہ ہمزاد دیکھ لیجئے۔ غرضیکہ جو کام آپ چاہیں۔ اس غلام بیدام یعنی ہمزاد سے لیجئے۔ جلد منگوا لیں۔ ورنہ ختم ہونے پر دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قیمت معہ محصول ڈاک صرف ۱۲؍

## کرامات

وہ جادو۔ جنتر منتر وغیرہ جنکو آجکل کے لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں ان کو سائنس کے ذریعہ سچ ثابت کر کے دکھلایا گیا ہے۔ جو چاہے آزما کر دیکھ لے۔ یوگ ابھیاس پرانایام کے اصول۔ قوت خیالیہ کے کرشمے۔ دوسروں پر اثر ڈالنا۔ فی الفور پیغام پہنچانا۔ روشن ضمیری۔ نظر بندی۔ مخفی اور دور کی چیزوں کو دیکھنا۔ تسخیر ارواح۔ روحوں سے کام لینا۔ خزانہ تلاش کرنا۔ جادو کے راز۔ علاج روحانی۔ ہاتھ پھیر کر بیمار کو تندرست کرنا۔ مسمریزم کے قواعد۔ علاج بالمس کرنے کے طریقے۔ عملیات تسخیر ہمزاد۔ اسم اعظم۔ سانپ بچھو کا زہر منتر سے دور کرنا اس کے علاوہ سینکڑوں کارآمد باتیں درج ہیں۔ قیمت صرف ( [illegible] )

پتہ ملنے کا
مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس
بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

---

# مسمریزم کے ۴ نایاب تحفے

### پلانچیٹ یعنی بے جان منشی



تجربہ بتلا رہا ہے کہ زمانہ حال کے عالمان مسمریزم نے اپنی عجیب ایجادوں سے ایک عالم حیرت میں ڈال دیا ہے وہ وہ باتیں جن کے وجود سے ہی کسی وقت انکار تھا یا جن کو لوگ بھوت پریت کی کرامات سمجھ کر افسوں کی ترکیبیں خیال کرتے تھے آج وہ تمام باتیں علم مسمریزم کی بدولت آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ آلہ جس کو پلانچیٹ کہتے ہیں۔ اس پر حسب ترکیب کچھ عرصہ مشق کرنے کے بعد اس پر ہاتھ رکھنے سے عامل دل کی مخفی باتیں اور انسان کے نیک و بد انجام معلوم کر سکتا ہے۔ یہ آلہ مسمریزم کی ایک عجیب و غریب ایجاد ہے۔ اس کو منگوا کر اور کچھ دیر تک مشق رکھ کر قدرت کے عجائبات دیکھیں۔ قیمت معہ محصولڈاک دو روپیہ آٹھ آنہ ( [illegible] )

### سلیمانی انگوٹھی ۱۴؍

علوم نادرہ کے شائقینوں! یہ انگوٹھی علم مسمریزم کے اصول پر تیار ہوتی ہے۔ جس کی زیادہ تعریف فضول ہے۔ صرف اسقدر بتلا دینا ضروری ہے۔ کہ حسب ہدایت اس پر عمل کرنے سے عامل بذریعہ معمول مردہ روحوں سے ملاقات۔ گمشدہ چیزوں کا پتہ نشان۔ چوری گئی ہوئی چیز کے ملنے نہ ملنے کا حال۔ بیمار کی حیات و ممات کا پتہ معلوم کر سکتا ہے وہ دور افتادہ دوستوں کی ملاقات [illegible] متبرک [illegible] کی زیارت۔ بچھڑے ہوؤں کو ملانے اور خفیہ راز کا پردہ اٹھانے کے لئے یہ انگوٹھی معجزہ کا کام دیتی ہے [illegible] قیمت صرف معہ محصولڈاک [illegible] ۱۴؍

### قوت جاذبہ پیدا کرنیکا مقناطیسی آلہ

قیمت ۳؍



علم مسمریزم کے شائقینو! اپنے خیالات کو ایک نقطہ مرکز پر جمع کرنے کی مشق کے واسطے یہ آلہ منگوا چند روز تک حسب ہدایت خلوت میں بیٹھ کر اس پر مشق کرنے سے عامل کے اندر کشش مقناطیسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ انسان مسمریزم کا عامل بن کر حیرت انگیز کرشمات و معجزات دکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ قیمت [illegible]

### کراماتی آئینہ



شائقینو! یہ وہ کراماتی آئینہ ہے جس پر ہر شخص حسب قاعدہ مشق کر کے ہر امر کی عقدہ کشائی کر سکتا ہے مفقود الخبروں کا پتہ اور گمشدوں کا نشان بتلا سکتا ہے۔ عالم ارواح کی سیر اور [illegible] غیروں کی روحوں سے شرف نیاز حاصل کر سکتا ہے۔ اس آئینہ میں کوئی بھوت پریت بند نہیں۔ بلکہ علم مسمریزم کے نادر اصولوں اور یوگ فلاسفی کی ترکیبوں کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے جو اپنی مقناطیسی طاقت سے ہر شخص کو روشن ضمیر بنا کر یاس المرادوں کو بامراد بنا دیتا ہے۔

قیمت معہ محصولڈاک ایک روپیہ دس آنہ ( [illegible] )

پتہ ملنے کا:- دی مسمریزم ایجنٹس کمپنی ماڈل ٹاؤن لاہور

محصول ڈاک سب کا بذمہ خریدار ہوگا

# صنعت وحرفت کی بے نظیر کتابیں!

جن کے مطالعہ سے ہزاروں بیروزگار لوگ کاروبار میں لگ گئے اور ہزاروں روپیہ پیدا کیا

## ہر قسم کے صابن بنانا

[illegible] اس کتاب میں روزمرہ کے استعمال کے انگریزی صابن۔ کپڑا دھونے کے مختلف اقسام کے انگریزی صابن۔ ادویات کے صابن۔ بازاری صابن اور دوسرے سینکڑوں طرح کے صابن تیار کرنے کے لئے نہایت سہل و آسان نسخے درج کئے گئے ہیں۔ ہر شخص خود بخود گھر بیٹھے ہر طرح کا صابن تیار کر کے نفع اٹھا سکتا ہے۔ اس میں بڑے سرمایہ کی ضرورت نہیں۔ سو دو سو روپیہ ماہوار کما لینا معمولی بات ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے (۸)

## رفیق بے روزگاری یعنی لاکھوں روپیہ پیدا کرنے کا راز

اس کتاب میں لائق مصنف نے صدہا ہنروں کے آزمودہ اور مجرب نسخہ جات اس خوبی سے درج کئے ہیں۔ کہ بیان سے باہر ہے۔ اگر آپ ان ہنروں میں سے ایک دو ہنر بھی مکمل سیکھ کر کام شروع کر دیں۔ تو دنوں میں لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں۔ کتاب کیا ہے۔ صنعت وحرفت کا ذخیرہ ہے۔ اس میں فوٹو گرافی۔ گھڑی سازی۔ گلٹ سازی۔ دنداں سازی۔ بسکٹ و مربے بنانا۔ ہر قسم کی سیاہیاں تیار کرنا۔ ہر قسم کا انگریزی و دیسی صابن بنانا۔ شیشے کی [illegible] کا کام۔ کارنش سازی۔ رنگسازی۔ انگریزی مٹھائیاں تیار کرنا۔ ہر قسم کے عطر۔ تیل۔ عرق۔ شربت۔ معجون۔ اچار۔ چٹنی۔ مربے بنانا۔ [illegible] کا کام۔ چمڑے کے سامان تیار کرنے کے طریقے۔ گندھک کا [illegible]۔ پارے کی گولی۔ [illegible] بنانا۔ پچاس بیماریوں کی ایک ہی دوائی کا کامل نسخہ۔ ایسے ایسے پانچ سو سے زیادہ ہنر اس کتاب میں درج ہیں۔ جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیمت صرف دو روپے (عار)

## دستاویز نویسی کا اُستاد

اس کتاب میں ہر قسم کی دستاویزات۔ انشام۔ ہنڈی۔ رہن نامہ۔ بیعنامہ۔ وصیت نامہ۔ بیمہ۔ پرونوٹ۔ رسوم اسٹامپ کے متعلق وغیرہ وغیرہ اس خوبی سے درج کئے گئے ہیں۔ کہ جن کے مطالعہ سے ایک معمولی لکھا پڑھا آدمی بھی کامل وثیقہ نویس بن جاتا ہے۔ تمام کاروباری لوگ۔ زمیندار۔ سیٹھ۔ ساہوکار۔ تعلقدار وغیرہ اس کتاب کی ایک جلد ضرور اپنے پاس رکھیں۔ صدہا لوگ اس کتاب کی مدد سے اول درجہ کے عرضی نویس بن کر سینکڑوں روپیہ ماہوار کما رہے ہیں۔
قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

## سونے کی چھپائی

صنعت وحرفت کے بہترین اور سستی کتاب ہے۔ اس میں ہر قسم کے [illegible] سونے [illegible] بنانا [illegible] نہایت سہل طریق [illegible]

## ہر قسم کی سیاہیاں بنانا

### یعنی ماسٹر آف انک

اس رسالہ میں ہر قسم و ہر رنگ کی سیاہیاں مختلف ترکیبوں سے مکمل درج کئے گئے ہیں لکھنے کی سیاہیوں کے علاوہ دوسری قسم کی سیاہیاں مثلاً پرنٹنگ انک۔ کاپنگ سیاہی۔ سنہری و روپہلی سیاہی۔ کپڑا بنانے کی سیاہیاں۔ خفیہ تحریر کیلئے جادو کی سیاہیاں جن کا لکھا دوسرا کوئی نہ پڑھ سکے۔ ربڑ کی مہر کیلئے سیاہی وغیرہ وغیرہ سینکڑوں نسخے آزمودہ درج ہیں۔ ہزاروں روپیہ پیدا کرنے کا ذریعہ۔ قیمت ۱۲

## موٹر ڈرائیوری کا اُستاد

اس رسالہ میں ہر قسم کی موٹروں کا مفصل بیان۔ ان کے نقشے۔ پرزوں کے نام۔ موٹر مرمت کرنے کے طریقے۔ موٹر کو چلانے کا طریقہ۔ موٹر کو اوور ہال کرنا وغیرہ وغیرہ موٹر ڈرائیوری کے متعلق نہایت کارآمد ضروری باتیں درج ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہر ایک شخص موٹر ڈرائیور بن سکتا ہے۔ اور موٹر مرمت کر سکتا ہے۔ غرضیکہ یہ رسالہ اس فن کا کامل استاد ہے۔
قیمت صرف دو روپے (عار)

## بجلی ماسٹر با تصویر

آج کل ہندوستان میں بجلی کا عام رواج ہو رہا ہے۔ اس کام کے جاننے والے ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں۔ اس لئے ہم نے لوگوں کے فائدہ کیلئے بجلی کے کام کے متعلق یہ کتاب نہایت محنت سے تیار کی ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہر ایک شخص بجلی کے ہر قسم کے کام مثلاً مکانوں میں بجلی لگانا۔ بجلی کے پنکھے لگانا۔ بجلی کے پنکھوں کی مرمت کرنا۔ بجلی کی روشنی کے نقائص دور کرنا۔ بیاہ شادی کے موقعہ پر بجلی کی روشنی کرنا۔ بجلی کے ذریعہ کمروں کو سردی کے موسم میں گرم کرنا۔ موٹر کار کی بجلی درست کرنا۔ بجلی کے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنے کی مشین لگانا وغیرہ وغیرہ آدمی خود بخود بلا امداد استاد کامل مہارت حاصل کر کے مکمل بجلی ماسٹر بن سکتا ہے۔ قیمت صرف دو روپیہ (عار)

## جڑی بوٹیوں کے خواص

اس کتاب میں ہر قسم کی جنگلی جڑی بوٹیوں کی تصویریں۔ ان کے خواص۔ بوٹیوں کی شناخت کرنے کے لئے ان کے رنگ۔ بو۔ پھول۔ پتے کا بیان۔ مختلف زبانوں میں ان کے نام۔ پیدا ہونے کی جگہ۔ جس جس مرض کیلئے وہ کارآمد ہے۔ اس کا بیان اور جو مضرات ان کے ذریعہ [illegible] ہو سکتی ہیں ان کا مفصل حال درج ہے۔ ہر ایک حکیم و وید کیلئے اس کتاب کا پاس رکھنا لازمی ہے۔
قیمت صرف بارہ آنے (۱۲)

## رہنمائے عطاراں

اس کتاب میں ہر قسم کے عرق۔ شربت۔ معجون۔ گلقند۔ مفرح۔ یاقوتی اور دیگر ادویات کے تیار کرنے کی ترکیبیں درج ہیں۔ قیمت بارہ آنے ۱۲

## کامل حکیم

اس کتاب میں ہر ایک مرض کے نہایت پرتاثیر خاص خاص پیٹنٹ نسخہ جات بڑی محنت و کوشش سے بڑے بڑے لائق حکما اور وید صاحبان سے حاصل کر کے درج کئے گئے ہیں۔ ہزاروں مریضوں پر آزمائش شدہ نسخے جو کبھی خطا نہیں کرتے۔ آپ کو اس کتاب میں ملیں گے
قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

## عطر سازی

اس رسالے میں ہر قسم کے خوشبودار تیل۔ لیونڈر۔ سنو۔ فیس کریم۔ ویزلین تیار کرنے کی ترکیبیں درج ہیں۔ قیمت صرف [illegible]

## فوٹوگرافی

اس کتاب میں فن فوٹوگرافی کا مفصل بیان ہے۔ تصویر اتارنے کے طریقے پلیٹ اور فلم کو دھونا۔ پھر تصویر کو کاغذ پر اتارنا۔ تصویر کو چمک دینا۔ ماؤنٹ کرنا۔ کیمرے کا استعمال۔ کیمرے کے نقص درست کرنا۔ ہر قسم کے ہینڈ و سٹینڈ کیمرہ سے کام لینا۔ فوٹوگرافی میں کارآمد ادویات کے نام۔ ان کو ملا کر کام میں لانے کے طریقے وغیرہ مفصل درج ہیں۔ اس کے مطالعہ سے آدمی مکمل فوٹوگرافر بن کر ہزاروں روپے کما سکتا ہے۔
قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

## حلوائی کا کام

اس میں دیسی مٹھائی ہر قسم کی بنانے کی ترکیبیں درج ہیں۔ جن کے مطالعہ سے آدمی لائق حلوائی بن سکتا ہے۔
قیمت آٹھ آنے (۸)

## انگریزی مٹھائیاں بنانا

اس کتاب میں ہر قسم کی انگریزی مٹھائیاں بنانے کے اصول مفصل طور پر درج ہیں۔ قیمت ایک روپیہ (عہ)

پتہ
ملنے کا۔ مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

دوا منگانے کا پتہ:- بابو شیام لعل جی رتن پریم بٹی آفس کنچوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو-پی)

گورنمنٹ سے رجسٹری کی ہوئی

# اپنے جیون کی پریم بٹی

آجکل ہمارے بہت سے بھائی ٹھیک دوا نہ ملنے کی وجہ سے خوفناک مرض کے شکار بن جاتے ہیں۔ بیچاروں کے پاس اتنی دولت کہاں؟ جو ڈاکٹروں کو فیس دیکر اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں، بیچارے اجنبی سینکڑوں تعریفوں سے بھری ہوئی اشتہار بازی میں پھنسکر اپنی تندرستی و دولت دونوں کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی خیال سے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کا خیال کر کے آپکو جلد از جلد جادو اثر دکھانے والا نسخہ بتاتا ہوں جس سے کہ میں خود صحتیاب ہوا ہے۔ ہمارے امیر و غریب سبھی بھائی بنا کر فائدہ اٹھاویں اور میری محنت کو کامیاب بنا دیں۔ یہ نسخہ لینے او پہلی تجربہ ہونے پر حاصل ہوا تھا۔ میں ایک زمیندار کا لڑکا ہوں بری صحبت کی وجہ سے جریان و احتلام کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پہلے تو میں نے ایک دو سال تک کوئی فکر نہ کی اور شرم کی وجہ سے کسی سے اپنا حال نہیں بتایا، تھوڑے عرصہ بعد اس جریان و احتلام کی بیماری نے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ اب تو مجھے ہوش آیا، اور علاج کرانا شروع کیا، کہاں تک لکھوں ویدوں۔ ڈاکٹروں حکیموں و بڑے بڑے نامی دوا خانوں سے دوائیاں منگا کر استعمال کیں یہاں تک کہ جس نے جو دوا بتائی وہی میں نے کھائی مگر مرض چھوڑنے کی بجائے بڑھتا ہی گیا۔ اور میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مجھے اپنی اس حالت پر بڑا ہی رنج معلوم ہوتا تھا۔ یہی سوچا کرتا کہ میں شروع ہی میں اپنا علاج کراتا یا دوستوں سے بتاتا تو مجھے یہ تکلیف نہ برداشت کرنا پڑتی ہمارے یہاں ایک میل کے فاصلے پر کچی اینٹوں کا اونچا بھاری کھیڑا ہے۔ اسی کھیڑے پر کبھی کبھی سادھو مہاتما آگنتے ہیں۔ اتفاق سے اسی کھیڑے پر کاٹھیاواڑ کے ایک پہنچے مہاتما جی آگزرے اور ایک جھاڑی میں آسن لگائے ایشور کی یاد میں مست بیٹھے تھے۔ کچھ لڑکوں نے وہاں دیکھ کر گاؤں میں شہرت پھیلا دی کہ ایک پہنچے ہوئے مہاتما جی کھیڑے پر آئے ہیں۔ یہ سن کر گاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں کے بھی لوگ انکے درشن کو جانے لگے۔ ایک دن میں بھی اُن کے درشن کے لئے وہاں گیا مہا درشن ہونے پر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹا تم اتنے زیادہ کمزور و دکھی کیوں دکھائی پڑتے ہو؟ تب میں نے اپنی بیماری کا کل حال بتایا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا اور مجھے ایک نسخہ بتایا جو کہ یہ تھا:

دوا منگانے کا پتہ۔ بابو شیام لعل جی رئیس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

۔۔ اصلی تازہ ترپھلا کا چورن پانچ (۵) تولہ، اصلی شیریہ ناپی شلاجیت ڈھائی ۲½ تولہ، اصلی بنگ بھسم چھ ماشے، اصلی سورن چھاپ کیسر چھ ماشے، اصلی اکرقرحا چھ ماشے، اصلی نیپالی کستوری نو ۹ رتی سب دوائیوں کو خوب پیس کر کپڑے سے چھان کر کھرل میں ڈال کر اوپر سے تیل کویو اکشتیل چینی کا تیل ۲۰ بوند، تل کچے واد بہروزہ کا تیل ۲۰ بوند، تیل صندل (چندن) کا تیل ۲۰ بوند ڈال کر برہمی بوٹی کے عرق میں ۱۲ گھنٹے گھوٹ کر جھربیری کے بیر کے برابر گولی بنا کر سایہ میں سکھا کر رکھ لے ایک گولی صبح ایک گولی شام کو گائے یا بکری کے پاؤ بھر دودھ میں ۲ دو تولہ شکر ڈال کر پی لے۔ میں ۲۰ روز میں ایشور کی کرپا سے اسی دوا سے صحتیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ اتنا عرصہ گذرا مجھے ذرا بھی شکایت نہیں ہوئی۔ اور اسی پرم پتا کی کرپا سے تین بچے بھی ہیں جو کہ بالکل تندرست ہیں۔ اس وقت سے میں یہی نسخہ لوگوں کو تیار کر کے دام کے دام پر اپنے آس پاس کے گاؤں میں دیتا رہا جس سے سینکڑوں بھائیوں کو فائدہ پہنچا۔ اور مرادیں پوری ہوئیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بھائیوں نے کہا بابو جی اسے ملک کی بہتری کے لئے اخباروں میں چھپوا دیجئے تب میں نے جواب دیا کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں۔ ویدوں و حکیموں نے اسی احتلام و جریان کے مرض پر سینکڑوں اشتہار چھپوائے مگر لوگ ان کو جھوٹا سمجھ کر کچھ خیال نہیں کرتے تو میں ہی کیا کر سکتا ہوں لیکن اپنے سینکڑوں فائدہ پائے ہوئے بھائیوں اور میں نے بھی اپنی زندگی پا جانے کی خوشی میں ملک کی بہتری سمجھ کر اس چھوٹے سے پرچے کو چھپوا کر اور اپنے آدمیوں کو کرایہ دے کر ہندوستان کے ہر شہر قصبے و دیہاتوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دوا منی کے پتلا پن۔ بیسوں قسم کے جریان۔ پیشاب کے ساتھ چونے کی طرح منی کا خارج ہونا۔ پاخانے کے وقت منی کا گرنا۔ خواب ہو جانا سوزاک۔ کمزوری۔ جوانی میں بڑھاپے کی سی حالت، اصلی طاقت کی کمی معلوم ہونا۔ سوچنے کی طاقت کا کم ہو جانا وغیرہ نامردی کو دور کر کے بدن میں انتہائی طاقت پیدا کر جوانی کا مزہ جسم کی رگ رگ میں بھر سکتی ہے۔ جو بھائی بنانا چاہیں اوپر کے لکھے نسخے کے مطابق تیار کر لیویں۔ جو چیز آپ کے یہاں نہ مل سکے، تو بابو شیام لعل جی رئیس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ، یو۔پی سے منگالیں۔ کیونکہ ان دوائیوں کی سخت ضرورت سمجھ کر اور بھائیوں کو پاک و تازہ دوائی ٹھیک وقت پر نہ ملنے سے ہم نے ان سبھی دوائیوں کا تھوک مال رکھنے کا انتظام کر لیا ہے، ہمارے یہاں بھی دوائیاں کیسر، کستوری، شلاجیت، بنگ بھسم وغیرہ پاک اور تازی ہر وقت تیار ملتی ہیں۔ جن بھائیوں کو بنانے میں تکلیف ہو وہ ہمارے یہاں سے بنی بنائی منگالیں۔ چالیس گولیوں کا ایک خوبصورت پیکٹ جس کی قیمت دام کے دام پر صرف دو روپیہ (عہ) تین پیکٹ کی پانچ روپیہ (صہ) چھ پیکٹ کی قیمت نو روپیہ

ڈاک خرچ معاف منی آرڈر فیس ۲ر اوپر لکھے ہوئے پتے سے منگائیے۔

دوا منگانے کا پتہ

بابو شیام لعل جی رئیس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

گورنمنٹ سے رجسٹری کی ہوئی

# کام سندری بٹی

کام سندری بٹی ایک فقیر نے جنگل پہاڑوں کی بیلا از جلد فائدہ دکھانے والی جڑی بوٹیوں سے تیار کر کے دکھیوں کو سکھی کرنے کے لئے مجھ کو بتلائی ہے۔ جو لوگ بچپن میں بری نا سمجھی و بری صحبت میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کر دنیاوی سکھوں سے نا امید ہو چکے ہوں۔ اس سے تکلیف بھری زندگی بسر کرنے والوں کے جسم میں نئی زندگی پیدا کر کے نامردوں کو مرد بناتی ہے۔ پوشیدہ مقام کی کمزور مردا ور رگیں طاقت کے جوش میں پھڑک اٹھتی ہیں۔ باریک ہوئی نسیں اور برسوں کی مرجھائی ہوئی طبیعت کھلا کر انسان کے جسم میں نوجوانی کی طاقت بھر جاتی ہے۔ اس کی گولی کھا کر آپ جس عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ...... وہ آپ کی خادم بن جائے گی۔ حقیقت میں عورتوں کے لئے یہی ایک دوا لیشی کرن منتر ہے۔ آپ جب تک نہیں چاہیں گے انزال نہیں ہو سکے گا اور نہ آپ کو کسی قسم کی سستی یا تھکاوٹ ہی معلوم ہوگی۔ اس دوا سے ہزاروں آدمیوں کو جو دنیاوی سکھ سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے پھر سے ایک مرتبہ جوانی کے نئے نئے رنگ میں رنگ دیا ہے سینکڑوں بھائیوں کے آئے ہوئے شکریہ و تعریفوں سے بھرے ہوئے خطوط اس دوا کی بھلائی کے ثبوت ہیں۔ اس دوا کے استعمال کرنے سے پرانے سے پرانا پرمیہ، کمزوری، خواب کا ہو جانا، سستی، منی کا گرنا، کمزوری کی وجہ سے مرضی کے موافق کام ٹھیک ٹھیک نہ ہونا۔ بدن میں ڈھیلا پن، ناطاقتی، پاخانہ ہوتے وقت گردہ منی کا گرنا، نامردی، جلد انزال ہو جانا وغیرہ کی وجہ سے مایوسانہ زندگی بسر کرتے ہوں۔ ایسے مریضوں کو **کام سندری بٹی** ہر شٹ پشٹ کر سارا جسم اکھوڑے کی طرح چھلکے گا اور ہر ایک نسوں میں بجلی کی طرح طاقت پیدا کر کے جوانی کی لہریں بدن کی نس نس میں [illegible] خوبصورت اولاد پیدا کرتی ہے۔ عورتوں کی ہر قسم کی بیماری، حمل گرنا، ماہواری کم یا زیادہ ہونا وغیرہ دور کر کے حمل ٹھہرانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ قیمت ایک پیکٹ ۲ دو روپے، تین پیکٹ کی قیمت پانچ روپیہ [illegible] چھ پیکٹ کی قیمت (للعہ) نو روپیہ، ڈاک خرچ چھ پیکٹ تک (۲) دو آنہ۔ نقالوں سے ہوشیار (زیادہ بکری) دیکھ کر لوگوں نے نقل کی ہے۔

دوا منگانے کا پتہ:- **وید رتن شری ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبر ۱ کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)**

مردوں کو مرد بناتا ہے

## طلاء مستانہ

بچپن کی جہالت سے خلاف قدرت بری عادتوں میں پڑ کر جلق میں مبتلا ہو جانے سے یا شہوت کی کثرت سے اعضاء تناسل کمزور [illegible] ہو گئے یا پتلے کا حصہ موٹا حصہ پتلا پڑ گیا ہو، قوت مردمی زائل ہو گئی ہو، مردمی چلی گئی ہو اور زندگی بیکار معلوم ہوتی ہو، اوجہ اعضاء تناسل کے ٹیڑھا ہونے کے جو دوائی تک منی کے منہ نہ پہنچنے پر حمل قائم نہ ہو اور اولاد ہونے میں خلل پڑتا ہو، تو طلاء مستانہ کی مالش سے اصلی تیزی و سوار رگوں میں قوت دیکر سست طاقت کو بڑھا کر اصلی نوجوانی کا لطف عطا کرکے مستانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ قیمت فی شیشی (عہ) دو روپیہ آٹھ آنہ۔ ڈاک محصول معاف۔

چہرے کو خوبصورت بنانے والا

## روپ بلاس

دنیا میں مشہور ہے کہ منہ کے لگانے سے چہرے کے کالے داغ، مہاسے، جھائیں، پھنسی، خشکی، بدرونقی، جھریاں، چہرے سے جلد آرام ہو جاتی ہیں۔ چند روز کے استعمال سے مرجھایا چہرہ چاند کی طرح چمکدار ہو کر [illegible] چہرہ پر دیکھنے لگتی ہے۔ کیسا ہی بدصورت بے رونق انسان کیوں نہ ہو اس کے لگانے سے چہرہ کنول کے پھول کی مانند کھل اٹھے گا۔ اگر آپ اپنا چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو آج ہی روپ بلاس خرید کر دیکھیے۔ یہ **روپ بلاس** مرد عورت دونوں کو خوش کرنے والا ہے۔ اس کی خوشبو بھی نہایت پیاری ہے۔ طبیعت مست کر دیتی ہے۔ قیمت فی ڈبیہ (عہ) ایک روپیہ دس آنے۔ ڈاک محصول معاف۔

دوا ملنے کا پتہ

**وید رتن شری ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبر ۱ کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)**

دوا منگانے کا پتہ: سویدرتن شری ستیہ دیوجی روپ بلاس کمپنی نمبرا کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔ پی)

## منموہنی تیل

اس تیل کو سر میں لگاتے ہی آپ کی طبیعت مست ہو کر خوشبو سے بھر جاویگی اور مدھر مدھر ہری بھری بھینی خوشبو سے خوش ہو کر پاس کے بیٹھے ہوئے دوستوں کا دل لوٹ پوٹ ہو جاویگا۔ تیل لگا کر جس راستہ سے آپ نکل جاوینگے۔ وہاں کے بیٹھنے والوں کو تعجب ہوگا۔ کہ یہ عجیب بہار اور دلکش خوشبو کس باغیچہ سے آرہی ہے۔ اس کے استعمال سے سر گھومنا، دماغ کی کمزوری، درد سر، بال جھڑنا، کم عمری میں بال پکنا، مغز میں خشکی رہنا۔ وغیرہ فوراً اچھا ہوتا ہے۔ وہ سر کے بالوں کو گھنا کر کے چمکدار بناتا ہے۔ اور مغز کو برف کی طرح ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ تیل کمپنی باغ کے بہت بڑھیا تازے پھولوں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس لئے سب لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ چار شیشی منگانے سے ایک شیشی انعام۔ ڈاک خرچ بذمہ خریدار۔

## کنٹھ پپیہا

اس کے کھانے سے کوئل کے موافق رس بھری مدھر منوہر سُریلی رنگیلی اور منموہنی آواز ہوتی ہے۔ کھاتے ہی جلد گلا صاف کر کے کھانسی دور کرتی ہے۔ گانے والے اپدیشک۔ کتھا باچنے والے پنڈت، ناٹک منڈلی، رام لیلا، راس لیلا، رامائن پڑھنے والوں کو ہمیشہ پاس رکھنی چاہئے۔ بین گانے والے شوقینوں کو اپنی رنگیلی۔ رسیلی، سُریلی اور میٹھی آواز کرنا ہو ان کو "کنٹھ پپیہا" منگا کر ضرور استعمال کرنا چاہئے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ ڈاک خرچ معاف۔

## سوزاک بندو

یہ ہزاروں بار کی آزمودہ اکسیر دوا ہے۔ کھاتے ہی فوراً آرام کرتی ہے۔ کیسا ہی پیپ، مواد آتا ہو یا کپڑے میں داغ پڑ جاتا ہو پیشاب کرنے میں سخت جلن اور درد ہوتا ہو۔ کبھی کبھی خون ملا پیشاب ہوتا ہو۔ پیشاب بوند بوند اترتا ہو۔ بدن پیلا اور کمزور ہو گیا ہو۔ تھوڑا تھوڑا پیشاب رک رک اور جلن کے ساتھ اترتا ہو اور جریان ضعف باہ بھی رہتی ہو۔ برسوں کا پرانا یا نیا سوزاک کیوں نہ ہو پہلی ہی خوراک کھانے سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ اور زندگی بھر آرام ملتا ہے۔ قیمت فی شیشی عہ ڈاک محصول معاف۔

## ناری سنجیون

یہ دوا خاص عورتوں کیلئے تیار کی گئی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے جریان، دھات چھین ہو، درد، پرمیہ ہونے سے اولاد ہی نہیں ہوتی اور ہمیشہ سفید یا لال، پیلا پانی کا فساد بنا رہتا ہے، مہینہ ٹھیک وقت پر نہ ہونے سے سر درد، بھوک کم لگنا، کلیجہ میں جلن، بدن دبلا پتلا، کمر اور پیڑو میں درد، تھکیل اور پیر کے تلوؤں میں جھنجھناہٹ، دل میں اداسی بنی رہتی ہے اور اولاد ہونے پر بھی کمزور اور تھوڑے روز زندہ رہتی ہے یا ہو کر مر جاتی ہے جس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ہم نے بہت دنوں کے تجربہ سے اس دوا کو ایجاد کیا ہے اس دوا کے استعمال سے عورتوں کا جریان، پردر، دھات چھین آرام ہو کر مہینہ ٹھیک وقت پر ہوتا ہے اور بدن میں بخوبی طاقت آتی ہے۔ دوسرے اولاد تندرست پیدا ہوتی ہے۔ قیمت فی شیشی دو روپیہ آٹھ آنہ عہ ڈاک خرچ معاف۔

## چندر پرکاش سرمہ

یہ سرمہ ترپھلے کے عرق میں بجھا کر دو مہینہ کیلا کے درخت میں دو مہینہ نیب کے درخت میں گاڑ کر پیسا گیا ہے۔ اس کے بعد اصلی گلاب کے عرق میں اصلی موتی ہیرا وغیرہ بہت قسم کے مصالحہ اور جنگلی جڑی بوٹیوں اور پتیوں کے عرق میں ڈال کر ایک مہینہ برابر گھونٹا گیا ہے۔ اس کے لگانے سے آنکھوں میں طاقت اور نئی روشنی پیدا ہوتی ہے ایک سلائی لگاتے ہی آنکھوں کی تھکاوٹ دور کرتا ہے۔ اور تراوٹ لاتا ہے۔ جن صاحبوں کو دن رات میں آنکھوں سے زیادہ کام لینا پڑتا ہو۔ انکو "چندر پرکاش سرمہ" ضرور لگانا چاہئے۔ یہ آنکھوں کی کل بیماریوں کو دور کرتا ہے جیسے لالی۔ دھند۔ ڈھلکا، ناخونہ، کیچڑ نکلنا، زیادہ دیکھنے سے آنکھوں میں تلملاہٹ اور پانی بھر آنا، روشنی کم ہونا، کھجلاہٹ، نزلہ وغیرہ کو آرام کرتا ہے اس سرمہ کا نسخہ بادشاہی زمانے کے بہت بڑے تجربہ کار حکیم نے میرے بابا کو بتایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سرمہ پانچسو روپیہ تولہ فروخت کیا جائے تو بھی کم قیمت ہے۔ قیمت فی شیشی عہ ڈاک خرچ معاف۔

## بال صفا سندری صابون

اس کو بالوں پر لگاتے ہی فوراً بال صاف ہو جاتے ہیں اور وہ جگہ بالکل صاف چکنی لائم نکل آتی ہے۔ گویا بال کبھی جمتے ہی نہ تھے، اگر تیز استرے سے بھی صاف کیا جائے تو ایسی صفائی نہیں ہوتی۔ اس سے نہ چمڑا پھٹتا ہے نہ جلن ہوتی ہے۔ چاروں طرف صفائی نظر آتی ہے قیمت فی چکتی چار آنے چھ چکتی عہ ایک درجن عہ ڈاک محصول ذمہ خریدار۔

دوا منگانے کا پتہ

ویدرتن ستیہ دیوجی روپ بلاس کمپنی نمبرا کنجوسی بازار اٹاوہ (یو۔پی)

## فہرست عام تعطیلات صوبہ پنجاب بابت سنہ ۱۹۳۶ء

| نام تہوار | تاریخ انگریزی | نام یوم | تعداد تعطیل | کیفیت |
|---|---|---|---|---|
| نیو ایرس ڈے | یکم جنوری | بدھ وار | ۱ یوم | عدالت ہائے دیوانی میں بھی تعطیل ہوگی |
| [illegible] گورنر جنرل | یکم جنوری | بدھ وار | ۱ یوم | |
| چاند گرہن | ۹ جنوری | برہسپت وار | ۱ یوم | |
| لوہڑی | ۱۳ جنوری | سوموار | ۱ یوم | |
| بسنت پنچمی | ۲۸ جنوری | منگلوار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| شیوراتری | ۲۱ فروری | شکروار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| عید الضحیٰ | ۵ مارچ | برہسپت وار | ۱ یوم | عدالت ہائے دیوانی میں بھی تعطیل ہوگی |
| ہولی | ۶ تا ۸ مارچ | شکر تا اتوار | ۳ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| سوم وتی اماوس | ۲۳ مارچ | سوموار | ۱ یوم | |
| درگا اشٹمی | ۳۰ مارچ | سوموار | ۱ یوم | |
| محرم | ۲ تا ۴ اپریل | برہسپت تا شنیچر | ۳ یوم | عدالت ۳ یوم دیوانی میں |
| بیساکھی | ۱۲-۱۳ اپریل | اتوار | ۱ یوم | عدالت ہائے دیوانی میں بھی تعطیل ہوگی |
| ایسٹر ہالیڈیز | بموجب گزٹ | شکر تا سوم | ۴ یوم | عدالت ہائے دیوانی میں ۴ یوم |
| آخری چہار شنبہ | ۲۰ مئی | بدھ وار | ۱ یوم | |
| امپائر ڈے | ۲۴ مئی | اتوار | ۱ یوم | عدالتوں میں بھی تعطیل ہوگی |
| نرجلا ایکادشی | ۳۱ مئی | اتوار | ۱ یوم | |
| سالگرہ شہنشاہ ہند | ۳ جون | بدھ وار | ۱ یوم | عدالت ہائے دیوانی میں بھی تعطیل ہوگی |
| بارہ وفات | ۳ جون | بدھ وار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| سورج گرہن | ۱۹ جون | شکروار | ۱ یوم | |
| بنک ہالیڈے | ۳۰ جون | منگلوار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| بیاس پوجا | ۴ جولائی | سنیچروار | ۱ یوم | |
| چاند گرہن | ۵ جولائی | اتوار | ۱ یوم | |
| رکھڑی | ۳ اگست | سوموار | ۱ یوم | عدالتوں میں بھی تعطیل ہوگی |
| جنم اشٹمی | ۱۰ اگست | سوموار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| سوم وتی اماوس | ۱۷ اگست | سوموار | ۱ یوم | |
| تعطیلات موسم گرما | یکم ستمبر تا ۳۰ ستمبر | منگلوار تا بدھ | ایک ماہ | عدالتیں بند رہیں گی |
| درگا اشٹمی | ۲۳ اکتوبر | شکروار | ۱ یوم | |
| دسہرہ | ۲۵ اکتوبر | اتوار | ۱ یوم | عدالت ہائے دیوانی میں بھی تعطیل ہوگی |
| شب برات | ۳۱ اکتوبر | سنیچروار | ۱ یوم | |
| دیوالی | ۱۳ نومبر | شکروار | ۱ یوم | عدالت ہائے دیوانی میں بھی تعطیل ہوگی |
| بھیا دوج ٹکا | ۱۶ نومبر | سوموار | ۱ یوم | |
| [illegible] | ۲۸ نومبر | سنیچروار | ۱ یوم | عدالت میں بھی تعطیل ہوگی |
| جمعۃ الوداع | ۱۱ دسمبر | شکروار | ۱ یوم | |
| عید الفطر | ۱۶ دسمبر | بدھ وار | ۱ یوم | عدالت ہائے دیوانی میں بھی تعطیل ہوگی |
| کرسمس ڈے | ۲۵ تا ۳۱ دسمبر | شکر تا برہسپت | ۷ یوم | عدالتیں بھی بند رہیں گی |

## مقامی تعطیلات در لاہور

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ہولی | ۹ مارچ | سوموار | ۱ یوم | |
| عرس داتا گنج بخش | ۱۳ مئی | بدھ وار | ۱ یوم | |
| میلہ [illegible] | ۱۷ مئی | اتوار | ۱ یوم | |
| میلہ جوڑ میلہ | ۲۴ مئی | اتوار | ۱ یوم | |

(نوٹ) (۱) ہر اتوار کو عام تعطیل ہوتی ہے (۲) ہر ماہ کے آخری سنیچر وار کو سوائے ماہ ستمبر بشرطیکہ کام کی زیادتی نہ ہو بر مرضی حکام تعطیل ہوتی ہے (۳) عدالتہائے دیوانی ماہ ستمبر میں بند رہتی ہیں مگر بر مرضی حکام ایک آدھ یوم پس و پیش ہو سکتا ہے (۴) پنجاب ہائیکورٹ بسبب گرمائی تعطیلات کیلئے وسط جولائی سے آخر ستمبر تک بند رہتا ہے اور بعض حکام کی مرضی سے مقرر ہوتی ہیں (۵) ہر ضلع میں لوکل تعطیلات حاکم صاحب ڈسٹرکٹ جج صادر ہونگی لیکن انکی تعداد ۳ سے زائد نہ ہوگی (۶) عدالت ہائے دیوانی کی تعطیلات کیفیت کے خانہ میں نوٹ کر دیگئی ہیں باقی تعطیلات بر مرضی حکام ہو سکتی ہیں (۷) اہل اسلام کی تعطیلات بوجہ کمی بیشی رویت ہلال ایک یوم پس و پیش ہو سکتی ہیں۔

## فہرست تعطیلات عدالتہائے ممالک متحدہ آگرہ و اودھ سنہ ۱۹۳۶ء

| نام تہوار | تاریخ انگریزی | نام یوم | تعداد تعطیل |
|---|---|---|---|
| نیو ایرس ڈے | یکم جنوری | چہار شنبہ | ۱ یوم |
| چاند گرہن | ۹ جنوری | پنجشنبہ | ۱ یوم |
| سنکرانت مکر | ۱۳ جنوری | دوشنبہ | ۱ یوم |
| مونی اماوس | ۲۵ جنوری | شنبہ | ۱ یوم |
| بسنت پنچمی | ۲۸ جنوری | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| شیوراتری | ۲۱ فروری | جمعہ | ۱ یوم |
| عید الضحیٰ | ۵ مارچ | پنجشنبہ | ۱ یوم |
| ہولی | ۶ تا ۸ مارچ | جمعہ تا یکشنبہ | ۳ یوم |
| آٹھویں کا میلہ | ۱۶ مارچ | دوشنبہ | ۱ یوم |
| سوم وتی اماوس | ۲۳ مارچ | دوشنبہ | ۱ یوم |
| رام نومی | ۳۱ مارچ | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| محرم | ۲۵ مارچ تا ۳ اپریل | چہار شنبہ تا جمعہ | ۱۰ یوم |
| ایسٹر ہالیڈیز | بموجب گزٹ | جمعہ تا دوشنبہ | ۴ یوم |
| [illegible] | ۱۰ مئی | یکشنبہ | ۱ یوم |
| چہلم | ۱۳ مئی | چہار شنبہ | ۱ یوم |
| آخری چہار شنبہ | ۲۰ مئی | چہار شنبہ | ۱ یوم |
| امپائر ڈے | ۲۴ مئی | یکشنبہ | ۱ یوم |
| بارہ وفات | ۳ جون | چہار شنبہ | ۱ یوم |
| سالگرہ شہنشاہ ہند | ۳ جون | چہار شنبہ | ۱ یوم |
| سورج گرہن | ۱۹ جون | جمعہ | ۱ یوم |
| بنک ہالیڈے | ۳۰ جون | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| گیارھویں شریف | یکم جولائی | چہار شنبہ | ۱ یوم |
| بیاس پوجا | ۴ جولائی | شنبہ | ۱ یوم |
| چاند گرہن | ۵ جولائی | یکشنبہ | ۱ یوم |
| ناگ پنچمی | ۲۳ جولائی | پنجشنبہ | ۱ یوم |
| سلونو | ۳ اگست | دوشنبہ | ۱ یوم |
| کرشن جنم اشٹمی | ۱۰ اگست | دوشنبہ | ۱ یوم |
| سوم وتی اماوس | ۱۷ اگست | دوشنبہ | ۱ یوم |
| اننت چتردشی | ۳۱ اگست | دوشنبہ | ۱ یوم |
| تعطیل کلاں | [illegible] | [illegible] | ایک ماہ |
| تعطیل کلاں | [illegible] | [illegible] | ایک ماہ |
| مہالیہ اماوس | ۱۵ ستمبر | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| ولادت علی المرتضیٰ | ۲۹ ستمبر | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| شب معراج | ۱۳ اکتوبر | سہ شنبہ | ۱ یوم |
| دسہرہ | ۲۵ اکتوبر | دوشنبہ | ۱ یوم |
| شب برات | ۳۱ اکتوبر | شنبہ | ۱ یوم |
| دیوالی | ۱۳ نومبر | جمعہ | ۱ یوم |
| دیو اٹھانی | ۲۵ نومبر | چہار شنبہ | ۱ یوم |
| کاتکی اشنان | ۲۸ نومبر | شنبہ | ۱ یوم |
| جمعۃ الوداع | ۱۱ دسمبر | جمعہ | ۱ یوم |
| عید الفطر | ۱۶ دسمبر | چہار شنبہ | ۱ یوم |
| کرسمس ڈے | ۲۵ تا ۳۱ دسمبر | جمعہ تا پنجشنبہ | ۷ یوم |

(نوٹ) (۱) ہر یکشنبہ کو عام طور پر تعطیل ہوتی ہے (۲) ہر ماہ کے آخری شنبہ کو بھی عدالت دیوانی بند رہتی ہے۔ (۳) اہل اسلام کے تہواروں کی تعطیلیں بحساب رویت قمر ایک یوم پس و پیش ہو جاتی ہیں۔ (۴) چونکہ جنتری چھپتے وقت سرکاری گزٹ کی تعطیلات شائع نہیں ہوئیں۔ اس لئے بلحاظ تہواروں کے تعطیلات فہرست میں درج کی جاتی ہیں۔ (۵) لوکل تعطیلات بر مرضی حکام ہو سکتی ہیں۔

## کوڑیوں کے مول موتی

مندرجہ ذیل چیزیں ہم نے شائقین کی صدہا فرمائشوں اور ان کے بار بار اصرار پر خاص اہتمام سے بذریعہ عامل عطر و تعویذ یا نقش زیر کواکب کی سعادت کو مدنظر رکھ کر بہت تھوڑی سی تعداد میں تیار کی ہیں اس لئے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو۔ فوراً منگالیں۔

### ۱۔ محبت کا کاجل

یہ کاجل تیز دوا یا ستاروں کی رفتار کو مدنظر رکھ کر خاص ساعت پر تیار کیا گیا ہے جو شائقین کے لئے عجیب تحفہ ہے۔ اس کو ڈالنے سے آنکھوں میں ایسی کشش مقناطیسی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ جس شخص کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ فوراً دام محبت میں گرفتار ہوگیا۔ دشمنوں کی طرف دیکھنے سے وہ خود بخود مغلوب ہوتے ہیں۔ ہر دیکھنے والے کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ رعب داب قائم رہتا ہے جس اس کاجل کو حسب ہدایت استعمال کرکے جس کو چاہو بس میں کر لو۔ نہایت عجیب چیز ہے۔ قیمت فی شیشی دو روپے ... (عہ)

### ۲۔ شیرخوار بچوں کا محافظ تعویذ

یہ تعویذ علم نجوم کے قاعدے سے خاص وقت چاندی کے پترہ پر نقش کیا گیا ہے۔ اس کو بچہ کے گلے میں پہنانا۔ ہر قسم کی نظر بد، سایہ، آسیب، جن و بھوت سے بچہ محفوظ رہیگا۔ جسکے زیادہ بچے فوت ہوں۔ اسکی بھی تاثیر سے ہر وقت ہنسی خوشی کھیلتے رہیں گے۔ غرضیکہ یہ تعویذ شیر خوار بچوں کا پورا محافظ ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ۱)

### ۳۔ طلسمی تعویذ برائے حاملہ مستورات

ایک کامل بزرگ کا عطا کردہ تعویذ حسب ہدایت تیار کرکے چاندی کے تعویذ کے اندر محفوظ کیا گیا ہے اس کے گلے میں ڈالنے سے حاملہ مستورات ہر قسم کے خطرات۔ سایہ۔ آسیب۔ جن۔ بھوت۔ چڑیل سے محفوظ رہیگی۔ جن عورتوں کو استقاط حمل یا مرض اٹھرا کا عارضہ ہو۔ ان کے گلے میں ڈالنے سے بفضل پروردگار ان امراض سے نجات پاکر گود ہری بھری ہوگی۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ۱)

### ۴۔ طلسم رفع نحوست زحل یعنی شنیچر

چونکہ جن لوگوں کے نام کی راس مکر۔ کنبھ۔ میں ہے ان کو شنیچر خراب ہے جو کہ نہایت سخت ثمرہ ظاہر کریگا۔ اس لئے ہم نے ان لوگوں کے لئے رفع نحوست زحل طلسم تیار کیا ہے۔ جس کے پاس رکھنے سے بفضل پروردگار زحل کی نحوست رفع ہوگی۔ پس اگر آپ کو ضرورت ہو۔ تو یہ طلسم ہم سے منگوالیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ۱)

ملنے کا پتہ: منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

## مشہور عالم جنتری سنہ ۱۹۳۶ء

اللہ پرماتما کی کرپا اور قدردانوں کی قدر شناسی سے مشہور عالم جنتری کے چھپتے پبلک ایسی [illegible] ہے۔ اس کے نادر مضامین کی مقبولیت بالخصوص ہندوستان اور ممالک غیر میں جہاں جہاں اہل ہنود وہاں اجابت موجود ہیں۔ وہ مقبولیت اور عالمگیر شہرت حاصل کی ہے۔ جو اس سے پیشتر شاید ہی کسی جنتری کو نصیب ہوئی ہو۔ [illegible] اس کی قدردانی اس کی تعداد اشاعت سے بخوبی ظاہر ہے۔ باوجود ایک لاکھ شائع ہونے کے ہزاروں شائقین اس کی خریداری سے ہر سال محروم رہ جاتے ہیں۔ اس قدردانی کے لئے ناچیز مصنف پبلک کا تہ دل سے شکر گزار ہے۔

## مشہور عالم جنتری کے مار آستین دوست

مشہور عالم جنتری کی اس بے نظیر مقبولیت قدردانی اور اس کے دیکھنے کا بار بار کو دیکھ کر بعض لوگوں کو اس کی یہ ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اور ارے حسد کے جل بھن کر کباب ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس تاک میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم کو نقصان پہنچا دیں۔ کئی مہربانوں نے مشہور عالم جنتری کی ترتیب اور ڈھنگ پر نقلی جنتریاں چھاپ کر اور مشہور عالم جنتری کے ساتھ ملتے جلتے نام رکھ کر پبلک کے پیش کیں۔ پبلک ان کی اس چالاکی کو جلد ہی تاڑ گئی۔ اور ان بیچاروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور دم بخود ہو کر بیٹھ گئے۔

## مشہور عالم جنتری کے حاسدوں کی نئی چالاکیاں

مشہور عالم جنتری کے برخلاف ایک اور نئی پارٹی نے جنم لیا ہے اس پارٹی نے مشہور عالم جنتری کے مصنف شریمان پنڈت گردھاری لعل جی جوتشی کے مقبول عام اور عالمگیر شہرت پانے والی جنتری کے نام کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی ہے۔ ہم کو ان بیچاروں کی چالاکی پر بڑا ترس آتا ہے۔ کیونکہ بیچاروں میں اتنی لیاقت تو ہے نہیں۔ کہ خود کوئی علمی مضامین سے لبریز جنتری پبلک میں پیش کر سکیں۔ اور فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن ان کے دل میں یہ ہوس ضرور ہے۔ کہ ہم بھی مصنف مشہور عالم جنتری کی طرح شہرت پاویں۔ اور فائدہ اٹھاویں۔ پس اس خواہش کی تکمیل کے لئے انہوں نے چند مضامین ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے جنتری کی شکل میں چھاپنے شروع کر دئے ہیں۔ اور شرارت چالاکی یہ کی کہ جنتری کے سرورق پر پنڈت گردھاری لعل جی کا نام کسی ڈھب سے درج کر دیا ہے تاکہ بھولے بھالے خریدار اس نقلی جنتری کو اصلی جنتری پنڈت گردھاری لعل والی سمجھ کر خرید لیں۔ اس اخلاق سے گری ہوئی حرکت سے ان کا منشا مشہور عالم جنتری کو نقصان پہنچانا اور خود ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔

## مشہور عالم جنتری کے قدردانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ جنتری خریدتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں

(۱) سرورق پر نام مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳۔ (۲) پشت جنتری پر پنڈت گردھاری لعل جی کی تصویر جو کہ ہمارا تجارتی نشان ہے۔ (۳) سرورق پر مصنف کا نام پنڈت گردھاری لعل جی [illegible] کے لڑکے پنڈت رگھناتھ داس جوتشی کی بنائی ہوئی۔ (۴) سرورق پر مشہور عالم پریس کا نام ہے۔ اگر آپ ان چار باتوں کو مدنظر رکھ کر جنتری خریدیں گے تو آپ ان دھوکہ باز لوگوں کے مکر و فریب کے پھندے سے بچ جائیں گے۔

## اے ہمارے مہربان حاسد دوستو!

آپ سے ہم صرف اسی قدر کہنا چاہتے ہیں۔ کہ قدرت کے اٹل قانون سے ڈرو۔ اور راہ راست پر چلو کیونکہ "باطل ہمیشہ رسوائے ذات" ہم کو مجبور نہ کرو۔ کہ ہم تمہارے برخلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ دل میں خوب یاد رکھو کہ تمہاری یہ چالاکیاں ایک نہ ایک دن ضرور بے نقاب ہونگی۔ اور تم پشیمانی کھاؤ گے۔ شری گورو نانک دیو جی مہاراج کے اس [illegible] کو یاد رکھو [illegible]

## خبردار! دھوکے سے بچو

ہمارے پاس بہت سے خطوط خریداروں سے موصول ہوئے ہیں کہ بعض دھوکہ باز لوگ جنہوں نے جوتش اور پنڈت کا جامہ پہنا ہوا ہے اپنے آپ کو پنڈت گردھاری لعل جی کا بیٹا یا بھائی ظاہر کر کے پبلک کو لوٹ رہے ہیں۔ اس لئے پبلک کی آگاہی کیلئے ہم اعلان کرتے ہیں۔ کہ پنڈت گردھاری لعل جی کا سوائے میرے کوئی اور لڑکا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حقیقی بھائی یا شاگرد موجود ہے۔ جو شخص ایسا بیان کرتا ہے وہ دھوکہ باز ہے۔ پبلک ایسے لوگوں سے بچے۔ پنڈت رگھناتھ داس

## مشہور عالم جنتری کے مضامین کا حل

سب سے اول بارہ ماہ نیز تہواروں کی فہرست تفصیلات درج ہیں۔ مگر بعض اوقات ہر ضلع کے حکام [illegible] پس پیش ہو جاتی ہیں۔ دوم اوقات نوروز اور [illegible] کے بعد نایاب کیلنڈر اور سال کا [illegible] اور اس کے بعد بارہ مہینوں کی جدولیں اور ہر تاریخ [illegible] کی تاریخیں اور [illegible] گھڑی پل درج ہیں۔ جو طلوع آفتاب سے شمار کرنی چاہئیں۔ اور بعد ازاں چندرما کی راشی تبدیل کرنے کا انتہائی وقت گھڑی پل درج ہیں۔ [illegible] ابتدا و انتہا درج ہیں [illegible] لاہور کے [illegible] گھڑی پل درج کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو مطابق گھڑی کے دیکھنا چاہیں۔ تو طلوع و غروب مندرجہ جنتری کے ساتھ ۳۳ منٹ اضافہ اور کر لیں۔ تو مطابق جیب گھڑی ہوگا۔ چاندنی اور اندھیرے کی جدولیں سفید روشنی اور سیاہ اندھیرے کی علامت ہے۔ طلوع و غروب بکرمی و مارگی اور [illegible] ستارگان کی گھڑی پل و اہل ہنود و اہل اسلام کے تیوہار درج ہیں۔ بعد ازاں [illegible] کے مقابل [illegible] درج ہیں۔ باقی مضامین جنتری صفحہ ۶۰ تک عام فہم ہیں۔ جو درج نہیں کئے گئے۔ اس کے بعد اشتہارات درج ہیں۔ اور ہر ایک اشتہار کے نیچے مشتہر کا نام درج ہے۔ بوقت طلب [illegible] مشتہران اشتہارات سے نام خط و کتابت کریں۔ اگر ان اشیاء کی نسبت کسی قسم کی شکایت ہو تو اسی کارخانہ سے خط و کتابت کریں۔ کیونکہ ہم اشتہارات میں درج شدہ سامان کے غلط یا درست ہونے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

## بیاہ شادی کے سہالگ بابت سال سنہ ۱۹۳۶ء

اہل ہنود بیاہ میں دس دوشوں کا بچار کرتے ہیں۔ مگر پات۔ ویدھ۔ بدھ۔ [illegible] کرانتی۔ دگدھ [illegible] پانچ دوش زیادہ آشٹھ پھل دائک ہیں۔ اس لئے کوئی ساہا ان دوشوں کا درج نہیں کیا گیا۔ جو لوگ دوشوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور صرف ساہے کے جنتری پر اکتفا کرنا چاہیں۔ وہ ہمارے مشہور عالم جنتری کا سمت ۱۹۹۳ بکرم کو دیکھ لیں۔ جس میں تمام سال کے شدھ و اشدھ ساہا تفصیل سے درج کئے گئے ہیں۔ اس جگہ صرف شدھ ساہا درج کئے ہیں۔ شدھ کے نشان (۱) اور دوش کے نشان (۲) درج ہیں۔

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | دش دوشوں کے نام اور ان کے نشان | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | | |
| | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| ۲ ماگھ | ۱۶ جنوری | بدھ وار | ہست | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | تلا | |
| ۸ ماگھ | ۲۱ جنوری | منگل وار | مولا | ۱ | ۱ | شکر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | کنیا و تلا | |
| ۹ ماگھ | ۲۲ جنوری | بدھ وار | مولا | ۱ | ۱ | شکر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | میش | |
| ۱۶ ماگھ | ۲۹ جنوری | بدھ وار | ریوتی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | کنیا و برچھک | |
| ۴ پھاگن | ۱۵ فروری | سنیچر وار | اترا [illegible] | شکر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | تلا | |
| ۵ پھاگن | ۱۶ فروری | اتوار | اترا [illegible] | شکر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | برکھ | |
| ۳ جیساکھ | ۱۴ اپریل | منگل وار | اترا [illegible] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | میش | [illegible] |
| ۴ بیساکھ | ۱۵ اپریل | بدھ وار | اترا [illegible] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | کرک | |
| ۲۳ ساون | ۶ اگست | ویروار | اترا [illegible] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | برکھ | چندرماں |
| ۲۴ ساون | ۷ اگست | شکروار | اترا [illegible] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | کنیا | چندرماں |
| ۲۲ مگھر | ۶ دسمبر | اتوار | اترا [illegible] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | تلا | سنیچر |
| ۲۳ مگھر | ۷ دسمبر | سوموار | اترا [illegible] | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | مکر | |

**ضروری نوٹ**۔ جنتری ہذا میں طلوع و غروب آفتاب کے گھنٹہ منٹ رفتار سورج کے حساب سے درج کئے گئے ہیں سٹینڈرڈ جیب گھڑی کے مطابق کرنے کیلئے ۳۳ منٹ کا اضافہ کریں

# نوروز عالم افروز افق لاہور ۲۰ مارچ سنہ ۱۹۳۶ء بروز شکروار بوقت ۵۲ گھڑی ۴۸ پل بعد طلوع آفتاب

وقت بمطابق دھوپ گھڑی ۳ بجکر [illegible] منٹ
وقت بمطابق ریلوے سٹینڈرڈ ۳ بجکر [illegible] منٹ

## تحویل آفتاب در برج حمل بحساب اہل یونان

نوروز کے معنے شروع سال کے پہلے دن کے ہیں جس کو مختلف مذاہب والوں نے اپنے اپنے مذہبی آئین کے مطابق قائم کیا ہوا ہے۔ مثلاً اہل یورپ کا نوروز یکم جنوری کو اہل اسلام کا نوروز یکم محرم کو اہل ہنود کا نوروز بحساب قمری چیت شدی ایکم کو اور بحساب شمسی یکم بیساکھ کو واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل یونان کا نوروز اس وقت واقع ہوتا ہے۔ جب کہ آفتاب عالمتاب تمام کرہ فلک کا دورہ پورا کر کے خط استوا کے عین مشرق میں فلک ثوابت کی پہلی شکل برج حمل کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ اس وقت دن رات برابر ہو جاتا ہے۔ اور فصل ربیع کی ابتدا ہوتی ہے۔ بنظر منجمان یہ وقت نہایت مبارک ہوتا ہے۔ اس وقت پر زائچہ تولد سال تیار کر کے اور رفتار فلکی کی سعادت و نحوست کو مد نظر رکھ کر تمام عالم کے نیک و بد حالات قلم بند کئے جاتے ہیں۔ پس اس سال بفضل پروردگار بمطابق ۲۰ مارچ سنہ ۱۹۳۶ء بروز شکروار یعنی جمعۃ المبارک بمطابق چیت بدی دوادشی ۸ چیت سمت ۱۹۹۲ بکرم ۲۵ ذی الحجہ سنہ ۱۳۵۴ ہجری بوقت ۵۲ گھڑی ۴۸ پل بعد طلوع آفتاب یعنی وقت بمطابق جیب گھڑی ریلوے سٹینڈرڈ ٹائم ۳ بجکر ۴۰ منٹ بعد نصف شب طالع وقت بحساب اہل یونان برج دلو میں بساعت زہرہ تحویل آفتاب برج حمل میں ہوگی۔ بادشاہ سال زہرہ یعنی شکر رقاصہ فلک مالک فلک سوم [illegible] ہے۔ جو کہ چوپایہ پر سوار ہاتھ میں گلدستہ لئے پوشاک اطلس نقرئی پہنے کاندھے پر سفید دوشالہ ریشمی ڈالے سر پر جڑاؤ موتیوں کی کلغی اور گلے میں سفید پھولوں کا ہار ڈالے تخت حکومت فلکی پر جلوہ افروز ہوگا۔ خوراک اس کی میوہ تر و مٹھائی برنگ سفید لڈو پیڑے برفی وغیرہ ہے۔

زائچہ ولادت بحساب اہل یونان



## احکام نوروز

وتد الطالع میں قمر پڑا ہے جس کی بادشاہ سال زہرہ سے دشمنی ہے اور وتد السماء کا مالک بخانہ ششم ہمراہ شمس پڑا ہے اس لئے اس سال میں آفات ارضی و سماوی زیادہ نمودار ہونگی۔ جیسے ہیضہ ٹڈی۔ کیڑا وغیرہ سے فصلوں کو نقصان پہنچیگا برفباری زیادہ ہوگی بجلیاں آسمان سے زیادہ ٹوٹیں گے اور کسی شی آسمانی [illegible] کا نظارہ بھی ہوگا پہاڑوں میں آتشی مادہ بڑھ جاویگا جس سے نقصان کا اندیشہ ہے ملک کے اکثر حصوں میں امراض مہلکہ کا دورہ ہوگا۔ لوگوں کے خیالات عیاشی کی طرف زیادہ رہینگے۔ مستورات آزادی میں ترقی کرینگی۔ عہدیدار غالب و مغلوب رہینگے۔ بہت لوگ زیر عتاب شاہی ہونگے سرحدوں کی مضبوطی اور جنگی طاقتوں کے استحکام پر زیادہ توجہ دی جاویگی ترکستان [illegible] چین اور خراسان کے علاقوں میں فتنہ و فساد کی آگ سلگتی رہیگی ہندوستان کے لوگ تجارت میں ترقی کرینگے۔ یورپ میں غلہ کی مانگ زیادہ رہیگی۔ غلہ کے بیوپاری فائدہ میں رہینگے جاپانی لوگ ہندوستان میں ترقی کرینگے بہت سے لوگ اپنی حفاظت [illegible] میں جائیں گے۔ علاقہ کشمیر میں آفات کا ظہور ہوگا۔ شاہان یورپ کی اندرونی رنجشیں اور [illegible] خطرناک ثابت ہونگی۔ اہل امریکہ سائنس کی نئی نئی ایجادوں میں کامیابی حاصل کرینگے۔ علاقہ مدراس کو کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے [illegible] پیدا ہونگے [illegible] سال [illegible] اور آخر سال کی پیدائش [illegible]

## ہندوستان کے مختلف شہروں میں تحویل آفتاب کا وقت

چونکہ بوجہ رفتار آفتاب ہر ایک شہر کے تعین میں تفاوت ہے اسلئے ہم چند ایک شہروں کا وقت تحویل درج کرتے ہیں۔ لاہور میں تحویل کا وقت ۳ بجکر [illegible] منٹ شب ہے۔

| نام شہر | وقت |  |  | نام شہر | وقت |  |  | نام شہر | وقت |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | گھنٹہ | منٹ | سیکنڈ |  | گھنٹہ | منٹ | سیکنڈ |  | گھنٹہ | منٹ | سیکنڈ |
| اجمیر | ۳ | ۷ | ۴۸ | قنوج | ۳ | ۲۸ | ۵۶ | پٹنہ | ۳ | ۴۹ | ۵۶ |
| امرتسر | ۳ | ۷ | ۵۶ | مدراس | ۳ | ۳۱ | ۳۰ | بردوان | ۴ | ۰۰ | ۴۰ |
| جے پور | ۳ | ۱۲ | ۳۶ | باندہ | ۳ | ۳۰ | ۲۸ | مرشدآباد | ۴ | ۲ | ۴ |
| انبالہ | ۳ | ۱۷ | ۱۲ | کانپور | ۳ | ۳۰ | ۳۶ | کلکتہ | ۴ | ۳ | ۴۴ |
| بھوپال | ۳ | ۱۷ | ۲۸ | سیتاپور | ۳ | ۳۱ | ۵۲ | ڈھاکہ | ۴ | ۱۰ | ۴۸ |
| دہلی | ۳ | ۱۸ | ۸ | گورکھپور | ۳ | ۳۲ | ۲ | آسام | ۴ | ۲۵ | ۸ |
| آگرہ | ۳ | ۲۱ | ۱۲ | لکھنؤ | ۳ | ۳۷ | ۴۸ | رنگون | ۴ | ۳۲ | ۵۶ |
| حیدرآباد دکن | ۳ | ۲۳ | ۴ | بارہ بنکی | ۳ | ۳۳ | ۱۶ | ملتان | ۲ | ۵۳ | ۵۶ |
| اٹاوہ | ۳ | ۲۵ | ۱۲ | فیض آباد | ۳ | ۳۴ | ۳۶ | بمبئی | ۳ | ۰ | ۲۴ |
| رامپور | ۳ | ۲۵ | ۱۶ | بردولی | ۳ | ۳۴ | ۴ | کابل | ۲ | ۴۳ | ۵۶ |
| ناگپور | ۳ | ۲۵ | ۳۶ | بہرائچ | ۳ | ۳۵ | ۸ | بڑودہ | ۳ | ۱ | ۵۴ |
| بانس بریلی | ۳ | ۲۶ | ۴۸ | الہ آباد | ۳ | ۳۵ | ۳۷ | کراچی | ۲ | ۳۴ | ۴ |
| نینی تال | ۳ | ۲۶ | ۵۶ | مرزاپور | ۳ | ۳۹ | ۲۰ | بصرہ | ۱ | ۱۹ | ۴۸ |
| فرخ آباد | ۳ | ۲۷ | ۳۶ | بنارس | ۳ | ۴۱ | ۱۲ | بخارا | ۲ | ۲۷ | ۳۶ |
| جبل پور | ۳ | ۲۸ | ۴۴ | نیپال | ۳ | ۳۸ | ۵۶ | بغداد | ۱ | ۹ | ۳۶ |

## شناخت اوقات تحویل آفتاب

جو احباب تحویل کا عملی وقت دیکھنا چاہیں۔ ان کو چاہیئے۔ کہ وقت مقررہ سے ایک گھنٹہ پیشتر ایک مکان میں صفائی کر کے خوشبویات مثل صندل و لوبان کا بخور کر کے ایک گھڑا یا نارے لا کر اس کے نیچے درمیان میں سوئی کے برابر سوراخ کریں اور اس کو پانی سے بھر کر معلق باندھ دیں۔ تاکہ پانی کی دھار اس سوراخ سے جاری رہے اور جس قدر آدمی اس جگہ موجود ہوں سب سفید لباس پہنے اور خاموش ہو کر یاد الٰہی میں مشغول ہوں پس جس وقت تحویل ہوگی چلتی ہوئی پانی کی دھار بند ہو جاویگی چونکہ یہ اشارہ ہی ہوتا ہے۔ اس لئے خوب غور اور توجہ سے اس کو دیکھنا چاہیئے

## عمل بروقت تحویل آفتاب

بالاتفاق علم نجوم کے نزدیک یہ وقت نہایت مبارک ہے۔ اس وقت پر عملیات و تعویذات کا تیار کرنا نہایت متبرک و پرتاثیر مانا گیا ہے۔ پس اس سال بلحاظ رفتار فلکی مندرجہ ذیل طلسم کا تیار کر کے پاس رکھنا کشائش کا باعث ترقی روزگار اور ہر کام میں کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ [illegible] پرتاثیر ہے۔ پس بوقت تحویل پاک و صاف ہو کر لباس زیب تن کر ایک علیحدہ جگہ خلوت میں بیٹھیں۔ اور بخور عود و لوبان کا روشن کریں۔ اور نیلے رنگ کی سیاہی سے کاغذ سفید پر مندرجہ ذیل طلسم کو لکھیں۔ اور منہ جانب مشرق رکھیں۔ اور یکسوئی قلب سے یاد الٰہی میں مشغول ہوں۔ پھر اس طلسم کو پارچہ برنگ نیلا میں محفوظ کر کے تمام سال پاس رکھیں۔ اور اس کی عجیب و غریب تاثیر کو دیکھیں۔

(نوٹ) جو صاحب خود اس طلسم کو تیار نہ کر سکیں۔ ہم سے تیار شدہ طلسم منگوا لیں۔ قیمت ۸؍

صورت طلسم یہ ہے

دیکھو صفحہ فہرست

علاوہ محصول ڈاک درخواست ۱۹ مارچ سے پہلے پہلے دفتر کا خلاصہ مشہور عالم جنتری کے نام آنی چاہیئے

# نقشہ جات خمسہ متحیرہ یعنی پانچ سیارے جو اپنے محور پر سیدھی و الٹی رفتار سے گردش کرینگے بابت سنہ ۱۹۳۶ء

واضح ہے کہ سورج و چاند ہمیشہ اپنے محور پر سیدھی رفتار سے گردش کرتے ہیں۔ مگر پانچ سیارے یعنی منگل۔ بدھ۔ برہسپت۔ شکر اور سنیچر یہ پانچوں کبھی سیدھی اور کبھی الٹی رفتار سے چلتے ہیں۔ اہل ہنود سیدھی رفتار کو مارگی اور الٹی رفتار کو بکری بولتے ہیں۔ جن کی اوقات جنتری میں درج ہے۔ ذیل میں ان پانچوں سیاروں کی سیدھی و الٹی چال سے نقشے دکھلائے گئے ہیں۔ جس صاحب کو بکری و مارگی ہونے کا ٹھیک وقت دیکھنا ہو وہ جنتری میں دیکھ لیں۔











(**نوٹ**) اس سال میں منگل اور شکر ہر دو سیارے بکری نہیں ہونگے

# ملماس سمت ۱۹۹۳ بکرم میں اختلاف

مہربانو! اس سال میں ملماس کے مہینہ میں پھر کچھ گڑبڑ ہے۔ گنت کی ریتی سے اسوج کا مہینہ ملماس ہوتا ہے۔ اور چندر ماس سنکرانتی رمت کی ریتی سے بھادوں کا مہینہ ملماس کا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ہمیشہ سے گنت کی ریتی کو ہی مانتے چلے آتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ماہ اسوج کو ملماس لگایا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے اس سال بھادوں اور دوسرے پکش والوں کا پتر پکش یعنی شرادھوں میں ایک ماہ کا فرق پڑیگا۔ یعنی اسوج ملماس ماننے سے شرادھ ۱۸ بھادوں سے ۳۱ بھادوں تک ہونگے۔ اور بھادوں ملماس ماننے سے شرادھ ۱۵ اسوج سے ۳۰ اسوج تک ہونگے۔ یہی فرق پڑیگا۔ ہم نے دونوں پکش آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم تو گنت کی ریتی کو ہی درست مانتے ہیں۔ اس لئے اسوج کو ملماس مانا ہے۔

پنڈت رگھناتھ داس جوتشی

## رسالہ تاثیرات اجتماع سیارگان

شائقان علم جوتش کی خاطر ہم نے نہایت محنت و کوشش سے بڑے بڑے پرانے جوتش کے گرنتھوں کی مدد سے یہ رسالہ تیار کیا ہے جس میں تمام سیارگان کے باہم ایک جگہ اکٹھے ہونے کا پھل نہایت بالتشریح درج کیا گیا ہے۔ اس رسالہ کے مطالعہ کر لینے کے بعد آپ رفتار سیارگان کو دیکھ کر بخوبی ہر قسم کی پیشگوئی بابت ارزانی و گرانی غلہ۔ قحط۔ طوفان۔ بارش۔ آندھی۔ زلزلہ۔ جنگ و جدل وغیرہ وغیرہ کی نسبت کر سکیں گے۔ علم جوتش کے شائقین کو اس رسالہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت اٹھ آنہ (۸ر) ملنے کا پتہ۔ منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

# نادر و نایاب دائمی کیلنڈر

## جس سے سنہ عیسوی کے ہر ایک مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے

مشہور عالم جنتری کے ناظرین! اگر آپ کو سنہ عیسوی کے کسی مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کرنا ہو۔ تو اس آسان طریقہ سے معلوم کر لیں۔ کہ سنہ مطلوبہ میں سنہ کے جس مہینہ کی پہلی تاریخ معلوم کرنی ہو۔ اس کو ۲۸ پر تقسیم کر دو۔ جو باقی رہے۔ اس میں سے ایک عدد کم کر کے باقی کو نقشہ میں دیکھو جس جگہ باقی اعداد ملیں۔ اس کے زیریں جو یوم لکھا ہے۔ اس کے مقابل جو مہینہ لکھا ہے۔ اس مہینہ کی پہلی تاریخ کو وہی یوم ہے۔ چونکہ ہم نے ہندی زبان میں یوموں کے نام لکھے ہیں۔ اس لئے بتلایا جاتا ہے۔ کہ اتوار کو یکشنبہ اور سوموار کو دوشنبہ اور منگلوار کو سہ شنبہ اور بدھوار کو چہار شنبہ اور ویروار کو پنجشنبہ یا جمعرات اور شکر وار کو جمعہ اور سنیچروار کو شنبہ فارسی زبان میں کہتے ہیں۔ پس اس نقشہ سے آپ ہر ایک سنہ عیسوی خواہ ماضی ہو یا مستقبل یا حال۔ اس کے ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس مہینہ کی جس تاریخ کا یوم معلوم کرنا چاہو۔ بسہولت سے کر لو۔

**احتیاط۔** چونکہ ماہران علم ہیئت نے ہر سال کی کسرات کے لحاظ سے سنہ ۱۹۰۰ء والی صدی میں جبکہ حساب سے فروری ۲۹ یوم کا ہونا چاہیئے تھا۔ جو کسرات کو پورا کرنے کے لئے ۲۸ یوم کا قرار دیا تھا۔ اس لئے اس نقشہ سے سنہ ۱۸۰۰ء سے ۱۸۹۹ء تک تو مندرجہ بالا طریق پر یوم درست نکلیں گے۔ مگر سنہ ۱۹۰۰ء اور اس کے بعد یہ خیال رہے۔ کہ جو اعداد حسب قاعدہ مذکورہ بالا باقی رہیں۔ ان میں سے دو عدد کم کر کے باقی کو نقشہ میں دیکھ لو۔ یوم درست نکلے گا۔

**مثال** سنہ ۱۸۹۹ء میں جنوری کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کرنا ہے۔ پس سنہ ۱۸۹۹ء کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ تو باقی ۲۲ رہے۔ ان میں سے ایک کو کم کیا۔ تو باقی ۲۱ نقشہ میں دیکھا۔ تو ۲۱ کے زیریں جنوری کے مقابل سنیچروار لکھا ہے جو درست ہے۔ دوسری مثال سنہ ۱۹۱۳ء میں مارچ کی پہلی تاریخ کا یوم دیکھنا ہے۔ اس سنہ ۱۹۱۳ء کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ تو باقی ۱۰۔ چونکہ یہ انیس سو سے زیادہ ہے۔ اس لئے اس میں سے ۲ کم کئے۔ تو باقی رہے آٹھ۔ نقشہ میں ۸ کے زیریں ماہ مارچ کے مقابلہ پر اتوار لکھا ہے۔ نکال کر دیکھو۔ درست ہے۔

| نام مہینہ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنوری | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار |
| فروری | شکر | منگل | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار |
| مارچ | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار |
| اپریل | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار |
| مئی | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل |
| جون | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر |
| جولائی | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار |
| اگست | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ |
| ستمبر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر |
| اکتوبر | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار |
| نومبر | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار |
| دسمبر | اتوار | سوموار | بدھ | ویروار | شکر | سنیچر | سوموار | منگل | بدھ | ویروار | سنیچر | اتوار | سوموار | منگل | ویروار | شکر | سنیچر | اتوار | منگل | بدھ | ویروار | شکر | اتوار | سوموار | منگل | بدھ | شکر | سنیچر |

## قاعدہ سنہ نامعلوم کو معلوم کرنا

رائج الوقت سمت بکرم سے ۵۷ کم کرنے پر سنہ عیسوی نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۱۳۵ کم کرنے پر سمت شاکا نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۴۹ کو کم کرنے بعد سنہ ہجری معلوم ہوتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۴۹ کم کرنے پر سمت فصلی نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۵۰ کم کرنے پر سنہ بنگلہ معلوم ہوتا ہے اور سمت بکرم سے ۱۶۴۰ کم کرنے پر سنہ الٰہی نکل آتا ہے۔ چونکہ رائج الوقت سنین میں سے سمت بکرم شکرانتی بیساکھ سے اور سمت شاکا یکم چیت سے اور سنہ ہجری یکم محرم سے اور سمت فصلی اسوج سے اور سنہ بنگلہ یکم بیساکھ سے سنہ الٰہی یکم کوار سے شروع ہوتے ہیں۔ اور سمت بکرم پر ۳۰۴۴ عدد زیادہ کریں۔ تو سمت کلجگ نکل آئیگا۔ اگر سمت بکرم پر ۲۸۹۱ عدد زیادہ کریں۔ تو پیدائش نوح کے سال نکل آئینگے۔ اگر سمت بکرم پر ۵۰۰ عدد زیادہ کریں۔ تو سمت بدھ کا معلوم ہوگا۔ اگر سمت بکرم پر ۲۹۷ عدد زیادہ کریں۔ تو اس سے سمت سکندری معلوم ہوتا ہے۔ **نوٹ۔** لیپ کے سال کے سوا ہر ایک سال کے یوم درست معلوم ہونگے۔ لیکن لیپ کے سال میں جنوری اور فروری کے یوم تو درست ہونگے۔ مگر اس کے بعد مارچ سے لیکر اگلے سال کی فروری تک ہر ماہ کی پہلی تاریخ میں ایک یوم کا فرق پڑیگا۔ پس ناظرین لیپ کے سال میں اس بات کا خیال رکھیں۔ کہ جو یوم نقشہ سے معلوم ہو اس سے اگلا دن جانو۔ مثال سنہ ۱۹۱۶ء جو لیپ کا سال ہے۔ اس کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ باقی ۱۲ رہے۔ ۲ کم کئے تو دس رہے۔ نقشہ میں دس کے زیریں جنوری اور فروری کا پہلا یوم تو درست ہے۔ لیکن مارچ کے مقابل میں منگل لکھا ہے۔ لیکن اس سے اگلے دن بدھ کی پہلی ہوگی۔ اور فروری سنہ ۱۹۱۷ء تک اسی طرح ایک یوم کا فرق پڑیگا۔ اسی طرح ہر لیپ کے سال میں دیکھ لو۔

# برکھ پھل یعنی ثمرہ سال بحساب اہل ہند سمت ۱۹۹۳ بکرم و شکہ ۱۸۵۸ شاکا مطابق سنہ ۱۹۳۶ء و ۱۳۵۵ ہجری

پیارے ناظرین! یہ دنیا انادی ہے۔ اس میں کسی چیز کو قیام نہیں۔ انقلاب کا سلسلہ ہر لمحہ جاری ہے۔ آبادیاں ویران اور بیابان آباد ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے سدھانت گرنتھوں میں اس سرشٹی کا ایک دور چار ارب بتیس کروڑ سال کا مانا گیا ہے جس کو کلپ یا برہم دن کہتے ہیں۔ چنانچہ علم جوتش کے پرانے اور پرمانک گرنتھ سورج سدھانت میں اس کا حساب اس طرح دیا گیا ہے۔ ایک کلپ کے ۱۴ حصے ہیں۔ جن کو منو کہتے ہیں۔ ایک منو میں ۷۱ چترنگی لگتی ہیں۔ اور ایک چترنگی چار یگوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ ان چار یگوں کا نام بہ تعداد حسب ذیل ہے۔ اول ست یگ ۱۷۲۸۰۰۰ سال۔ دوم تریتا یگ ۱۲۹۶۰۰۰ سال۔ سوم دواپر یگ ۸۶۴۰۰۰ سال۔ چہارم کلیگ ۴۳۲۰۰۰ سال۔ جب ان چار یگوں کے سالوں کو جمع کیا۔ تو ۴۳۲۰۰۰۰ سال ہوئے جس کو ایک چترنگی یا مہایگ کہتے ہیں ہر ایک منو کے شروع میں ایک سندھی ہوتی ہے۔ جس کی میعاد ۱۷۲۸۰۰۰ برس کی ہوتی ہے۔ بموجب سورج سدھانت اس وقت ۶ منو گذر کر ساتواں منو گذر رہا ہے۔ اور ساتویں منو کی ۲۷ چترنگی گذر کر اٹھائیسویں چترنگی گذر رہی ہے جس کے تین یگ گذر کر چوتھا یگ گذر رہا ہے۔ جس کا نام کلیگ ہے۔ اور ۱۹۹۳ بکرم کے آخر تک اس کی عمر کے ۵۰۳۷ برس گذر جائیں گے۔ پس بموجب حساب مذکورہ بالا ایک چترنگی کی میعاد ۴۳۲۰۰۰۰ کو ۷۱ سے ضرب دیا۔ تو ۳۰۶۷۲۰۰۰۰ برس ہوئے یہ ایک منو ہوا۔ چونکہ ۶ منو گذر چکے ہیں۔ اس لئے اس کو ۶ سے ضرب دیا۔ تو چھ منوؤں کی میعاد ۱۸۴۰۳۲۰۰۰۰ برس ہوئی۔ ۶ منوؤں کے درمیان ۷ سندھیاں گذر چکی ہیں۔ ایک ایک سندھی کی میعاد ۱۷۲۸۰۰۰ کو ۷ سے ضرب دیا تو ۱۲۰۹۶۰۰۰ برس ہوئے۔ ان ہر دو کو جمع کرنے سے ۶ منوؤں کی گذشتہ ۱۸۵۲۴۱۶۰۰۰ برس ہوئی۔ اب جو ساتواں منو گذر رہا ہے اس کی ۲۷ چترنگی گذر چکی ہیں۔ اور اٹھائیسویں گذر رہی ہے۔ پس ایک چترنگی کی تعداد کو ۲۷ میں ضرب دیا تو ۴۳۲۰۰۰۰ × ۲۷ = ۱۱۶۶۴۰۰۰۰ برس ہوئے۔ اب جو اٹھائیسویں چترنگی گذر رہی ہے۔ اس کے ۳۸۹۳۰۳۷ برس اس میں جمع کئے۔ تو ۱۲۰۵۳۳۰۳۷ برس ہوئے۔ اس مجموعہ کو چھ منوؤں کی مدت ۱۸۵۲۴۱۶۰۰۰ میں جمع کیا تو ۱۹۷۲۹۴۹۰۳۷ سال ہوئے۔ اس میں سے برہم کے ۱۷۰۶۴۰۰۰ برس تفریق کئے۔ تو باقی ۱۹۵۵۸۸۵۰۳۷ برس سرشٹی کی پیدائش کے ہوئے۔ چونکہ سرشٹی کی کل عمر ایک کلپ یعنی ۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰ سال ہے۔ اس لئے سرشٹی کی پیدائش کے برسوں کو اس میں سے تفریق کیا۔ تو باقی اس سرشٹی کی عمر ۲۳۶۴۱۱۴۹۶۳ برس رہی جس کے گذرنے پر یہ سرشٹی فنا ہو کر از سرنو پیدا ہوگی۔ اور یہ انادی چکر اسی طرح چلتا رہیگا۔ سمت ۱۹۹۳ بکرم میں دیگر سموت حسب ذیل ہونگے:۔

| نام سمت | شاکا | عیسوی | ہجری | فصلی | رومی | عبرانی | مصری | یونانی | فارسی | بدھ | اسکندری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد برس | ۱۸۵۸ | ۱۹۳۶ | ۱۳۵۵ | ۱۳۴۴ | ۲۶۸۸ | ۵۹۴۴ | ۲۷۵۸۲۲ | ۲۷۱۱ | ۱۹۰۶ | ۲۵۱۰ | ۲۲۹۰ |

## اس برس کے ادھکاری یہ ہیں

(۱) برس کا راجہ منگل ہے۔ بارش کم بادل کی گرج اور بجلی کی چمک زیادہ ہو۔ ژالہ باری سے فصل کو نقصان پہنچے۔ حادثات ارضی و سماوی بہت ہوں۔ آتشزدگی چوری و راہزنی کی وارداتوں کی کثرت۔ امراض [illegible] خون پھوڑا پھنسی [illegible] جنگ و جدل سے لوگوں کو سخت تکلیف پہنچے۔ حشرات الارض مثلاً سانپ بچھو [illegible] وغیرہ کی پیدائش زیادہ ہو۔ نامور لوگوں کی اموات زیادہ ہوں۔ پہاڑوں میں آتشی مادہ بڑھ جاوے اور نقصان کرے۔

(۲) وزیر سورج ہے۔ گرمی زیادہ پڑے۔ غلہ کا نرخ گراں۔ وبائی امراض سے لوگ تنگ ہوں۔ بغض۔ حسد و عداوت کا مادہ بہت پیدا ہو۔

(۳) بارش کا مالک سورج ہے۔ بارش کم۔ ندی نالوں میں پانی خشک ہو جائے گا اور [illegible] لوگوں کو تکلیف رہے۔

(۴) زراعت کا مالک بدھ ہے۔ زراعت کی پیداوار تو اچھی ہوگی۔ لیکن نقصان زیادہ ہو جائیگا۔ کیونکہ [illegible]

(۵) سپہ سالار [illegible] ہے۔ [illegible] لوگ آرام سے رہیں

(۶) دولت کا مالک [illegible] ہے۔ دولت کی ترقی ہو۔ [illegible]

(۷) رسوں کا مالک [illegible] ہے۔ [illegible] لوگوں کا خیال زیادہ ہے۔

(۸) غلہ کا مالک [illegible] ہے۔ غلہ کا نرخ گراں [illegible] گھی شکر وغیرہ گراں رہے۔

(۹) دھاتوں کا مالک [illegible] ہے۔ سب طرح کی دھاتوں کی بڑھتی ہو۔

(۱۰) پھلوں کا مالک [illegible] ہے۔ پھل پھول نشٹ ہو جاویں۔ سردی زیادہ پڑے۔ پہاڑوں پر برف باری زیادہ ہو۔

برسپتی کا نواں تت پر [illegible] برس کا [illegible] دھرتی کے [illegible] ہے۔

ثمرہ۔ بارش [illegible] پانی کم۔ غلہ کا نرخ گراں رہے۔

[illegible]

سمت [illegible] ہے۔ [illegible]

غلہ کا نرخ گراں۔ [illegible] بیماری پھیلے۔

[illegible] پرویش ہوگی۔

آمادہ [illegible]

## کنڈلی پاسے برکھ پرویش

[illegible]







## گرہن پاسے درسنہ ۱۹۳۶ء

(۱) چاند گرہن۔ [illegible]

جنوب
شمال
مغرب

(۲) سورج گرہن۔ [illegible] ۱۹۳۶ء [illegible]

مشرق
جنوب
شمال
مغرب

(۳) چاند گرہن۔ [illegible] ۱۹۳۶ء [illegible]

مشرق
جنوب
شمال
مغرب

نوٹ: ایک ماہ میں دو گرہن [illegible]

## سرب آرتھ سدھا یوگ درسنہ ۱۹۳۶ء

[illegible] سرب آرتھ سدھا یوگ [illegible] ناظرین مشہور عالم جنتری [illegible] ۱۹۳۶ء [illegible] کام ہو جاوے گا۔

[illegible]

# سنیچر کا پایہ معلوم کرنے کا طریقہ

اکثر معتقدان علم جوتش بروقت تبدیلی راس سنیچر کا پایہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو سنیچر کس پایہ میں آیا ہے۔ پس ناظرین کی رفع تکلیف کے لئے ہم اس کا قاعدہ ذیل میں درج کر دیتے ہیں۔ تاکہ دیکھنے میں آسانی ہے۔ بوقت تبدیلی سنیچر جنتری میں دیکھو۔ کہ اس روز چندرماں کس راشی پر ہے۔ پھر اپنے نام کی راشی سے چندرماں کی راشی تک شمار کرو۔ اگر شمار میں پہلی۔ چھٹی۔ گیارھویں ہو تو سونا کا پایہ۔ اگر دوسری۔ پانچویں۔ ناویں ہو۔ تو چاندی کا پایا۔ اگر ساتویں۔ تیسری۔ دسویں ہو۔ تو تانبہ کا پایہ۔ اگر چوتھی۔ آٹھویں۔ بارھویں ہو۔ تو لوہا کا پایہ جانو۔ سونا کا پایہ سعید اصغر جانو۔ چاندی کا پایہ سعدی اکبر۔ تانبہ کا پایہ معمولی اور لوہا کا پایہ نحس منحوس ہوتا ہے۔

# بارہ راشیوں کو سمت ۱۹۹۳ بکرم میں سنیچر کا پایا

۳- اپریل ۱۹۳۳ء مطابق ۲۰ چیت سمت ۱۹۹۰ کو برچھک کے چندرماں میں سنیچر کنبھ راشی میں داخل ہوا تھا اور اس سال بھی بدستور اسی راشی میں رہیگا۔ اس لئے بارہ راشیوں کو مندرجہ ذیل پایہ پر رہیگا +

| نام راس | متھن - برچھک - مکر | کرک - تلا - مین | برکھ - کنیا - کنبھ | میکھ - سنگھ - دھن |
|---|---|---|---|---|
| پایہ | سونا | چاندی | تانبہ | لوہا |
| ثمرہ | لابھ کم ہو | لابھ - ترقی مرتبہ | آمدن و خرچ مساوی | فکر تکلیف حیرانی ہو |

# انسان کے اعضاؤں پر سنیچر آنے کا ثمرہ

اکثر معتقدان علم جوتش ہر سال اس بات کو بڑے شوق سے دریافت کرتے ہیں کہ سنیچر اس سال ان کو کس اعضا پر آیا ہے۔ اور کیا پھل کرے گا۔ لہذا ان کی آسانی کی خاطر نقشہ بابت سال ۱۹۳۶ء ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اپنے نام کا نچھتر اس نقشہ میں دیکھ لیں۔ جہاں پر وہ نچھتر لکھا ہے۔ اس کے اوپر اعضا کا نام اور نیچے اس کا ثمرہ درج ہے۔

| اعضا | نچھتر | ثمرہ |
|---|---|---|
| چھاتی | پوروا بھادر پد | کمزوری نقاہت |
| سر | اترہ بھادر پد | بیماری و فکر |
| دست راست | ریوتی اشونی - بھرنی - کرتکا | فائدہ فرزند و مال |
| پائے راست | روہنی - مرگ شر - آردرا | نقل و حرکت |
| پائے چپ | پنروس - پکھ - اشلیکھا | سفر جانا پڑے |
| دست چپ | مگھا - پوروا پھالگنی - اترا پھالگنی - ہست | فضول خرچ |
| سینہ | چترا - سواتی - بشاکھا - انورادھا - جیشٹھا | بلندی مرتبہ |
| چشم | مولا - پوروا کھاڑ - اترا کھاڑ - شرون | ہر دلعزیزی ہو |
| مقعد | دھنشٹ - ست بکھ | پیدا اسہال |

# کسی جوتشی سے مت پوچھو کہ ہمارا آج کا دن کس طرح گذریگا

اگر آپ کو روزمرہ کے رنج و راحت دیکھنے کا شوق ہے۔ تو آپ کسی جوتشی سے مت پوچھیں۔ بلکہ ہر روز بوقت صبح اٹھ کر مشہور عالم جنتری میں اس روز کے نچھتر کو دیکھ لیں۔ اور پھر مندرجہ ذیل شکل کا چکر بنا کر جہاں نمبر ۱ لکھا ہندسہ لکھا ہے۔ وہاں وہ نچھتر لکھ کر اس سے آئندہ کے نچھتر بالترتیب دوم سوم پر کر کے ۲۸ نچھتروں کا دور پورا کر دو۔ اور پھر دیکھو۔ کہ آپ کے نام کا نچھتر کس مقام پر پڑتا ہے۔ پس جس جس مقام پر پڑتا ہے۔ اس کا ثمرہ دیکھ کر تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کہ آیا وہ یوم کس طرح گذر رہا ہے +



ثمرہ - اگر آپ کے نام کا نچھتر دائرہ کے اندر پڑتا ہے۔ تو اس روز طبیعت میں فرحت اور سب طرح سے آرام ملیگا جو کام کریں گے۔ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر دائرہ کے باہر پڑے تو نصف یوم خوشی سے گذرے۔ مگر آخر روز دل کو فکر اور تشویش غم و غصہ پیدا ہو۔ جسم میں تکلیف ہو۔ اور اگر ترشول کے اوپر پڑے۔ تو تمام دن دل کو گھبراہٹ اور نقد مال کا نقصان ہو۔ لوگوں سے مخالفت۔ دشمن سے دہشت جسم میں روگ پیدا ہو۔ اور اگنی اور چور کا بھے ہو۔

# لڑائی جھگڑے صحت بیمار اور سفر کے لئے

اگر سفر جانا ہو یا کسی بیمار کی بیماری کا حال دیکھنا ہو یا لڑائی جھگڑے اور مقدمات کا نتیجہ دیکھنا ہو۔ کہ کیا ہوگا۔ تو چاہئے۔ کہ جس روز سفر کو جانا ہو یا جس وقت کوئی شخص بیمار ہو۔ یا دشمن کے مقابلہ میں جانا ہو۔ تو اس وقت دیکھو۔ کہ سورج کس نچھتر پر ہے۔ جس اوقات سورج جس نچھتر پر ہو۔ اس کو یاد رکھو۔ اور ایک چکر حسب نمونہ ذیل بنا کر جس نچھتر میں سورج ہو۔ جہاں ایک کا ہندسہ لکھا ہے۔ وہاں اس نچھتر کو لکھ کر باقی نچھتروں کو بالترتیب دوم و سوم نمبر پر لکھو اور دیکھو کہ سائل کے نام کا نچھتر کس جگہ پر آیا ہے۔



ثمرہ - پس اگر نمبر ۱ یا ۲ یا ۸ پر نام نچھتر پڑے۔ تو سفر میں تکلیف اور دشمن کے مقابلہ میں شکست اور حیرانی و پریشانی ہو۔ اگر نمبر ۳ یا ۴ یا ۵ یا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ یا ۲۶ یا ۲۷ پر آئے۔ تو فکر و تشویش۔ دشمن سے خوف اور بیمار کی بیماری بڑھے۔ اگر نمبر ۱۰ سے نمبر ۲۰ تک پڑ جائے۔ تو سفر میں ناکامیابی اور بیمار کو سخت تکلیف بلکہ قریب المرگ ہو۔ دشمنوں سے نقصان پہنچے۔ اور دھن کا نقصان ہو۔ اگر نمبر ۵ یا نمبر ۷ یا ۲۳ یا ۲۴ یا ۲۵ پر پڑے سفر کریں۔ تو کامیابی اور صحت جسم اگر بیمار ہو تو جلد صحت پاوے۔ مقدموں اور لڑائی جھگڑوں میں کامیابی ہو۔ اور دھن دولت کا مفاد ہو +

یہ بھی خیال رکھو۔ اگر نام کے نچھتر سے بوقت سفر سورج کا نچھتر اٹھارھواں یا بارھواں ہوگا۔ تو سفر میں حیرانی و پریشانی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں بیمار ہوگا تو بڑی مشکل سے صحت پائیگا۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ تو ہر طرح سے کامیابی اور فتح پائیگا۔

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدھوار | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۲۲ | ۱۸ | ستمی | ۱۰<br>۱ | [illegible] | ۳۵<br>۲۵ | [illegible] | ۳۰<br>۴۵ | | | ۱۰<br>۱ | ۳۴<br>۱ | ۲۳<br>۵۵ | ۶<br>۱ | ۳<br>۵۹ | ◐ | |
| برہسپت وار | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۲۳ | ۱۹ | اشٹمی | [illegible] | ریوتی | ۳۱<br>۳۱ | [illegible] | ۱۲<br>۴۴ | میکھ | ۳۱<br>۳۱ | | | ۲۲<br>۵۶ | ۶<br>۱ | ۳<br>۵۹ | | پنچک ختم ۳-۳۱ |
| شکروار | ۳ | ۷ | ۱۳ | ۲۴ | ۲۰ | نومی | ۴۳<br>۵ | اشونی | ۲۷<br>۴۳ | [illegible] | [illegible] | | | | | ۲۲<br>۵۸ | ۶<br>۱ | ۴<br>۵۹ | | |
| سنیچروار | ۴ | ۸ | ۱۴ | ۲۵ | ۲۱ | [illegible] | ۴۸<br>۲۹ | بھرنی | ۳۲<br>۲۸ | [illegible] | ۵۱<br>۳ | برکھ | ۳۹<br>۱۰ | ۲۰<br>۲۷ | ۲۸<br>۳۹ | ۲۵<br>۰۰ | ۶<br>۰ | ۵<br>۰۰ | | پتردا ایکادشی |
| اتوار | ۵ | ۹ | ۱۵ | ۲۶ | ۲۲ | دوادشی | ۴۳<br>۳۰ | کرتکا | ۲۳<br>۱۲ | [illegible] | ۴۳<br>۵۴ | | | | | ۲۵<br>۱ | ۶<br>۰ | ۵<br>۰۰ | | |
| سوموار | ۶ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۷ | ۲۳ | ترودشی | ۴۱<br>۴۱ | روہنی | ۳۰<br>۱۲ | [illegible] | ۳۹<br>۲۸ | متھن | ۴۹<br>۲۱ | | | ۲۵<br>۳ | ۶<br>۰ | ۵<br>۰۰ | | منگل کنبھ میں ۳۲-۳۰ پر آیا |
| منگلوار | ۷ | ۱۱ | ۱۷ | ۲۸ | ۲۴ | چتردشی | ۳۹<br>۵۱ | مرگ شر | ۱۹<br>۳۰ | [illegible] | ۳۲<br>۵۱ | | | ۳۹<br>۵۱ | | ۲۵<br>۵ | ۶<br>۵۹ | ۵<br>۱ | | |
| بدھوار | ۸ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۹ | ۲۵ | پورنماشی | ۳۹<br>۱۳ | آردرا | ۱۹<br>۵۱ | [illegible] | ۳۱<br>۱۳ | | | | ۹<br>۳۳ | ۲۵<br>۷ | ۶<br>۵۹ | ۵<br>۱ | ○ | چاند گرہن - پورنماشی برت |
| برہسپت وار | ۹ | ۱۳ | ۱۹ | [illegible] | ۲۶ | اکم | ۳۹<br>۵۹ | پنربس | ۲۱<br>۴۲ | [illegible] | ۲۸<br>۳۷ | کرک | ۹<br>۱۶ | | | ۲۵<br>۹ | ۶<br>۵۸ | ۵<br>۲ | | ماگھ اشنان شروع |
| شکروار | ۱۰ | ۱۴ | ۲۰ | ۲ | ۲۷ | دوج | ۴۱<br>۴۸ | پکھ | ۲۳<br>۴۲ | [illegible] | ۲۶<br>۰۰ | | | | | ۲۵<br>۱۰ | ۶<br>۵۸ | ۵<br>۳ | | |
| سنیچروار | ۱۱ | ۱۵ | ۲۱ | ۳ | ۲۸ | تیج | ۴۰<br>۱۳ | اشلیکھا | ۲۸<br>۳۰ | [illegible] | ۲۶<br>۱۷ | سنگھ | ۲۸<br>۴۸ | ۱۳<br>۳۹ | ۲۵<br>۱۳ | ۲۵<br>۱۲ | ۶<br>۵۸ | ۵<br>۳ | | |
| اتوار | ۱۲ | ۱۶ | ۲۲ | ۴ | ۲۹ | چوتھ | ۴۱<br>۲ | مگھا | ۳۴<br>۳۰ | [illegible] | ۲۶<br>۲۲ | | | | | ۲۵<br>۱۴ | ۶<br>۵۷ | ۵<br>۳ | | گنیش چوتھ۔ سنکٹ چوتھ |
| سوموار | ۱۳ | ۱۷ | ۲۳ | ۵ | ۳۰ | پنچمی | ۴۳<br>۲۸ | پوروا پھالگنی | ۴۰<br>۳ | [illegible] | ۲۷<br>۱۲ | کنیا | ۵۶<br>۵۵ | | | ۲۵<br>۱۶ | ۶<br>۵۷ | ۵<br>۳ | | لوہڑی |
| منگلوار | ۱۴ | ۱۸ | ۲۴ | ۶ | ماگھ | چھٹھ | ۵۹<br>۲۵ | اترا پھالگنی | ۴۷<br>۴۳ | [illegible] | ۲۸<br>۲۲ | | | ۵۹<br>۴۵ | | ۲۵<br>۱۸ | ۶<br>۵۷ | ۵<br>۳ | | سورج مکر میں ۱۶-۰۰ |
| بدھوار | ۱۵ | ۱۹ | ۲۵ | ۷ | ۲ | ستمی | ۶۰<br>۰۰ | ہست | ۵۳<br>۵ | [illegible] | ۲۹<br>۴۸ | | | | ۳۲<br>۳۱ | ۲۵<br>۲۱ | ۶<br>۵۶ | ۵<br>۳ | ◐ | |
| برہسپت وار | ۱۶ | ۲۰ | ۲۶ | ۸ | ۳ | ستمی | ۵<br>۱۴ | چترا | ۵۹<br>۱۳ | سوکرما | ۳۰<br>۵۶ | تلا | ۲۶<br>۹ | | | ۲۵<br>۲۲ | ۶<br>۵۶ | ۵<br>۴ | | |
| شکروار | ۱۷ | ۲۱ | ۲۷ | ۹ | ۴ | اشٹمی | ۱۰<br>۳ | سواتی | ۶۰<br>۰۰ | دھرت | ۳۱<br>۳۰ | | | | | ۲۵<br>۲۶ | ۶<br>۵۵ | ۵<br>۵ | | |
| سنیچروار | ۱۸ | ۲۲ | ۲۸ | ۱۰ | ۵ | نومی | ۱۳<br>۲۰ | سواتی | [illegible] | شول | ۳۱<br>۳۰ | برچھک | ۵۳<br>۳ | ۳۵<br>۴۸ | | ۲۵<br>۳۰ | ۶<br>۵۳ | ۵<br>۶ | | قمر در عقرب ۵۳-۳ |
| اتوار | ۱۹ | ۲۳ | ۲۹ | ۱۱ | ۶ | دسمی | ۱۶<br>۱۸ | وشاکھا | ۹<br>۱۰ | گنڈ | ۳۰<br>۵۱ | | | | ۱۴<br>۱۵ | ۲۵<br>۳۲ | ۶<br>۵۲ | ۵<br>۹ | | بدھ مکری ۵۶-۵<br>شکر دھن میں ۲۲-۴۵ پر آیا |
| سوموار | ۲۰ | ۲۴ | ۳۰ | ۱۲ | ۷ | ایکادشی | ۱۹<br>۱۲ | انورادھا | ۱۲<br>۲۹ | برہم | ۲۹<br>۸ | | | | | ۲۵<br>۳۴ | ۶<br>۵۳ | ۵<br>۷ | | کھٹ تلا ایکادشی |
| منگلوار | ۲۱ | ۲۵ | [illegible] | ۱۳ | ۸ | دوادشی | ۱۹<br>۳۱ | جیشٹھا | ۱۴<br>۳۷ | اندر | ۲۶<br>۲۲ | دھن | ۱۴<br>۳۲ | | | ۲۵<br>۳۶ | ۶<br>[illegible] | ۵<br>۶ | | |
| بدھوار | ۲۲ | ۲۶ | ۲ | ۱۴ | ۹ | ترودشی | ۱۸<br>۵۹ | مولا | ۱۵<br>۱۹ | بیدھرت | ۲۲<br>۴۹ | | | ۱۸<br>۵۶ | ۲۷<br>۵۶ | ۲۵<br>۴۰ | ۶<br>۵۳ | ۵<br>۸ | | |
| برہسپت وار | ۲۳ | ۲۷ | ۳ | ۱۵ | ۱۰ | چتردشی | ۱۶<br>۵۲ | پوروا کھاڑا | ۱۴<br>۵۵ | برکمبھ | ۱۸<br>۹ | مکر | ۲۹<br>۳۲ | | | ۲۵<br>۴۲ | ۶<br>۵۲ | ۵<br>۸ | ● | بدھ مغرب میں غروب ۲۸-۱۴ |
| شکروار | ۲۴ | ۲۸ | ۴ | ۱۶ | ۱۱ | اماوس | ۱۳<br>۵۳ | اترا کھاڑا | ۱۳<br>۳۸ | [illegible] | ۱۲<br>۳۷ | | | | | ۲۵<br>۴۵ | ۶<br>۵۱ | ۵<br>۹ | | مون اماوس |
| سنیچروار | ۲۵ | ۲۹ | ۵ | ۱۷ | ۱۲ | پڑوا | ۹<br>۵ | شرون | ۱۱<br>۱۰ | [illegible] | [illegible] | کنبھ | ۳۹<br>۳۵ | | | ۲۵<br>۴۸ | ۶<br>۵۱ | ۵<br>۹ | ☾ | چاند نظر آئیگا۔ پنچک شروع [illegible] |
| اتوار | ۲۶ | [illegible] | ۶ | ۱۸ | ۱۳ | [illegible] | [illegible] | دھنشٹا | ۶<br>۱ | [illegible] | ۵۴<br>۸ | | | | | ۲۵<br>۵۱ | ۶<br>۵۰ | ۵<br>۱۰ | | |
| سوموار | ۲۷ | ۲ | ۷ | ۱۹ | ۱۴ | چوتھ | ۵۳<br>۵ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۴<br>۲۷ | مین | ۴۸<br>۵۵ | ۲۷<br>۰۰ | ۵۴<br>۵ | ۲۵<br>۵۴ | ۶<br>۴۹ | ۵<br>۱۱ | | |
| منگلوار | ۲۸ | ۳ | ۸ | ۲۰ | ۱۵ | پنچمی | ۴۸<br>۱۸ | اترا بھادرپد | ۵۶<br>۲۱ | شو | ۳۶<br>۳۵ | | | | | ۲۵<br>۵۷ | ۶<br>۴۹ | ۵<br>۱۱ | | بسنت پنچمی |
| بدھوار | ۲۹ | ۴ | ۹ | ۲۱ | ۱۶ | چھٹھ | ۴۲<br>۵ | ریوتی | ۵۲<br>۵ | سدھ | ۳۸<br>۵۲ | میکھ | ۵۷<br>۵ | | | ۲۶<br>۰۰ | ۶<br>۴۸ | ۵<br>۱۲ | | پنچک ختم ۵۲-۵ |
| برہسپت وار | ۳۰ | ۵ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۷ | ستمی | ۳۶<br>۵۱ | اشونی | ۴۶<br>۴۳ | سادھ | ۲۱<br>۱۰ | | | ۳۶<br>۵۰ | | ۲۶<br>۳ | ۶<br>۴۷ | ۵<br>۱۳ | | اچلا ستی |
| شکروار | ۳۱ | ۶ | ۱۱ | ۲۳ | ۱۸ | اشٹمی | ۳۱<br>۳۰ | بھرنی | ۳۷<br>۴۹ | شبھ | ۱۳<br>۳۰ | | | | ۴<br>۱۰ | ۲۶<br>۸ | ۶<br>۴۷ | ۵<br>۱۳ | ◐ | بھیشم اشٹمی |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ جنوری کو بادل ہوئے تو بارش جلد ہونے کی علامت ہے۔ اگر ۸ جنوری کو آسمان ابر چھایا رہا۔ تو ماہ [illegible] کی آبادش کو بارش ضرور ہوگی۔ اگر ۱۹ جنوری کو بادل گرجا اور بارش ہوئی۔ تو ماہ ساون و اسوج میں بارش کی سخت قلت ہوگی۔ اگر ۲۰ جنوری کو بجلی چمکے ہوا چلے۔ تو آئندہ بارش خوب ہو۔ اگر ۲۴ جنوری کو بادل ہوئے۔ تو ماہ بھادوں میں بارش اچھی ہوگی۔ اگر ۲۵ جنوری کو گھنے بادل ہوئے تو تمام سوگندھی والی چیزیں گراں ہونگی۔ اگر ۲۶ جنوری کو مطلع صاف رہا۔ تو ایک ماہ تک غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۷ جنوری کو بادل گرجا تو پان۔ ناریل وغیرہ گراں ہونگے۔ اگر ۳۰ جنوری کو مطلع صاف رہا۔ تو تمام سال گرانی غلہ کی علامت ہے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت مکر جنوری ۱۴ بوقت ۵۴



پن کال سنکرانت ۱۶ سے ۳۳ تک

## پیشینگوئی بابت ماہ ماگھ

ابتدائے ۱۴ جنوری لغایت ۱۱ فروری

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز منگلوار بیساکھی نکشتر میں پردیش ہوگی۔ جوکہ ۵۴ مہورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں کمی بیشی ہوتی رہیگی۔ لیکن اوسط نرخ گرانی پر رہیگا۔ غلہ تو، مونگ، مرمٹھ، ماش، جوار، باجرہ وغیرہ کا نرخ بھی ایک حال پر رہیگا۔ چاول، کھانڈ، دودھ، دہی، گھی، سن، سرسوں، نوار، روئی، کپاس کا نرخ گراں رہیگا۔ تل، تیل، السی، سرسوں، تودیہ، تارا میرا کا بھاؤ بھی تیز ہوگا۔ گڑ، شکر، شہد، لال مرچ، چھوہارے، پشمینہ، لاکھ، مسور وغیرہ گراں رہینگے۔ سونا، تانبہ، پیتل کا نرخ گراں۔ قلعی، جستی، چاندی وغیرہ کا بھاؤ تیز رہیگا۔ لکڑی، کوئلہ، تمباکو، چارہ، بھوسہ، کوڑی، گھاس گراں ہونگے۔ پنساری کا سامان، زیرہ، مرچ سیاہ، ہلدی، دھنیا، چھوہارا، انار دانہ وغیرہ کا نرخ سم رہیگا۔

موسم شکر و راہو کا ذاتی یوگ ہے جو کہ مستورات کی صحت خراب اور اموات زیادہ کریگا۔ منگل اور شنیچر کا ملاپ ہے جو کہ امراض پھیلائیگا۔ فسادات اور دنگل کی بھی تاثیر رکھتا ہے اسلئے اکثر مقامات پر آگ کے واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ آگ سے بھی نقصان ہو۔

## کرۂ فلک

آسمان سرخی مائل زیادہ رہیگا۔ رات کو سیاہ سے زیادہ تو رہینگے۔ بارش کم ہوگی۔ ماہ جنوری کی ۱۳-۱۵-۱۶ و ۱۸-۱۹-۲۰ تاریخ کو آسمان پر بادل چھائے رہینگے۔ ہوا تیز چلیگی۔ ۲۳-۲۴-۲۶ جنوری کو آسمان ابر گیر ۳۰-۳۱ جنوری کو خفیف بوندا باندی ہوگی۔

ماہ فروری کی ۲ و ۳ تاریخ ابر بستہ، بعض جگہ بارش اور ۴-۵-۹ فروری کو آسمان ابر گیر، ہوا تیز چلنے کا یوگ ہے۔





تقویم ستیارگان

| | |
|---|---|
| ۱ | سورج پورب کھاڈ کے (۲) [illegible] ۲۹-۳ |
| ۲ | شکر دھنشٹا کے ۱۹۱۲ [illegible] ۵۹ |
| ۳ | بدھ اترا کھاڈ کے (۴) ۵۲-۶ |
| ۴ | سورج پورب کھاڈ کے [illegible] |
| ۵ | شکر اترا کھاڈ کے (۲) ۲۵-۵۳ |
| ۶ | منگل دھنشٹا کے (۳) [illegible] |
| ۷ | سورج پورب کھاڈ (۱) ۴۵-۳۲ |
| ۸ | شکر دھنشٹا کے (۱) ۲۹-۲۹ |
| ۹ | |
| ۱۰ | منگل دھنشٹا کے (۴) ۵۵-۰۰ بدھ شرون کے (۱) ۵۸ |
| ۱۱ | سورج اترا کھاڈ کے (۱) ۰۰-۵۵ شکر دھنشٹا کے (۲) ۰۳-۳ |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | شکر دھنشٹا کے (۳) ۵۶-۱۱ |
| ۱۴ | سورج اترا کھاڈ کے (۲) ۱۴-۰۰ بدھ شرون کے (۳) ۲۸-۴۶ |
| ۱۵ | منگل شت بھکا کے (۱) ۹-۵ |
| ۱۶ | شکر دھنشٹا کے (۴) ۴-۹ |
| ۱۷ | سورج اترا کھاڈ کے (۳) ۳۲-۹ شکر شت بھکا کے (۱) ۴۶ |
| ۱۸ | |
| ۱۹ | منگل شت بھکا کے (۲) ۴-۳۰ شکر [illegible] (۱) ۲۲ |
| ۲۰ | سورج اترا کھاڈ کے (۴) ۴۸-۱ |
| ۲۱ | شکر مولا کے (۲) ۵۹-۵۷ |
| ۲۲ | |
| ۲۳ | منگل شت بھکا کے (۲) ۳۵-۳۴ |
| ۲۴ | سورج شرون کے (۱) ۲ شکر مولا کے (۳) ۴۸-۳۵ |
| ۲۵ | بدھ شرون کے (۲) ۴۸-۵۲ [illegible] (۳) ۵۲-۲۳ |
| ۲۶ | |
| ۲۷ | سورج شرون کے (۲) ۱۹-۵۰ [illegible] (۲) ۳۸-۲۵ |
| ۲۸ | منگل شت بھکا کے (۳) ۵-۸ |
| ۲۹ | |
| ۳۰ | [illegible] |
| ۳۱ | |

| فروری | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | تتھی | گھڑی پل | نکشتر | گھڑی پل | یوگ | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | ابتدا گھڑی پل | انتہا گھڑی پل | گھڑی پل | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنیچروار | ۱ | ۷ | ۱۲ | ۲۴ | ۱۹ | نومی | ۲۶<br>۵۵ | کرتکا | ۳۲<br>۵ | شکل | ۶<br>۳۸ | برکھ | ۱<br>۲۳ | | | ۲۶<br>۱۲ | ۶<br>۴۶ | ۵<br>۱۴ | | |
| اتوار | ۲ | ۸ | ۱۳ | ۲۵ | ۲۰ | دسمی | ۲۳<br>۷ | روہنی | ۳۰<br>۱۵ | برہما<br>ایندر | ۳۰۔۰<br>۳۴۔۳۵ | | | ۵۱<br>۴۳ | | ۲۶<br>۱۹ | ۶<br>۴۵ | ۵<br>۱۵ | | |
| سوموار | ۳ | ۹ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۱ | ایکادشی | ۲۰<br>۱۹ | مرگشر | ۳۹<br>۱۷ | بیدھرت | ۴۹<br>۵۱ | متھن | ۹<br>۴۶ | | ۳۰<br>۱۹ | ۲۶<br>۲۰ | ۶<br>۴۴ | ۵<br>۱۶ | | موہنی ایکادشی |
| منگلوار | ۴ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۷ | ۲۲ | دوادشی | ۱۸<br>۳ | آردرا | ۳۳<br>۲۹ | وشکمبھ | ۴۵<br>۵۴ | | | | | ۲۶<br>۲۲ | ۶<br>۴۳ | ۵<br>۱۶ | | |
| بدھوار | ۵ | ۱۱ | ۱۶ | ۲۸ | ۲۳ | تیرودشی | ۱۸<br>۰ | پنرواس | ۳۰<br>۵۴ | پریت | ۴۳<br>۰ | کرک | ۲۲<br>۱۹ | | | ۲۶<br>۲۸ | ۶<br>۴۳ | ۵<br>۱۷ | | |
| ویروار | ۶ | ۱۲ | ۱۷ | ۲۹ | ۲۴ | چتردشی | ۱۸<br>۳۹ | پکھ | ۳۳<br>۳۸ | آیوشمان | ۴۱<br>۳ | | | ۱۸<br>۴۹ | ۳۹<br>۵۲ | ۲۶<br>۳۲ | ۶<br>۴۲ | ۵<br>۱۸ | ○ | |
| شکروار | ۷ | ۱۳ | ۱۸ | ۳۰ | ۲۵ | پورنماشی | ۲۰<br>۵۵ | اشلیکھا | ۳۶<br>۳۵ | سوبھاگ | ۴۰<br>۶ | سنگھ | ۲۶<br>۳۳ | | | ۲۶<br>۳۶ | ۶<br>۴۱ | ۵<br>۱۹ | | ماگھ اشنان ختم۔ پورنماشی برت |
| سنیچروار | ۸ | ۱۴ | ۱۹ | [illegible] | ۲۶ | پڑوا | ۲۳<br>۱۳ | مگھا | ۵۲<br>۳۵ | شوبھن | ۴۰<br>۲ | | | | | ۲۶<br>۴۰ | ۶<br>۴۰ | ۵<br>۲۰ | | بدھ مشرق میں طلوع ۳۱-۵۵ |
| اتوار | ۹ | ۱۵ | ۲۰ | ۲ | ۲۷ | دوج | ۲۶<br>۷ | پوروا پھالگنی | ۵۰<br>۲۵ | اتیگنڈ | ۴۰<br>۴۱ | | | | | ۲۶<br>۴۴ | ۶<br>۳۹ | ۵<br>۲۱ | | |
| سوموار | ۱۰ | ۱۶ | ۲۱ | ۳ | ۲۸ | تیج | ۳۳<br>۳۵ | اترا پھالگنی | ۶۰<br>۰۰ | سوکرما | ۴۱<br>۴۸ | کنیا | ۱۵<br>۱ | ۱<br>۱ | ۳۳<br>۳۵ | ۲۶<br>۴۸ | ۶<br>۳۸ | ۵<br>۲۲ | | |
| منگلوار | ۱۱ | ۱۷ | ۲۲ | ۴ | ۲۹ | چوتھ | ۳۸<br>۵۳ | اترا پھالگنی | ۴<br>۵۱ | دھرت | ۴۳<br>۱۳ | | | | | ۲۶<br>۵۲ | ۶<br>۳۷ | ۵<br>۲۳ | | گنیش چوتھ |
| بدھوار | ۱۲ | ۱۸ | ۲۳ | ۵ | [illegible] | پنچمی | ۴۴<br>۲۲ | ہست | ۱۱<br>۲۸ | شول | ۴۴<br>۱۱ | تلا | ۲۲<br>۳۷ | | | ۲۶<br>۵۶ | ۶<br>۳۶ | ۵<br>۲۳ | | سورج کنبھ میں ۴۳-۳۱<br>شکر غروب میں ۲۳-۵۰ |
| ویروار | ۱۳ | ۱۹ | ۲۴ | ۶ | ۲ | چھٹ | ۴۹<br>۳ | چترا | ۱۷<br>۳۰ | گنڈ | ۴۶<br>۹ | | | ۴۹<br>۳ | | ۲۷<br>۰۰ | ۶<br>۳۴ | ۵<br>۲۴ | | چندر ۱۲-۳۵ پر ادگی ہوا |
| شکروار | ۱۴ | ۲۰ | ۲۵ | ۷ | ۳ | ستمی | ۵۳<br>۱۲ | سواتی | ۲۳<br>۳۴ | بردھ | ۴۸<br>۳۱ | | | | ۳۱<br>۸ | ۲۷<br>۴ | ۶<br>۳۵ | ۵<br>۲۵ | | منگل مکر میں ۱۹-۲۷ پر آیا |
| سنیچروار | ۱۵ | ۲۱ | ۲۶ | ۸ | ۴ | اشٹمی | ۵۶<br>۰۰ | وشاکھا | ۲۸<br>۹ | دھرو | ۴۵<br>۳ | برشچک | ۱۱<br>۵۵ | | | ۲۷<br>۸ | ۶<br>۳۴ | ۵<br>۲۶ | ◐ | [illegible] ۴۵<br>[illegible] ۵۵-۱۷ |
| اتوار | ۱۶ | ۲۲ | ۲۷ | ۹ | ۵ | نومی | ۵۶<br>۲۸ | انورادھا | ۳۱<br>۵۰ | ویاگھات | ۴۳<br>۴۲ | | | | | ۲۷<br>۱۲ | ۶<br>۳۳ | ۵<br>۲۶ | | |
| سوموار | ۱۷ | ۲۳ | ۲۸ | ۱۰ | ۶ | دسمی | ۵۸<br>۸ | جیشٹھا | ۳۳<br>۳ | ہرکھن | ۴۰<br>۵۲ | دھن | ۳۴<br>۳ | ۲۴<br>۵۸ | ۵۸<br>۸ | ۲۷<br>۱۶ | ۶<br>۳۲ | ۵<br>۲۸ | | |
| منگلوار | ۱۸ | ۲۴ | ۲۹ | ۱۱ | ۷ | ایکادشی | ۵۰<br>۱۳ | مول | ۳۵<br>۷ | بجر | ۳۶<br>۰۰ | | | | | ۲۷<br>۲۰ | ۶<br>۳۲ | ۵<br>۲۸ | | بجیا ایکادشی |
| بدھوار | ۱۹ | ۲۵ | ۳۰ | ۱۲ | ۸ | دوادشی | ۵۵<br>۹ | پورواشاڑھ | ۳۵<br>۰۰ | سدھی | ۳۱<br>۳ | مکر | ۳۹<br>۴۱ | | | ۲۷<br>۲۴ | ۶<br>۳۰ | ۵<br>۲۹ | | |
| ویروار | ۲۰ | ۲۶ | [illegible] | ۱۳ | ۹ | تیرودشی | ۵۱<br>۵۴ | اتراشاڑھ | ۳۳<br>۳۴ | ویتی پات | ۲۶<br>۲۵ | | | ۵۱<br>۵۶ | | ۲۷<br>۲۸ | ۶<br>۳۰ | ۵<br>۳۰ | | |
| شکروار | ۲۱ | ۲۷ | ۲ | ۱۴ | ۱۰ | چودس | ۴۷<br>۵۲ | شرون | ۳۱<br>۴۱ | وریان | ۲۱<br>۲۸ | | | | ۱۹<br>۵۵ | ۲۷<br>۳۲ | ۶<br>۲۹ | ۵<br>۳۱ | | مہا شیو راتری چودش برت |
| سنیچروار | ۲۲ | ۲۸ | ۳ | ۱۵ | ۱۱ | اماوس | ۴۲<br>۵۳ | دھنشٹھا | ۲۸<br>۲۲ | پرگھ | ۱۴<br>۴۹ | کمبھ | ۰۰<br>۱۳ | | | ۲۷<br>۳۶ | ۶<br>۲۸ | ۵<br>۳۲ | ● | پنچک شروع ۰۰-۱۳ |
| اتوار | ۲۳ | ۲۹ | ۴ | ۱۶ | ۱۲ | پڑوا | ۳۷<br>۳۶ | شتبھشا | ۲۵<br>۱۰ | شیو | ۷<br>۳۸ | | | | | ۲۷<br>۴۰ | ۶<br>۲۸ | ۵<br>۳۲ | | |
| سوموار | ۲۴ | ۳۰ | ۵ | ۱۷ | ۱۳ | دوج | ۳۱<br>۴۳ | پوروا بھادرپد | ۲۱<br>۱۴ | سدھ<br>سادھیہ | ۰۔۰۰<br>۴۰۔۵۲ | مین | ۷<br>۱۳ | | | ۲۷<br>۴۵ | ۶<br>۲۷ | ۵<br>۳۳ | | چاند نظر آئیگا |
| منگلوار | ۲۵ | [illegible] | ۶ | ۱۸ | ۱۴ | تیج | ۲۵<br>۵۳ | اترا بھادرپد | ۱۷<br>۶ | شبھ | ۵۳<br>۵۷ | | | ۵۳ | | ۲۷<br>۵۰ | ۶<br>۲۶ | ۵<br>۳۴ | | برہسپت دکھن میں ۱۱-۱۳ پر آیا |
| بدھوار | ۲۶ | ۲ | ۷ | ۱۹ | ۱۵ | چوتھ | ۲۰<br>۷ | ریوتی | ۱۳<br>۵۹ | شکل | ۴۶<br>۲۶ | میکھ | ۱۲<br>۵۹ | | ۲۰<br>۷ | ۲۷<br>۵۵ | ۶<br>۲۵ | ۵<br>۳۵ | | پنچک ختم ۱۲-۵۹ |
| ویروار | ۲۷ | ۳ | ۸ | ۲۰ | ۱۶ | پنچمی | ۱۴<br>۲۱ | اشونی | ۹<br>۲ | برہم | ۳۹<br>۱۲ | | | | | ۲۸<br>۰۰ | ۶<br>۲۴ | ۵<br>۳۶ | | |
| شکروار | ۲۸ | ۴ | ۹ | ۲۱ | ۱۷ | چھٹ | ۹<br>۱۳ | بھرنی | ۵<br>۳۳ | اینڈر | ۲۲<br>۱۰ | برکھ | ۱۹<br>۵۰ | | | ۲۸<br>۵ | ۶<br>۲۳ | ۵<br>۳۶ | | |
| سنیچروار | ۲۹ | ۵ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۸ | ستمی | ۴<br>۳۳ | کرتکا | ۲<br>۳۹ | بیدھرت | ۱۵<br>۲۰ | | | ۲<br>۳۴ | ۳۲<br>۴۳ | ۲۸<br>۱۰ | ۶<br>۲۲ | ۵<br>۳۸ | ◑ | |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ فروری کو بارش ہوئی۔ تو فصل اچھا ہوگا۔ اگر ۷ فروری کو بادل رہے تو ماہ ساون میں اناج گراں رہے۔ اگر ۸ فروری کو بادل ہوئے۔ تو ماہ ساون میں غلہ کا نرخ تیزی پر رہے۔ اگر ۱۰ فروری کو چاند کے گرد ہالہ پڑا۔ تو ماہ چیت میں بادل بہت ہوں گے۔ اگر ۱۵ فروری کو بادل ہوئے۔ تو ماہ جیٹھ میں ژالہ باری ہوگی۔ اگر ۲۱ و ۲۲ فروری رات کو بادل گرجا۔ تو ماہ جیٹھ میں آندھیاں کثرت سے آویں۔ اگر ۲۶ فروری کو بادل ۲۷ فروری کو مطلع صاف اور ۲۹ فروری کو بارش ہوئی۔ تو ماہ بیساکھ میں غلہ گراں ہوئےگا۔

ماہ فروری سنہ ۱۹۳۶ء

## نقشہ سیارگان پنچانگ

| | |
|---|---|
| ۱ | منگل پوربا بھادرپد کے (۱) ۲۱-۵۵<br>شکر پوربا کھاڈھ کے (۲) ۶-۱۲ |
| ۲ | سورج شرون کے (۴) ۵۳-۰۰ |
| ۳ | بدھ اترا کھاڈھ کے (۲) ۶-۴۹ برہسپت جیشٹھا کے (۴) ۳۱-۴۹ |
| ۴ | شکر پوربا کھاڈھ کے (۳) ۳۶-۴۵ |
| ۵ | منگل پوربا کھاڈھ کے (۲) ۳۷-۳۸ |
| ۶ | سورج دھنشٹا کے (۱) ۹-۵۸ |
| ۷ | شکر پوربا کھاڈھ کے (۴) ۱۹-۴ |
| ۸ | |
| ۹ | سورج دھنشٹا کے (۲) ۲۶-۵۵<br>بدھ اترا کھاڈھ کے (۳) ۱۸-۳۸ |
| ۱۰ | منگل پوربا بھادرپد (۳) ۱۳-۸<br>شکر اترا کھاڈھ کے (۱) ۰-۲۱ |
| ۱۱ | |
| ۱۲ | سورج دھنشٹا کے (۳) ۴۳-۴۱<br>شکر اترا کھاڈھ کے (۲) ۳۳-۵ |
| ۱۳ | بدھ اترا کھاڈھ کے (۲) ۲۱-۴۳ |
| ۱۴ | منگل پوربا بھادرپد کے (۴) ۱۶-۷ |
| ۱۵ | شکر اترا کھاڈھ کے (۳) ۳۴-۵۲ |
| ۱۶ | سورج دھنشٹا کے (۴) ۱-۴۹ |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | منگل اترا بھادرپد کے (۱) ۴۱-۳۷<br>شکر اترا کھاڈھ کے (۴) ۵-۵۲ |
| ۱۹ | سورج ستبھکھا کے (۱) ۲۰-۱۳ |
| ۲۰ | بدھ شرون کے (۱) ۳-۱۹<br>شکر شرون کے (۱) ۴۸-۲ |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | سورج ستبھکھا کے (۲) ۳۴-۵۱<br>برہسپت مول کے (۴) ۳۳-۴۲ |
| ۲۳ | منگل اترا بھادرپد کے (۲) [illegible]<br>[illegible] |
| ۲۴ | |
| ۲۵ | سورج ستبھکھا کے (۳) ۵۱-۳۶<br>برہسپت مول کے (۱) ۱۱-۱۳ |
| ۲۶ | بدھ شرون کے (۲) ۳۷-۲<br>شکر شرون کے (۲) ۱-۲۲ |
| ۲۷ | منگل اترا بھادرپد کے (۳) ۲۱-۳۸ |
| ۲۸ | شکر شرون کے (۳) ۵۱-۱ |
| ۲۹ | سورج ستبھکھا کے (۴) ۱۶-۴۰<br>[illegible] |

تحویل آفتاب در برج حوت ۱۹ فروری بوقت [illegible]



کنڈلی گرہ نشٹ پورنماشی ۸ فروری بوقت [illegible]

کنڈلی پھاگن بدی اشٹمی ۱۵ فروری بوقت [illegible]

کنڈلی پھاگن بدی اماوس ۲۳ فروری بوقت [illegible]

کنڈلی پھاگن سدی اشٹمی ۲۹ فروری بوقت [illegible]

## تقویم سیارگان

| نام سیارہ | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیت | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیت | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیت | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در راسی | مکر | کنبھ | کنبھ | برچھک | دھن | کنبھ | دھن | متھن | کنبھ | مین | مکر | برچھک | مکر | کنبھ | دھن | متھن | کنبھ | مین | مکر | برچھک | مکر | کنبھ | دھن | متھن | کنبھ | مین | مکر | دھن | مکر | کنبھ | دھن | متھن |
| انش | ۲۳ | ۲۳ | ۷ | ۲۶ | ۲۳ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۳ | ۱ | ۷ | ۲۸ | ۳ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۰ | ۶ | ۱۲ | ۲۹ | ۱۳ | ۱۷ | [illegible] | [illegible] | ۱۹ | ۱۱ | ۲۰ | - | ۲۱ | [illegible] | ۱۶ | [illegible] |
| کلا | ۵۵ | ۵۵ | ۲۸ | ۲۲ | ۲۹ | ۳۶ | ۸ | ۸ | ۱ | ۵ | ۳۲ | ۳۴ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۲ | ۶ | ۳۴ | ۳۳ | ۳۹ | ۴۳ | ۴۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۱ | ۵۰ | ۵۶ | ۴۰ | ۷ | ۳۳ | ۵۸ | ۵۸ |
| بکلا | ۱ | ۳۸ | ۲۴ | ۲۲ | ۵۵ | ۵۸ | ۴ | ۴ | ۳۴ | ۲۴ | ۵ | ۳۰ | ۱۲ | ۴۴ | ۳۹ | ۳۴ | ۰۰ | ۵۲ | ۳۷ | ۱۵ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۳ | ۴۷ | ۵۴ | ۳ | ۴۳ | ۱ | ۲ | ۲ |
| حرکت روزانہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳<br>۱۱ | ۳<br>۱۱ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳<br>۱۱ | ۳<br>۱۱ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳<br>۱۱ | ۳<br>۱۱ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳<br>۱۱ | ۳<br>۱۱ |
| بکری و مارگی | م | م | ب | م | م | م | ب | ب | م | م | م | م | م | م | ب | ب | م | م | م | م | م | م | ب | ب | م | م | م | م | م | م | ب | ب |
| طلوع و غروب | ط | ط | غ | ط | ط | ط | غ | غ | ط | ط | ط | ط | ط | غ | غ | غ | ط | ط | ط | ط | ط | غ | غ | غ | ط | ط | ط | ط | ط | غ | غ | غ |

### استعمال و پرہیز

استعمال۔ گھی بادام روغن زرد ملنا۔ نیم گرم پانی سے نہانا۔ چائے بغیر [illegible] ورزش کرنا۔ صحت کے لئے مفید ہے۔

پرہیز۔ [illegible] کوئلہ جلا کر مکان بند کرکے بیٹھنا مضر صحت ہے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کنبھ مہورتی ۳۰ بوقت [illegible]



پن کال سنکرانت [illegible] دوپہر کے بعد سے شروع

## پیشینگوئی بابت ماہ پھاگن

ابتدا سے ۱۷ فروری نہایت ۱۳ مارچ

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار [illegible] نکشتر میں پرویش ہوگی جو کہ ۳۰ مہورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ بدستور ماہ سابقہ ہی رہیگا۔ غلہ نخود کا بھاؤ گاہے گراں گاہے ارزاں ہوتا ہے۔ گھی۔ دودھ۔ دہی۔ چاول۔ کھانڈ کے نرخ میں قدرے ارزانی رہیگی۔ نمک و ماش گراں رہینگے اشیاء سرخ رنگ۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ مسور۔ چندن اور سرخ رنگ کے چوپائے وغیرہ کا نرخ تیز ہوگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ پھوٹ جوار۔ بنولہ وغیرہ کا نرخ ارزاں رہیگا۔ تیل۔ تل گراں۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ تارامیرا کا نرخ کچھ ارزاں ہوگا۔ سونا۔ تانبہ۔ پیتل۔ لوہا۔ سکہ وغیرہ کا نرخ ارزاں رہیگا۔ علاقہ مارواڑ میں قحط کے آثار نمودار ہونگے۔ کاٹن۔ کوکہ کا نرخ ارزاں۔ چارہ بھوسہ۔ گھاس۔ توڑی کا نرخ تیز رہیگا۔

موسم۔ آدرا بروز سنیچروار ہے۔ اس لئے بیماری کا زور رہیگا۔ بخار محرقہ اور طاعون سے بہت جانیں ضائع ہونگی۔ خونی امراض سے بھی لوگ تنگ ہونگے۔

### کرۂ فلک

سورج و سنیچر کا باہمی رتھی سنجوگ ہے۔ اس لئے ہوا تیز چلیگی۔ بارش کم ہوگی۔ بادل کی گرج۔ بجلی کی چمک۔ ژالہ باری اور بجلی گرنے سے بہت نقصان ہوگا۔ فصل کو بھی نقصان پہنچیگا۔ ماہ فروری کی ۱۲ و ۱۳ تاریخ کو بادل ہوا تیز ۱۴ و ۱۵ فروری کو گرج چمک بارش اور ژالہ باری بھی ہو ۲۰ و ۲۱ فروری کو خفیف بارش ۲۵۔ ۲۸۔ ۲۹ فروری کو بادل۔ ہوا تیز۔ بارش۔ کھنڈ برشٹی۔ یکم ۲ و ۳ مارچ کو ہوا تیز۔ گرج۔ چمک۔ ژالہ باری۔ ۶ و ۷ مارچ کو آسمان ابر آلود خفیف بارش اور ۱۱ و ۱۲ مارچ کو بادل رہیگا۔

### نظر اشرف ہبوط سیارگان

ماہ فروری

یکم فروری۔ قمر در برج ثور شرف میں داخل۔

۷ فروری عطارد مشرق میں طلوع۔

۸ فروری مریخ و زہرہ نظر تسدیس۔

۱۳ فروری عطارد در حالت مستقیم ہوا۔

۱۵ فروری قمر در برج عقرب ہبوط میں داخل۔

۱۵ فروری زحل مغرب میں غروب۔

۲۳ فروری شمس و زحل کا برج حوت میں قران۔

۲۸ فروری قمر در برج ثور شرف میں داخل۔



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار | ۱ | ۶ | ۱۱ | ۲۳ | ۱۹ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۸<br>۱۵ | ۶<br>۲۱ | ۵<br>۳۹ | ہنسکا اشٹمی |
| سوموار | ۲ | ۷ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۰ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۸<br>۲۰ | ۶<br>۲۰ | ۵<br>۴۰ | |
| منگلوار | ۳ | ۸ | ۱۳ | ۲۵ | ۲۱ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۲<br>۱ | ۵۵<br>۴۵ | ۲۸<br>۲۵ | ۶<br>۱۹ | ۵<br>۴۱ | آملا اکیادشی |
| بدھوار | ۴ | ۹ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۸<br>۳۰ | ۶<br>۱۸ | ۵<br>۴۲ | |
| ویروار | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۷ | ۲۳ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۸<br>۳۵ | ۶<br>۱۷ | ۵<br>۴۳ | ماوتا - عید اضحیٰ |
| شکروار | ۶ | ۱۱ | ۱۶ | ۲۸ | ۲۴ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۸<br>۴۰ | ۶<br>۱۶ | ۵<br>۴۳ | بدھ کنبھ میں ۵۵-۵۵ پر آیا |
| سنیچروار | ۷ | ۱۲ | ۱۷ | ۲۹ | ۲۵ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱<br>۵۴ | ۳۳<br>۱۱ | ۲۸<br>۴۵ | ۶<br>۱۵ | ۵<br>۴۵ | شکر کنبھ میں ۵۵-۴۴ پر آیا۔<br>ہولی کی اگن - پورنماشی [illegible] |
| اتوار | ۸ | ۱۳ | ۱۸ | ۳۰ | ۲۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۸<br>۵۰ | ۶<br>۱۴ | ۵<br>۴۶ | ہولی - |
| سوموار | ۹ | ۱۴ | ۱۹ | [illegible] | ۲۷ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۸<br>۵۵ | ۶<br>۱۳ | ۵<br>۴۷ | ہولا |
| منگلوار | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۲ | ۲۸ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۹<br>۱۹ | | ۲۹<br>۰ | ۶<br>۱۲ | ۵<br>۴۸ | |
| بدھوار | ۱۱ | ۱۶ | ۲۱ | ۳ | ۲۹ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | ۳۱<br>۵۳ | ۲۹<br>۵ | ۶<br>۱۱ | ۵<br>۴۹ | گنیش چوتھ |
| ویروار | ۱۲ | ۱۷ | ۲۲ | ۴ | ۳۰ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۹<br>۱۰ | ۶<br>۱۰ | ۵<br>۵۰ | |
| شکروار | ۱۳ | ۱۸ | ۲۳ | ۵ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۹<br>۱۵ | ۶<br>۹ | ۵<br>۵۰ | سورج مین میں ۴۳-۶ [illegible]<br>بدھ مشرق میں غروب [illegible] |
| سنیچروار | ۱۴ | ۱۹ | ۲۴ | ۶ | ۲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۳<br>۱۹ | | ۲۹<br>۲۰ | ۶<br>۸ | ۵<br>۵۲ | |
| اتوار | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۷ | ۳ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | ۳<br>۵ | ۲۹<br>۲۵ | ۶<br>۷ | ۵<br>۵۳ | سیتلا اشٹمی |
| سوموار | ۱۶ | ۲۱ | ۲۶ | ۸ | ۴ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۹<br>۳۰ | ۶<br>۶ | ۵<br>۵۴ | اٹھوں کا میلہ |
| منگلوار | ۱۷ | ۲۲ | ۲۷ | ۹ | ۵ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۹<br>۳۵ | ۶<br>۵ | ۵<br>۵۵ | |
| بدھوار | ۱۸ | ۲۳ | ۲۸ | ۱۰ | ۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۸ | ۳۰<br>۵۰ | ۲۹<br>۴۰ | ۶<br>۴ | ۵<br>۵۶ | |
| ویروار | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹ | ۱۱ | ۷ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۹<br>۴۵ | ۶<br>۳ | ۵<br>۵۷ | پاپ موچنی ایکادشی |
| شکروار | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰ | ۱۲ | ۸ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۹<br>۵۰ | ۶<br>۲ | ۵<br>۵۸ | پنچک شروع ۳۱ - ۵ |
| سنیچروار | ۲۱ | ۲۶ | [illegible] | ۱۳ | ۹ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۴<br>۱۹ | ۲۶<br>۱۲ | ۲۹<br>۵۵ | ۶<br>۱ | ۵<br>۵۹ | سنیچر مشرق میں طلوع ۱۳ [illegible] |
| اتوار | ۲۲ | ۲۷ | ۲ | ۱۴ | ۱۰ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۰<br>۰ | ۶<br>۰ | ۶<br>۰ | چیت چودس |
| سوموار | ۲۳ | ۲۸ | ۳ | ۱۵ | ۱۱ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۰<br>۵ | ۵<br>۵۹ | ۶<br>۱ | بدھ مین میں ۵۹-۳۵ پر آیا<br>[illegible] |
| منگلوار | ۲۴ | ۲۹ | ۴ | ۱۶ | ۱۲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۰<br>۱۰ | ۵<br>۵۸ | ۶<br>۲ | [illegible] |
| بدھوار | ۲۵ | محرم | ۵ | ۱۷ | ۱۳ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۰<br>۱۵ | ۵<br>۵۷ | ۶<br>۳ | [illegible] ۱۳۵۵ ہجری شروع |
| ویروار | ۲۶ | ۲ | ۶ | ۱۸ | ۱۴ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۳<br>۵۸ | ۳۰<br>۲۰ | ۵<br>۵۶ | ۶<br>۴ | |
| شکروار | ۲۷ | ۳ | ۷ | ۱۹ | ۱۵ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۰<br>۲۵ | ۵<br>۵۵ | ۶<br>۵ | بسنتی پنچمی |
| سنیچروار | ۲۸ | ۴ | ۸ | ۲۰ | ۱۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۰<br>۳۰ | ۵<br>۵۴ | ۶<br>۶ | سکند چھٹ |
| اتوار | ۲۹ | ۵ | ۹ | ۲۱ | ۱۷ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۳<br>۳۸ | | ۳۰<br>۳۵ | ۵<br>۵۳ | ۶<br>۷ | [illegible] سپتمی - میلہ شالامار باغ لاہور |
| سوموار | ۳۰ | ۶ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۸ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | ۲<br>۵۴ | ۳۰<br>۴۰ | ۵<br>۵۲ | ۶<br>۸ | درگا اشٹمی |
| منگلوار | ۳۱ | ۷ | ۱۱ | ۲۳ | ۱۹ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۰<br>۴۵ | ۵<br>۵۱ | ۶<br>۹ | رام نومی |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ مارچ کو بادل اور ۳ مارچ کو مطلع صاف رہا۔ تو آئندہ بارش کی قلت اور آندھی سخت چلنے کا یوگ جاننا۔ اگر ۸ مارچ کو گرج کے بارش ہو دئی۔ تو ماہ ساون بھادوں میں نرخ غلہ گراں اور بارش کم ہو۔ اگر ۱۰ مارچ کو مطلع صاف رہا اور ہوا چلی۔ تو ماہ بھادوں میں بارش خوب ہو۔ اگر ۱۱ مارچ کو پورب دا تر کی ہوا چلی۔ تو غلہ ارزاں ہو۔ اگر ۱۲ مارچ کو بارش ہوئی۔ تو یہ علامت قحط سالی کی ہے۔ اگر ۱۵ مارچ کو بادل رہے۔ تو نرخ ونج کی تمام اشیا ارزاں ہو جاویں۔ اگر ۱۷ مارچ کو بجلی چمکی۔ تو بارش کے لئے شبھ ہے۔ اگر ۲۵ مارچ کو مطلع صاف رہا۔ تو ماہ بھادوں بارش سے خالی جاوے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت مین سنکرانتی ۵ ۲۲ وقت ۳۲



پن کال سنکرانت == دوپہر کے بعد سے شروع

# پیشگوئی بابت ماہ چیت

ابتداء ۱۳ مارچ لغایت ۱۱ اپریل

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز شکروار یعنی جمعہ میں پرویش کرگی جو کرہ ۴ مہورتی ہے۔ اس سے غلہ گندم و جو کے نرخ میں خفیف گرانی رہیگی غلہ خورد مونگ۔ ماش۔ جوار۔ باجرہ۔ موٹھ۔ مٹر کا نرخ بھی تیز رہیگا۔ دودھ۔ دہی۔ گھی کا بھاؤ مدہم۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارا میرا۔ بنولہ کا نرخ ارزاں رہے گا۔ گڑ۔ شکر۔ شہد۔ کالی مرچ۔ سونٹھ۔ چندن وغیرہ کا نرخ گراں ہوگا۔ چاول۔ چاندی قلعی۔ روئی۔ کپاس۔ سوت۔ کپڑا سفید کا نرخ ارزاں ہوگا۔ سواری کے جانور۔ گھوڑا ہاتھی۔ اونٹ وغیرہ ارزاں بکیں گے۔ سونا تانبہ۔ لوہا۔ سکہ کا نرخ تیز رہیگا۔ لکڑی کوئلہ۔ چارہ۔ گھاس وغیرہ کا نرخ گرانی پر ہوگا۔ سوتی و ریشمی کپڑا رنگدار کا نرخ گراں سفید کا ارزاں رہیگا۔ پنساریوں کا سامان گراں بکیگا۔

موسم۔ لوگوں کی صحت اس ماہ میں کچھ اچھی نہ رہے گی۔ امراض خونی اور بخار سے لوگ تکلیف پائینگے۔

## کرۂ فلک

اس ماہ میں شکر و سنیچر کا راشی بھوگ ہے۔ اور چندرماں جل چکر میں ہے۔ اس لئے بادل بہت ہونگے۔ بارش بھی ہوگی۔ ہوا زیادہ چلیگی۔ جو کہ فصل کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ۱۳ و ۱۴ مارچ کو آسمان ابر چھایا۔ بارش ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵ مارچ کو آسمان پر بادل۔ ہوا تیز۔ گرج چمک۔ شمالی بادل اور بارش [illegible] ۲۹۔ ۳۰ مارچ کو خفیف بارش [illegible] ماہ اپریل کی ۳۔ ۴ تاریخ کو بادل بارش اور ۹ و ۱۰ اپریل کو آسمان ابر چھایا۔ کسی کسی جگہ بارش بھی ہو۔

چیت سمت ۱۹۹۲



## تقویم سیارگان

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | |
| ۲ | منگل پوربا بھادر پد کے (۳) [illegible] بدھ دھنشٹا کے (۱) ۳۳-۲۲ |
| ۳ | سورج پوربا بھادر پد کے (۱) ۳۳-۵۱ |
| ۴ | بدھ دھنشٹا کے (۲) ۳۱-۴۳ |
| ۵ | شکر دھنشٹا کے (۲) ۱۳-۵۱ |
| ۶ | سورج پوربا بھادر پد کے (۲) [illegible] |
| ۷ | منگل ریوتی کے (۱) [illegible] شکر دھنشٹا کے (۳) ۵۵ |
| ۸ | |
| ۹ | بدھ دھنشٹا کے (۳) ۱-۳۲ |
| ۱۰ | سورج پوربا بھادر پد کے (۳) ۱۳-۲۰ شکر دھنشٹا کے (۴) ۳۶-۵۵ |
| ۱۱ | منگل ریوتی کے (۲) ۳۳ [illegible] |
| ۱۲ | شکر ست بھکا کے (۱) ۱۷-۴۲ |
| ۱۳ | سورج پوربا بھادر پد کے (۴) ۳۲-۶<br>بدھ ست بھکا کے (۲) ۷-۳۰ |
| ۱۴ | بدھ ست بھکا کے (۳) ۵۹-۱۳ |
| ۱۵ | منگل ریوتی کے (۳) ۵۴-۵۲ شکر ست بھکا کے (۲) ۵-۳۷ |
| ۱۶ | سورج اترا بھادر پد کے (۱) ۵۵-۵۱<br>بدھ ست بھکا کے (۴) ۵-۵۵ |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | بدھ پوربا بھادر پد کے (۱) ۴۳-۲۸<br>شکر ست بھکا کے (۳) [illegible] |
| ۱۹ | سنیچر پوربا بھادر پد کے (۱) ۵۸-۳ |
| ۲۰ | سورج اترا بھادر پد کے (۲) [illegible]<br>بدھ پوربا بھادر پد کے (۲) [illegible] |
| ۲۱ | شکر ست بھکا کے (۴) ۲۰-۳۴ |
| ۲۲ | بدھ پوربا بھادر پد کے (۳) ۲۵-۵۲ |
| ۲۳ | سورج اترا بھادر پد کے (۳) ۳۲-۱۰<br>بدھ پوربا بھادر پد کے (۴) [illegible] |
| ۲۴ | منگل اشونی کے (۱) ۳۹-۴۰ شکر پوربا بھادر پد کے (۱) ۲-۵۲ |
| ۲۵ | |
| ۲۶ | بدھ اترا بھادر پد کے (۱) ۵-۱ |
| ۲۷ | سورج اترا بھادر پد کے (۴) [illegible] |
| ۲۸ | بدھ اترا بھادر پد کے (۲) ۲۸-۳۰<br>شکر پوربا بھادر پد کے (۲) ۱۸-۵۰ |
| ۲۹ | منگل اشونی کے (۲) ۱۴-۳۹ بدھ [illegible] کے (۳) ۳۶-۳ |
| ۳۰ | سورج [illegible] شکر پوربا بھادر پد کے (۳) [illegible] |
| ۳۱ | بدھ اترا بھادر پد کے (۴) ۱-۳۸ |

| ۳۰ یوم | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ابتدا | انتہا | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | گھڑی پل | | گھڑی پل | | گھڑی پل | | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | | | |
| بدھوار | ۱ | ۸ | ۱۲ | ۲۴ | ۲۰ | دسمی | ۳۲<br>۲۱ | پکھ | ۳۳<br>۳۲ | سکرما | ۱۳<br>۲۳ | | | | | ۳۰<br>۵۰ | ۵<br>۵۰ | ۶<br>۱۰ | |
| ویروار | ۲ | ۹ | ۱۳ | ۲۵ | ۲۱ | ایکادشی | ۳۳<br>۳۳ | اشلیکھا | ۲۶<br>۱۱ | دھرت | ۱۴<br>۲۲ | سنگھ | ۲۶<br>۱۱ | ۳<br>۲۸ | ۳۳<br>۳۴ | ۳۰<br>۵۵ | ۵<br>۴۹ | ۶<br>۱۱ | کاما ایکادشی |
| شکروار | ۳ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۲ | دوادشی | ۳۶<br>۳۲ | مگھا | ۳۰<br>۲۳ | شول | ۱۱<br>۵۱ | | | | | ۳۱<br>۰۰ | ۵<br>۴۸ | ۶<br>۱۲ | محرم |
| سنیچروار | ۴ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۷ | ۲۳ | ترودشی | ۳۲<br>۵ | پوروا پھاگن | ۳۵<br>۳۷ | گنڈ | ۱۲<br>۳۱ | کنیا | ۵۲<br>۲۰ | | | ۳۱<br>۵ | ۵<br>۴۷ | ۶<br>۱۳ | شکر مین میں ۲۲-۳۹ پر آیا |
| اتوار | ۵ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۸ | ۲۴ | چتردشی | ۳۶<br>۵۳ | اترا پھاگن | ۴۲<br>۲۹ | وردھ | ۱۳<br>۳۹ | | | ۴۶<br>۵۳ | | ۳۱<br>۱۰ | ۵<br>۴۶ | ۶<br>۱۴ | |
| سوموار | ۶ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۹ | ۲۵ | پورنماشی | ۵۲<br>۱ | ہست | ۴۹<br>۷ | دھرو | ۱۴<br>۱۸ | | | | ۱۹<br>۲۷ | ۳۱<br>۱۵ | ۵<br>۴۵ | ۶<br>۱۵ | ○ ہنومان جنم پورنماشی برت |
| منگلوار | ۷ | ۱۴ | ۱۸ | [illegible] | ۲۶ | پرتپدا | ۵۵<br>۱۸ | چترا | ۵۵<br>۳۵ | ویاگھات | ۱۶<br>۰۰ | تلا | ۲۲<br>۲۱ | | | ۳۱<br>۲۰ | ۵<br>۴۴ | ۶<br>۱۶ | |
| بدھوار | ۸ | ۱۵ | ۱۹ | ۲ | ۲۷ | دوج | ۶۰<br>۰۰ | سواتی | ۶۰<br>۰۰ | ہرکھن | ۱۸<br>۳۳ | | | | | ۳۱<br>۲۵ | ۵<br>۴۳ | ۶<br>۱۷ | بدھ میکھ میں ۴۳-۲۵ پر آیا |
| ویروار | ۹ | ۱۶ | ۲۰ | ۳ | ۲۸ | دوج | ۱<br>۲۸ | سواتی | ۱<br>۳۳ | وجر | ۱۹<br>۳۳ | برچھک | ۵۰<br>۲۷ | ۳۳<br>۳۴ | | ۳۱<br>۳۰ | ۵<br>۴۲ | ۶<br>۱۸ | قمر در عقرب ۵۰-۲۷ |
| شکروار | ۱۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۴ | ۲۹ | تیج | ۵<br>۴۳ | وشاکھا | ۶<br>۴۲ | سدھی | ۱۹<br>۵۳ | | | | ۵<br>۴۳ | ۳۱<br>۳۵ | ۵<br>۴۱ | ۶<br>۱۹ | گنیش چوتھ |
| سنیچروار | ۱۱ | ۱۸ | ۲۲ | ۵ | ۳۰ | چوتھ | ۸<br>۱۵ | انورادھا | ۱۰<br>۴۹ | ویتی پات | ۱۹<br>۱۹ | | | | | ۳۱<br>۴۰ | ۵<br>۴۰ | ۶<br>۲۰ | |
| اتوار | ۱۲ | ۱۹ | ۲۳ | ۶ | [illegible] | پنچمی | ۹<br>۵۱ | جیشٹا | ۱۳<br>۳۴ | وریان | ۱۷<br>۳۷ | دھن | ۱۳<br>۴۳ | | | ۳۱<br>۴۵ | ۵<br>۳۹ | ۶<br>۲۱ | سورج میکھ میں ۵۷-۳۱ میلہ بیساکھی |
| سوموار | ۱۳ | ۲۰ | ۲۳ | ۷ | ۲ | چھٹھ | ۹<br>۵۳ | مول | ۱۵<br>۲۳ | پرگھ | ۱۳<br>۱۳ | | | ۹<br>۵۴ | ۳۹<br>۲۰ | ۳۱<br>۵۰ | ۵<br>۳۸ | ۶<br>۲۲ | |
| منگلوار | ۱۴ | ۲۱ | ۲۵ | ۸ | ۳ | ستمی | ۸<br>۴۵ | پوروا کھاڑ | ۱۵<br>۴۹ | شو | ۱۰<br>۱۱ | مکر | ۲۱<br>۱۶ | | | ۳۱<br>۵۵ | ۵<br>۳۷ | ۶<br>۲۳ | ◐ [illegible] |
| بدھوار | ۱۵ | ۲۲ | ۲۶ | ۹ | ۴ | اشٹمی | ۶<br>۲۲ | اترا کھاڑ | ۱۶<br>۱۷ | سدھ<br>سادھ | ۵-۹<br>۵۶-۵۹ | | | | | ۳۲<br>۰۰ | ۵<br>۳۶ | ۶<br>۲۴ | بدھ مغرب میں طلوع ۵۹-۳۵ |
| ویروار | ۱۶ | ۲۳ | ۲۷ | ۱۰ | ۵ | نومی | [illegible] | شرون | ۱۳<br>۱۹ | شبھ | ۵۳<br>۴۷ | کنبھ | ۴۲<br>۰۰ | ۳۰<br>۴۸ | ۵۸<br>۳۷ | ۳۲<br>۵ | ۵<br>۳۵ | ۶<br>۲۵ | پنچک شروع ۴۲-۰۰ |
| شکروار | ۱۷ | ۲۴ | ۲۸ | ۱۱ | ۶ | ایکادشی | ۵۳<br>۳۴ | دھنشٹا | ۱۰<br>۳۱ | شکل | ۳۸<br>۵۰ | | | | | ۳۲<br>۱۰ | ۵<br>۳۴ | ۶<br>۲۶ | بروتھنی ایکادشی |
| سنیچروار | ۱۸ | ۲۵ | ۲۹ | ۱۲ | ۷ | دوادشی | ۴۸<br>۱۱ | شتبھکھا | ۴<br>۲۵ | برہم | ۳۹<br>۴۳ | مین | ۵۱<br>۱۱ | | | ۳۲<br>۱۵ | ۵<br>۳۳ | ۶<br>۲۷ | منگل مغرب میں غروب ۳۸-۳۳ |
| اتوار | ۱۹ | ۲۶ | ۳۰ | ۱۳ | ۸ | ترودشی | ۴۲<br>۸ | [illegible] | ۵-۲۰<br>۵-۲۲ | اندر | ۳۲<br>۱۱ | | | ۴۳<br>۸ | | ۳۲<br>۲۰ | ۵<br>۳۲ | ۶<br>۲۸ | |
| سوموار | ۲۰ | ۲۷ | ۳۱ | ۱۴ | ۹ | چتردشی | ۳۶<br>۹ | ریوتی | ۵۵<br>۲۳ | ویدھرت | ۲۴<br>۲۸ | میکھ | ۵۵<br>۲۳ | | ۹<br>۹ | ۳۲<br>۲۵ | ۵<br>۳۱ | ۶<br>۲۹ | پنچک ختم ۵۵-۲۳ |
| منگلوار | ۲۱ | ۲۸ | [illegible] | ۱۵ | ۱۰ | اماوس | ۳۰<br>۱ | اشونی | ۵۱<br>۲۲ | وشکمبھ | ۱۶<br>۵۰ | | | | | ۳۲<br>۳۰ | ۵<br>۳۰ | ۶<br>۳۰ | ● |
| بدھوار | ۲۲ | ۲۹ | ۲ | ۱۶ | ۱۱ | پرتپدا | ۲۳<br>۱۸ | بھرنی | ۴۷<br>۱۴ | پریت | ۹<br>۱۹ | | | | | ۳۲<br>۳۵ | ۵<br>۲۹ | ۶<br>۳۱ | رویت ہلال مشکوک |
| ویروار | ۲۳ | ۳۰ | ۳ | ۱۷ | ۱۲ | دوج | ۱۸<br>۵۳ | کرتکا | ۲۴<br>۱۲ | آیوشمان<br>سوبھاگیہ | [illegible] | برکھ | ۱<br>۴۸ | | | ۳۲<br>۴۰ | ۵<br>۲۸ | ۶<br>۳۲ | چاند نظر آئیگا۔ |
| شکروار | ۲۴ | صفر | ۴ | ۱۸ | ۱۳ | تیج | ۱۳<br>۱۹ | روہنی | ۲۱<br>۵۷ | شوبھن | ۲۹<br>۳۰ | | | ۲۴<br>۲۲ | | ۳۲<br>۴۳ | ۵<br>۲۷ | ۶<br>۳۳ | اکھشے ترتیہ پرشرام جینتی |
| سنیچروار | ۲۵ | ۲ | ۵ | ۱۹ | ۱۴ | چوتھ | ۱۰<br>۳۴ | مرگشر | ۲۰<br>۲۳ | اتیگنڈ | ۲۴<br>۱ | مٹھن | ۱۱<br>۸ | | ۱۰<br>۲۸ | ۳۲<br>۴۸ | ۵<br>۲۶ | ۶<br>۳۴ | |
| اتوار | ۲۶ | ۳ | ۶ | ۲۰ | ۱۵ | پنچمی | ۷<br>۳۰ | آردرا | ۳۹<br>۵۹ | سکرما | ۳۹<br>۳۰ | | | | | ۳۲<br>۵۲ | ۵<br>۲۵ | ۶<br>۳۵ | |
| سوموار | ۲۷ | ۴ | ۷ | ۲۱ | ۱۶ | چھٹھ | ۵<br>۴۰ | پنرواس | ۴۰<br>۲۹ | دھرت | ۳۵<br>۵۶ | کرک | ۲۵<br>۹ | | | ۳۲<br>۵۶ | ۵<br>۲۵ | ۶<br>۳۵ | بدھ برکھ میں ۲۰-۵۷ پر آیا |
| منگلوار | ۲۸ | ۵ | ۸ | ۲۲ | ۱۷ | ستمی | ۵<br>۳ | پکھ | ۴۳<br>۳۹ | شول | ۳۳<br>۲۳ | | | ۵<br>۳ | ۳۵<br>۲۴ | ۳۳<br>۰۰ | ۵<br>۲۴ | ۶<br>۳۶ | ◑ شکر میکھ میں ۴۰-۱۲ پر آیا |
| بدھوار | ۲۹ | ۶ | ۹ | ۲۳ | ۱۸ | اشٹمی | ۵<br>۴۳ | اشلیکھا | ۴۸<br>۵۶ | گنڈ<br>وردھ | ۲۹<br>۵۸ | سنگھ | ۲۵<br>۵۶ | | | ۳۳<br>۴ | ۵<br>۲۳ | ۶<br>۳۷ | |
| ویروار | ۳۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۴ | ۱۹ | نومی | ۷<br>۴۳ | مگھا | ۵۰<br>۲۱ | وردھ | ۳۱<br>۱۷ | | | | | ۳۳<br>۸ | ۵<br>۲۲ | ۶<br>۳۸ | |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۷ - اپریل کو بارش ہوئی - تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے - اگر اس روز ہوا تند چلی - تو بارش کی قلت ہو - اگر ۹ - اپریل کو بادل ہوویں - تو ماہ بھادوں میں بارش کی قلت ہوگی - اگر ۱۰ - اپریل کو بادل ہوویں - تو ارزانی غلہ کی دلیل ہے - اگر ۱۲ سے ۱۴ اپریل تک برابر بادل رہیں اور بجلی چمکی - تو اس سال میں غلہ ارزانی ہوگا - اگر ۱۵ - اپریل کو بادل ہو اور بارش ہو جاوے تو فصل کی پیداوار اچھی ہو - اگر ۲۰ - اپریل کو بارش پڑی تو آئندہ نرخ غلہ گراں ہو جاوے - اگر ۲۲ - اپریل کو بادل ہوویں - تو فصل کے لئے ناقص علامت ہے - اگر ۲۴ - اپریل کو بادل ہوویں تو لوگ بیماری سے تنگ ہوویں گے - اگر ۲۶ - اپریل کو بارش ہوئی - تو ماہ بھادوں میں غلہ گراں ہوگا - اگر ۳۰ - اپریل کو مطلع صاف رہا - تو آئندہ بارش کم ہوگی ۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت میکھ صوتی ۳۰ گھنٹے ۵۷ / ۳۱



پن کال سنکرانت سے اگلے روز دوپہر تک

## پیشینگوئی بابت ماہ بیساکھ

ابتداء سے ۱۲-۱۳ اپریل لغایت ۱۲ مئی

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار مولا نکھشتر میں پرویش کریگی۔ چونکہ ۳۰ مہورتی ہے۔ اور شدی تیج کو روہنی نکھشتر ہے اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ قدرے ارزانی پر رہیگا۔ اناج خورد مونگ موٹھ۔ جوار۔ باجرہ۔ مکی کا نرخ کم و بیش ہوتا رہیگا۔ دودھ۔ دہی۔ چاول۔ گھی کا نرخ ارزاں ہو۔ روئی۔ کپاس۔ گوڑ شکر۔ تل۔ تیل کا نرخ گرانی پر چلا جاوے سرسوں۔ توریہ۔ تارامیرا۔ السی۔ ارنڈی وغیرہ کا نرخ ایک حال پر نہ رہیگا۔ سفید رنگ کا کپڑا ارزاں اور رنگدار گراں ہو۔ شہد۔ لال مرچ۔ لاکھ۔ مسور۔ چندن سرخ کا نرخ بھی تیزی پر رہیگا۔ سونا کا بھاؤ اوسط پر تانبہ گراں۔ چاندی۔ قلعی۔ کانسی وغیرہ کا بھاؤ سم رہے۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ چارہ۔ لوڑی کا نرخ ارزاں پر ہو۔

موسم منگل غروب اور برہسپت بکری رہیگا۔ اس لئے لوگ بیماری سے تکلیف پاویں گے۔ ملک کے بہت حصوں میں وبائی امراض نمودار ہوں۔ چوپائے جانوروں کی موت زیادہ ہو بیماری لوگوں کو نقصان اور عورتوں کی موت زیادہ ہو۔

### کرۂ فلک

چونکہ سورج منگل ایک راشی پر بیٹھے۔ اس سے گرمی زیادہ رہیگی۔ آسمان ابر محیط اور ہوا چلیگی۔ ۱۲ لغایت ۱۵ اپریل ہوا تیز آسمان پہ بادل خفیف بارش۔ ۱۷-۱۸-۱۹ اپریل کو آسمان ابر محیط۔ ہوا تیز چلے۔ ۲۶ لغایت ۳۰ اپریل بادل و آندھی اور بارش ہو۔ ۴ و ۵ و ۶ مئی کو بادل کی گرج چمک۔ ہوا تیز اور بعض بعض جگہ بارش ہو۔ ۹-۱۰ مئی کو ہوا تیز چلیگی۔



تقویم سیارگان

اپریل ۱۹۳۶

| | |
|---|---|
| ۱ | برہسپت بکری کے (۳) ۵۹-۵۹ |
| ۲ | سورج ریوتی کے (۲) ۲۴ [illegible]<br>[illegible] ریوتی کے (۱) ۱۳-۳۸ |
| ۳ | |
| ۴ | بدھ ریوتی کے (۲) ۰۰-۳۲ شکر<br>پورا بھادرپد کے (۳) ۲۲-۳۹ |
| ۵ | چندر ریوتی کے (۳) ۱۴-۳۱ |
| ۶ | سورج ریوتی کے (۴) ۷-۴۰ |
| ۷ | منگل اشونی کے ۲۵ [illegible] ریوتی<br>[illegible] |
| ۸ | بدھ اشونی کے (۱) ۳۳-۲۵ |
| ۹ | سورج ریوتی کے (۱) ۳۱ شکر<br>پورا بھادرپد کے (۲) ۳۳-۳۵ |
| ۱۰ | |
| ۱۱ | منگل بھرنی کے (۱) ۲۹-۲۴ بدھ<br>اشونی کے (۲) ۳-۲۴ |
| ۱۲ | سورج اشونی کے (۱) ۵۶-۳۱ شکر<br>اترا بھادرپد کے (۳) ۴۹-۱۷ |
| ۱۳ | بدھ اشونی کے (۳) ۰۰-۱۳ |
| ۱۴ | بدھ اشونی کے (۴) ۵۳-۲۵ |
| ۱۵ | سورج اشونی کے (۲) ۵۰-۳۳ شکر<br>اترا بھادرپد کے (۴) ۳-۳۲ |
| ۱۶ | منگل بھرنی کے (۲) ۱۱-۵۰ بدھ بھرنی<br>کے (۱) [illegible] |
| ۱۷ | [illegible]<br>[illegible] کے (۱) ۵۷-۲۲ |
| ۱۸ | بدھ بھرنی کے (۲) ۳۸-۴ شکر ریوتی<br>کے (۱) ۱۳-۵۲ |
| ۱۹ | سورج اشونی کے (۳) ۴۶-۲۷ |
| ۲۰ | منگل بھرنی کے (۳) ۵۸ [illegible]<br>[illegible] ریوتی کے (۲) [illegible] |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | سورج اشونی کے (۴) ۵۴-۴۷ [illegible]<br>کے (۳) [illegible] |
| ۲۳ | شکر ریوتی کے (۳) ۱۰-۱۹ |
| ۲۴ | بدھ کرتکا کے (۱) ۵۱-۱۷ |
| ۲۵ | منگل بھرنی کے (۴) [illegible] |
| ۲۶ | سورج بھرنی کے (۱) ۳۸-۵۹ |
| ۲۷ | بدھ کرتکا کے (۲) ۲۰-۵۲ |
| ۲۸ | شکر اشونی کے (۱) ۴۰-۱۳ |
| ۲۹ | بدھ کرتکا کے (۳) ۵۱-۱۳ |
| ۳۰ | سورج بھرنی کے (۲) ۵-۹ منگل [illegible]<br>کے (۱) [illegible] |

اپریل ۱۹۳۶

| مئی ۱۹۳۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | دن مان گھڑی پل | طلوع | غروب | چاند نکلنے اور چھپنے | تیوہار و طلوع و غروب سیارگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شکروار | ۱ | ۸ | ۱۱ | ۲۵ | ۳۰ | دسمی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] | ۳۳<br>۱۷ | ۵<br>۲۲ | ۶<br>۳۸ | | |
| سنیچروار | ۲ | ۹ | ۱۲ | ۲۶ | ۲۱ | اکادشی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | کنیا | ۱۱<br>۵۰ | ۱۳<br>۵۸ | | ۳۳<br>۱۶ | ۵<br>۲۱ | ۶<br>۳۹ | | موہنی ایکادشی |
| اتوار | ۳ | ۱۰ | ۱۳ | ۲۷ | ۲۲ | دوادشی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۳<br>۲۰ | ۵<br>۲۰ | ۶<br>۴۰ | | |
| سوموار | ۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۲۸ | ۲۳ | تریودشی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۳<br>۲۴ | ۵<br>۱۹ | ۶<br>۴۱ | | منگل برکھ میں ۲۹-۷ پر آیا۔ |
| منگلوار | ۵ | ۱۲ | ۱۵ | ۲۹ | ۲۴ | چتردشی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | ۳۰<br>۱۳ | ۳۳<br>۲۸ | ۵<br>۱۸ | ۶<br>۴۲ | | میلہ نرسنگھ جی |
| بدھوار | ۶ | ۱۳ | ۱۶ | ۳۰ | ۲۵ | پورنماشی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳<br>۲۶ | | ۳۳<br>۳۲ | ۵<br>۱۷ | ۶<br>۴۳ | ○ | میلہ بدو کی گسائیاں۔ پورنماشی برت |
| ویروار | ۷ | ۱۴ | ۱۷ | ○ | ۲۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۳<br>۳۶ | ۵<br>۱۶ | ۶<br>۴۳ | | قمر در عقرب ۱۰-۳۰ |
| شکروار | ۸ | ۱۵ | ۱۸ | ۲ | ۲۷ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۳<br>۴۰ | ۵<br>۱۷ | ۶<br>۴۴ | | |
| سنیچروار | ۹ | ۱۶ | ۱۹ | ۳ | ۲۸ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۲<br>۰۰ | ۱۱<br>۲۷ | ۳۳<br>۴۴ | ۵<br>۱۵ | ۶<br>۴۵ | | |
| اتوار | ۱۰ | ۱۷ | ۲۰ | ۴ | ۲۹ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۳<br>۴۸ | ۵<br>۱۴ | ۶<br>۴۶ | | گنیش چوتھ۔ میلہ چھاپیر |
| سوموار | ۱۱ | ۱۸ | ۲۱ | ۵ | ۳۰ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۳۳<br>۵۲ | ۵<br>۱۳ | ۶<br>۴۶ | | |
| منگلوار | ۱۲ | ۱۹ | ۲۲ | ۶ | ۳۱ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | ۳۸<br>۴۹ | ۳۳<br>۵۹ | ۵<br>۱۳ | ۶<br>۴۷ | | |
| بدھوار | ۱۳ | ۲۰ | ۲۳ | ۷ | ○ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۶<br>۳ | | ۳۴<br>۰۰ | ۵<br>۱۲ | ۶<br>۴۸ | | سورج برکھ میں ۵۳-۲۳ چیلم |
| ویروار | ۱۴ | ۲۱ | ۲۴ | ۸ | ۲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | کنیا | [illegible] | | | ۳۴<br>۴ | ۵<br>۱۱ | ۶<br>۴۹ | ◐ | پنچک شروع ۲-۵۰ |
| شکروار | ۱۵ | ۲۲ | ۲۵ | ۹ | ۳ | نومی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | ۵۲<br>۱ | ۳۴<br>۸ | ۵<br>۱۰ | ۶<br>۵۰ | | |
| سنیچروار | ۱۶ | ۲۳ | ۲۶ | ۱۰ | ۴ | دسمی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۰<br>۵۰ | ۳۰<br>۱۵ | | ۳۴<br>۱۳ | ۵<br>۹ | ۶<br>۵۱ | | |
| اتوار | ۱۷ | ۲۴ | ۲۷ | ۱۱ | ۵ | اکادشی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۴<br>۱۶ | ۵<br>۹ | ۶<br>۵۱ | | بدھ مشرق میں غروب ہوا ۱-۵۱-۲۲<br>اچلا ایکادشی |
| سوموار | ۱۸ | ۲۵ | ۲۸ | ۱۲ | ۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۸<br>۳۴ | | | ۳۴<br>۲۰ | ۵<br>۸ | ۶<br>۵۲ | | پنچک ختم ۲-۱۲ بدھ برکھ ۱۰-۲۱ |
| منگلوار | ۱۹ | ۲۶ | ۲۹ | ۱۳ | ۷ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۲۹<br>۳۸ | ۳<br>۳ | ۳۴<br>۲۳ | ۵<br>۷ | ۶<br>۵۳ | | |
| بدھوار | ۲۰ | ۲۷ | ۳۰ | ۱۴ | ۸ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۱<br>۲۴ | | | ۳۴<br>۲۶ | ۵<br>۶ | ۶<br>۵۴ | | آخری چہار شنبہ |
| ویروار | ۲۱ | ۲۸ | ۳۱ | ۱۵ | ۹ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۴<br>۲۹ | ۵<br>۶ | ۶<br>۵۴ | ● | بدھ مغرب میں ظاہر ہوا ۹-۴۵ |
| شکروار | ۲۲ | ۲۹ | ○ | ۱۶ | ۱۰ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۱<br>۵۰ | | | ۳۴<br>۳۱ | ۵<br>۵ | ۶<br>۵۵ | | [illegible] نظر آئیگا |
| سنیچروار | ۲۳ | ○ | ۲ | ۱۷ | ۱۱ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۴<br>۳۳ | ۵<br>۵ | ۶<br>۵۵ | | شکر برکھ میں ۲-۲۳ پر آیا |
| اتوار | ۲۴ | ۲ | ۳ | ۱۸ | ۱۲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۰<br>۳ | | ۳۴<br>۳۵ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۵ | | میلہ جنڈ جھیل۔ [illegible] |
| سوموار | ۲۵ | ۳ | ۴ | ۱۹ | ۱۳ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۴<br>۳۷ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۶ | | |
| منگلوار | ۲۶ | ۴ | ۵ | ۲۰ | ۱۴ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۴<br>۳۹ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۶ | | |
| بدھوار | ۲۷ | ۵ | ۶ | ۲۱ | ۱۵ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۸<br>۵۲ | | | ۳۴<br>۴۱ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۷ | | |
| ویروار | ۲۸ | ۶ | ۷ | ۲۲ | ۱۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | ۱۰<br>۳۲ | | ۳۴<br>۴۳ | ۵<br>۳ | ۶<br>۵۷ | ◑ | |
| شکروار | ۲۹ | ۷ | ۸ | ۲۳ | ۱۷ | نومی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | کنیا | ۳۰<br>۵۳ | | | ۳۴<br>۴۵ | ۵<br>۳ | ۶<br>۵۷ | | |
| سنیچروار | ۳۰ | ۸ | ۹ | ۲۴ | ۱۸ | دسمی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۳۴<br>۴۷ | ۵<br>۳ | ۶<br>۵۷ | | [illegible] برچھک میں<br>۱۹-۳۴ گنگا دسمی |
| اتوار | ۳۱ | ۹ | ۱۰ | ۲۵ | ۱۹ | اکادشی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | ۲۳<br>۴۰ | ۵۵<br>۳۱ | | ۳۴<br>۴۹ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | نرجلا ایکادشی |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۱ مئی کو بادل رہا تو آئندہ بارش کی قلت ہو۔ اگر ۲ و ۳ مئی کو بارش ہوئی۔ تو قحط کی علامت ہے۔ اگر ۴ مئی کو آسمان ابر محیط رہا۔ تو سخت گرانی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ۵ مئی کو بادل گرجا۔ اور بجلی چمکی۔ تو فصل کے لئے مفید ہے۔ اگر ۹ مئی کو دوپہر کے بعد بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں تک غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۱۴ مئی کو بارش ہوئی۔ تو بھادوں میں بارش اچھی ہو۔ اگر ۲۰ مئی کو آسمان ابر محیط رہے۔ تو آئندہ بارش کی قلت ہو۔ اگر ۲۲ مئی کو بادل رہے تو بارش جلد آ سکے۔ اگر ۲۵ مئی کو بارش ہو۔ تو غلہ کا نرخ ارزاں ہو جائے۔ اگر ۲۸ مئی سے ۳۰ تک ۴ روز برابر پورب کی ہوا چلی۔ تو ساون میں بارش خوب ہوگی۔

ماہ مئی سنہ ۱۹۳۶ء

| | |
|---|---|
| ۱ | شکر اشنی کے (۲) ۳۳ - ۱۰ |
| ۲ | بدھ کرتکا کے (۲) ۳ - ۲۸ |
| ۳ | سورج بھرنی کے (۳) ۳۱ - ۱۴ |
| ۴ | منگل کرتکا کے (۴) ۲۹ - ۲۷ بدھ روہنی کے<br>[illegible] شکر اشنی کے (۳) [illegible] - ۴۶ |
| ۵ | |
| ۶ | سورج بھرنی کے (۴) ۸ - ۱۹ شکر<br>اشنی کے (۴) ۵۳ - ۱۱ |
| ۷ | بدھ روہنی کے (۲) ۵۲ - ۴۳ |
| ۸ | راہو مولا کے (۴) کیتو آردرا کے (۲) ۳۰ - ۴۶ |
| ۹ | منگل کرتکا کے (۳) ۲ - ۴۴ شکر<br>بھرنی کے (۱) ۲۰ - ۵۹ |
| ۱۰ | سورج کرتکا کے (۱) ۳۵ - ۸ |
| ۱۱ | |
| ۱۲ | شکر بھرنی کے (۲) ۱۲ - ۱۰ |
| ۱۳ | سورج کرتکا کے (۲) ۵۲ - ۴۳ بدھ<br>روہنی کے (۳) ۵۲ - ۴۷ |
| ۱۴ | منگل کرتکا کے (۴) ۵ - ۱۲ شکر بھرنی<br>کے (۳) ۵۹ - ۱۰ |
| ۱۵ | |
| ۱۶ | |
| ۱۷ | سورج کرتکا کے (۳) ۲۲ - ۵ شکر<br>بھرنی کے (۴) ۳۴ - ۵۷ |
| ۱۸ | منگل روہنی کے (۱) ۵۳ - ۵۹ |
| ۱۹ | |
| ۲۰ | سورج کرتکا کے (۴) ۵۰ - ۴۸ شکر<br>کرتکا کے (۱) ۲۰ - ۵۰ |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | |
| ۲۳ | منگل روہنی کے (۲) ۲۷ - ۴۱ شکر<br>کرتکا کے (۲) ۲ - ۲۳ |
| ۲۴ | سورج روہنی کے (۱) ۱۹ - ۳۰ بدھ<br>[illegible] کے (۳) ۰۰ - ۱۵ |
| ۲۵ | شکر کرتکا کے (۳) ۴۶ - ۰۰ |
| ۲۶ | بدھ روہنی کے (۲) ۵۳ - ۲۱ |
| ۲۷ | سورج روہنی کے (۲) ۴۸ - ۵۵ |
| ۲۸ | منگل روہنی کے (۳) ۱۴ - ۳ شکر کرتکا<br>کے (۴) ۳۳ - ۱۲ |
| ۲۹ | |
| ۳۰ | برہسپت جیشٹا کے (۴) ۲۹ - ۳۶ |
| ۳۱ | سورج روہنی کے (۳) ۱۸ - ۲۹ [illegible]<br>(۱) ۲۹ - ۳ شکر روہنی کے (۱) [illegible] |

## جنتری دفعلیہ سیارگان

تحویل آفتاب در برج جوزا

۱۳ مئی

کنڈلی بیاکھ ستری پورنماشی ۶ مئی بوقت ۴۴ - ۴۴

کنڈلی جیٹھ بدی اشٹمی ۱۳ مئی بوقت ۴۷ - ۲

کنڈلی جیٹھ بدی اماوس ۲۰ مئی بوقت ۱۲ - ۴۴

کنڈلی جیٹھ سدی اشٹمی ۲۸ مئی بوقت ۴۷ - ۲۲



## تقویم سیارگان

| نام سیارہ | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیتو | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیتو | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیتو | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیتو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در راس | میکھ | برکھ | برکھ | دھن | میکھ | کنبھ | دھن | متھن | برکھ | برکھ | برکھ | دھن | میکھ | کنبھ | دھن | متھن | برکھ | برکھ | برکھ | دھن | میکھ | کنبھ | دھن | متھن | برکھ | برکھ | برکھ | دھن | برکھ | کنبھ | دھن | متھن |
| انش | ۲۳ | ۱ | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۲۵ | ۱۳ | ۱۳ | ۰۰ | ۷ | ۱۹ | | ۱۸ | ۳۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۴ | ۲۴ | ۱۴ | ۱ | ۳۷ | ۲۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۷ | ۱۳ | ۰۰ | ۷ | ۲۶ | ۱۲ | ۱۳ |
| کلا | ۸ | ۲۲ | ۱۰ | ۳۷ | ۵۵ | ۳۰ | ۲۷ | ۳۳ | ۵۰ | ۴۲ | ۵۳ | ۵۱ | ۱۹ | ۵۲ | ۵۹ | ۳۹ | ۳۴ | ۲۳ | ۵۵ | ۲ | ۱۳ | ۲۳ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۵ | ۲ | ۱۹ | ۷ | ۱۸ | ۵۴ | ۱۳ | ۲۳ |
| بکلا | ۳۳ | ۴ | ۲۸ | ۳۹ | ۵۳ | ۳۰ | ۲۵ | ۴۵ | ۲۰ | ۳۳ | ۲۳ | ۰۰ | ۲۱ | ۴۳ | ۱۷ | ۱۷ | ۳۰ | ۰۰ | ۳۰ | ۰۰ | ۱۳ | ۴۵ | ۱۱ | ۱۱ | ۴۱ | ۱۱ | ۹ | ۳۳ | ۰۰ | ۲۲ | ۴۳ | ۴۳ |
| حرکت | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| بڑی و مرگی | م | م | م | ب | م | م | ب | ب | م | م | م | ب | م | م | ب | ب | م | م | ب | ب | م | م | ب | ب | م | م | ب | ب | م | م | ب | ب |
| صورت و برج | ط | ش | ط | [illegible] | ط | ط | ع | ع | ع | ط | ع | ط | ط | ط | ع | ع | ط | ع | ع | ط | ع | ط | ع | ع | ط | ع | ع | ع | ع | ط | ع | ع |

### استعمال و پرہیز

استعمال - صبح کو نہانا - ترش اشیاء کھانا - دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد [illegible] صحت کیلئے مفید ہے - پرہیز - باسی غذا کھانا - [illegible] پانی پینا - [illegible] احتیاط کرنا - [illegible] صحت کے لئے مضر ہے -

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت برکھ کو [illegible] - ۳ بوقت ۵۳



ٹن کالی - دوسرے روز صبح سے دوپہر تک

## پیشینگوئی بابت ماہ جیٹھ

### ابتدا ۱۳ مئی لغایت ۱۳ جون



### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار دھنشٹا نچھتر میں پرویش ہوتی ہے - جو کہ ۳ موری ہے - اور پانچویں نچھتر میں پرویش ہوتی ہے - اس لئے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں گذشتہ ماہ سے قدرے گرانی کی تاثیر رکھیگی - اناج خورد جوار باجرہ - مکی - وغیرہ کے نرخ میں کمی بیشی ہوتی رہیگی - دودھ - دہی - گھی کا نرخ گراں رہیگا - روئی - کپاس - سن - سوت - سوتی کپڑا اشیاء کا نرخ تیزی پر رہیگا - ریشمی - اونی کپڑا ارزاں رہیگا - تل - تیل - السی - سرسوں - تارا میرا - توریہ کا بھاؤ گراں ہو - اشیاء سرخ رنگ تانبہ اور اس کی ساخت اشیاء لاکھ - مجیٹھ - چندن سرخ مرچ - مسور کا بھاؤ تیز - پنساری کا سودا مرچ سیاہ - دھنیا - زیرہ - ہلدی - اناردانہ وغیرہ کا بھاؤ سم رہے - گوڑ شکر - شہد - کھانڈ گراں رہے - لکڑی - کوئلہ - بھوسہ - توڑی - گھاس کا نرخ ارزاں رہیگا - موسم - سورج و منگل کا قران ہے - اس لئے گرم ہوا زیادہ چلے - لو لگنے سے اموات بکثرت ہوں - بخار گرمی سے بھی لوگ تنگ ہوں - چوپائے جانوروں میں روگ بڑھے - پھل پھول اچھے ہوں - لوگوں کے خیالات عیاشی کی طرف مائل اور بردہ فروشی و اغوا کی واردات بکثرت سے ہوں -

### کرۂ فلک

آسمان گرد آلود رہیگا - گرمی زیادہ پڑیگی - آندھی اور گرد و غبار بکثرت اڑیگا - ۱۴ و ۱۵ مئی کو ہوا تیز - ۱۷ اور ۱۸ - ۱۹ مئی کو گرج چمک ہوا تیز اور بارش ہو - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ مئی کو آسمان ابر محیط اور آندھی آئے - ۲۸ - ۳۰ - ۳۱ مئی کو ہوا تیز گرم لو چلے - یکم تا ۸ جون بادل آسمان پر چکر لگائیں - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ جون کو بادل [illegible]

## نظر و شرف و ہبوط سیارگان

### ماہ مئی

۳ مئی کو مریخ در برج ثور وبال میں داخل -
۷ مئی کو قمر در برج عقرب ہبوط میں داخل -
۸ " زحل بر شمس نظر تسدیس -
۱۷ " زہرہ مشرق میں غروب
۱۸ " عطارد رجعت میں شروع -
۲۰ " قمر در برج ثور شرف میں داخل
۲۰ " زحل بر زہرہ نظر تسدیس -
۲۱ " عطارد مغرب میں غروب
۲۷ " شمس و عطارد کا برج ثور میں قران -

# مسعودِ عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ ۱۸ [illegible] سنہ ۶ مطابق سمت ۱۹۶ بکرم

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سوموار | ۱ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۶ | ۲۰ | دوادشی | ۶۰<br>۰ | چترا | ۳۳<br>۲۹ | وریان | ۵۷<br>۵۲ | تلا | ۰۰<br>۱۲ | | | ۳۳<br>۵۱ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | |
| منگلوار | ۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۷ | ۲۱ | دوادشی | ۰<br>۳۶ | سواتی | ۳۹<br>۴۲ | پریگھ | ۵۹<br>۲۳ | | | | | ۳۴<br>۵۲ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | |
| بدھوار | ۳ | ۱۲ | ۱۳ | ۲۸ | ۲۲ | ترودشی | ۵<br>۹ | وشاکھا | ۴۵<br>۵۵ | شیو | ۶۰<br>۰۰ | برچھک | ۲۸<br>۵۲ | | | ۳۴<br>۵۵ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | | یادِ وفات سالگرہ شہنشاہ ہند [illegible] ۲۸-۵۲ |
| ویروار | ۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۲۹ | ۲۳ | چتردشی | ۸<br>۵۲ | انورادھا | ۴۹<br>۵۱ | [illegible] | ۳-۰۳<br>۳۰-۵۹ | | | ۸<br>۵۴ | ۴۰<br>۹ | ۳۴<br>۵۷ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | ○ | پورنماشی برت |
| شکروار | ۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۳۰ | ۲۴ | پورنماشی | ۱۱<br>۲۲ | جیشٹھا | ۵۳<br>۱۹ | سادھ | ۵۸<br>۳۲ | دھن | ۵۳<br>۱۹ | | | ۳۴<br>۵۸ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | | چندرما مشرق میں طلوع ۵۵-۵۸ |
| سنیچروار | ۶ | ۱۵ | ۱۶ | (اساڑھ) | ۲۵ | پاڑوی | ۱۳<br>۳۳ | مول | ۵۳<br>۲۳ | شبھ | ۵۳<br>۲۲ | | | | | ۳۵<br>۰۰ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | |
| اتوار | ۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۲ | ۲۶ | دوج | ۱۳<br>۲۸ | پوروا کھاڑ | ۵۴<br>۲۳ | شکل | ۵۳<br>۱۶ | | | ۴۲<br>۱۲ | | ۳۵<br>۲ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | |
| سوموار | ۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۳ | ۲۷ | تیج | ۱۱<br>۳۵ | اتراکھاڑ | ۵۶<br>۵ | برہم | ۴۹<br>۳۸ | مکر | ۱۱<br>۱۸ | | ۱۱<br>۳۵ | ۳۵<br>۳ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | [illegible] گنیش چوتھ |
| منگلوار | ۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۴ | ۲۸ | چوتھ | ۹<br>۱۲ | شرون | ۵۴<br>۳۹ | اندر | ۴۵<br>۵ | | | | | ۳۵<br>۴ | ۴<br>۵۹ | ۷<br>۱ | | |
| بدھوار | ۱۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۵ | ۲۹ | پنچمی | ۵<br>۴۱ | دھنشٹا | ۵۳<br>۵۵ | بیدھرت | ۳۹<br>۱۷ | کنبھ | ۲۴<br>۱۷ | | | ۳۵<br>۶ | ۴<br>۵۹ | ۷<br>۱ | | پنچک شروع ۲۲-۱۸ |
| ویروار | ۱۱ | ۲۰ | ۲۱ | ۶ | ۳۰ | ششٹی<br>ستمی | ۲۳<br>۵۰ | ست بھکا | ۴۹<br>۲۲ | وشکنبھ | ۳۳<br>۵۱ | | | ۱<br>۲۳ | ۲۸<br>۲۶ | ۳۵<br>۸ | ۴<br>۵۹ | ۷<br>۱ | | |
| شکروار | ۱۲ | ۲۱ | ۲۲ | ۷ | ۳۱ | اشٹمی | ۵۰<br>۳ | پوروا بھادرپد | ۴۴<br>۵۱ | پریت | ۲۵<br>۵۷ | مین | ۳۰<br>۵۹ | | | ۳۵<br>۱۰ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | ◒ | |
| سنیچروار | ۱۳ | ۲۲ | ۲۳ | ۸ | ۳۲ | نومی | ۴۴<br>۳۴ | اترا بھادرپد | ۴۱<br>۴۸ | آیوشمان | ۱۸<br>۲۸ | | | | | ۳۵<br>۱۱ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | |
| اتوار | ۱۴ | ۲۳ | ۲۴ | ۹ | (ہاڑ) | دسمی | ۳۸<br>۱۵ | ریوتی | ۳۴<br>۳۹ | سوبھاگ | ۹<br>۵۷ | میکھ | ۳۷<br>۳۶ | ۱۱<br>۲۶ | ۳۸<br>۱۵ | ۳۵<br>۱۲ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | سورج متھن میں ۱۹-۳۸<br>پنچک ختم ۳۷-۳۶ |
| سوموار | ۱۵ | ۲۴ | ۲۵ | ۱۰ | ۲ | ایکادشی | ۳۲<br>۱۱ | اشونی | ۳۳<br>۲۹ | شوبھن<br>اتی گنڈ | ۱۰-۳<br>۵۰-۵۹ | | | | | ۳۵<br>۱۳ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | یوگنی ایکادشی |
| منگلوار | ۱۶ | ۲۵ | ۲۶ | ۱۱ | ۳ | دوادشی | ۲۹<br>۲۱ | بھرنی | ۲۹<br>۳۹ | سوکرما | ۴۸<br>۳۱ | برکھ | ۴۳<br>۲۳ | | | ۳۵<br>۱۴ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | منگل متھن میں ۲۸-۱۳ پل |
| بدھوار | ۱۷ | ۲۶ | ۲۷ | ۱۲ | ۴ | ترودشی | ۲۰<br>۳۲ | کرتکا | ۲۰<br>۹ | دھرت | ۴۱<br>۳۸ | | | ۲۰<br>۴۳ | ۳۸<br>۱۷ | ۳۵<br>۱۵ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | شکر متھن میں ۳۳-۲ پرایا |
| ویروار | ۱۸ | ۲۷ | ۲۸ | ۱۳ | ۵ | چودشی | ۱۵<br>۵۳ | روہنی | ۲۳<br>۲۰ | شول | ۳۵<br>۳۲ | متھن | ۵۲<br>۴۷ | | | ۳۵<br>۱۶ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | ● | |
| شکروار | ۱۹ | ۲۸ | ۲۹ | ۱۴ | ۶ | اماوش | ۱۱<br>۴۳ | مرگشر | ۲۲<br>۱۴ | گنڈ | ۲۹<br>۴۶ | | | | | ۳۵<br>۱۷ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | سورج گرہن - ہریالی اماوش |
| سنیچروار | ۲۰ | ۲۹ | ۳۰ | ۱۵ | ۷ | پاڑوا | ۸<br>۴۲ | آردرا | ۲۰<br>۲۱ | بردھ | ۲۵<br>۲ | | | | | ۳۵<br>۱۸ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | چاند نظر آئیگا - رتھ یاترا |
| اتوار | ۲۱ | (جون) | ۳۱ | ۱۶ | ۸ | دوج | ۶<br>۴۰ | پنربس | ۲۰<br>۲۰ | دھرو | ۲۱<br>۱۰ | کرک | ۵<br>۲۱ | | | ۳۵<br>۱۹ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | |
| سوموار | ۲۲ | ۲ | (جولائی) | ۱۷ | ۹ | تیج | ۵<br>۵ | پکھ | ۲۱<br>۴۵ | ویاگھات | ۱۸<br>۱۲ | | | ۳۴<br>۲ | | ۳۵<br>۲۰ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | | |
| منگلوار | ۲۳ | ۳ | ۲ | ۱۸ | ۱۰ | چوتھ | ۶<br>۱۴ | آشلیکھا | ۲۴<br>۲۳ | ہرکھن | ۱۶<br>۲۵ | سنگھ | ۲۲<br>۲۲ | | ۶<br>۱۷ | ۳۵<br>۱۹ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | | |
| بدھوار | ۲۴ | ۴ | ۳ | ۱۹ | ۱۱ | پنچمی | ۸<br>۲ | مگھا | ۲۸<br>۱۰ | وجر | ۱۵<br>۳۵ | | | | | ۳۵<br>۱۸ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | | |
| ویروار | ۲۵ | ۵ | ۴ | ۲۰ | ۱۲ | ششٹی | ۱۱<br>۱ | پوروا پھالگنی | ۳۳<br>۱۰ | سدھی | ۱۳<br>۵۲ | کنیا | ۵۲<br>۳۳ | | | ۳۵<br>۱۷ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | | |
| شکروار | ۲۶ | ۶ | ۵ | ۲۱ | ۱۳ | ستمی | ۱۴<br>۵۳ | اترا پھالگنی | ۳۸<br>۵۳ | ویتی پات | ۱۹<br>۴۷ | | | ۱۳<br>۵۳ | ۴۷<br>۱۷ | ۳۵<br>۱۶ | ۴<br>۵۶ | ۷<br>۴ | ◓ | |
| سنیچروار | ۲۷ | ۷ | ۶ | ۲۲ | ۱۴ | اشٹمی | ۱۹<br>۱۴ | ہست | ۴۵<br>۱۵ | بریان | ۱۵<br>۴۷ | | | | | ۳۵<br>۱۵ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | |
| اتوار | ۲۸ | ۸ | ۷ | ۲۳ | ۱۵ | نومی | ۲۴<br>۳۸ | چترا | ۵۱<br>۵۱ | پریگھ | ۱۸<br>۲۹ | تلا | ۱۸<br>۳۳ | | | ۳۵<br>۱۴ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | |
| سوموار | ۲۹ | ۹ | ۸ | ۲۴ | ۱۶ | دسمی | ۲۹<br>۲۹ | سواتی | ۵۸<br>۱۱ | شو | ۲۰<br>۵ | | | | | ۳۵<br>۱۲ | ۴<br>۵۷ | ۷<br>۳ | | |
| منگلوار | ۳۰ | ۱۰ | ۹ | ۲۵ | ۱۷ | ایکادشی | ۳۳<br>۳ | وشاکھا | ۶۰<br>۰ | سدھ | ۲۱<br>۲۱ | برچھک | [illegible] | ۱ | ۳۴ | ۳۵<br>۰ | ۴<br>۶۰ | ۷<br>۳ | | [illegible] ۳۰ [illegible] ۲۶ بکرمی [illegible] دیوشنی ایکادشی<br>[illegible] |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۴ جون کو بارش ہوئی تو بھادوں میں بارش خوب ہوگی۔ اگر ۵ جون کو آسمان ابرِ محیط رہا۔ اور تیز ہوا چلتی رہی۔ تو ساون اور بھادوں بارش سے خالی جاویں گے۔ اگر ۹ جون کو سورج بادلوں میں ڈھکا ہے۔ تو تین ماہ تک بارش نہ ہوگی۔ اگر ۱۲ جون کو رات کے وقت بادل رہے۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو جائے۔ اگر ۱۳ جون کو آسمان ابرِ محیط رہا۔ تو غلہ کا نرخ بہت جلد ارزاں ہو جاویگا۔ اگر ۱۹ جون کو صبح کے وقت بادل دوپہر کو آسمان صاف اور شام کو بارش ہو جائے تو پھر بارش بلند ہونے کی علامت ہے۔ اگر ۲۰ جون سے ۲۲ جون تک برابر بارش ہو تو آئندہ بارش خوب ہو۔ اگر ۲۳ جون کو بارش ہوئی۔ تو آئندہ بارش کی طرف سے خشک جواب جانو۔ اگر ۲۴ جون کو بارش کے بعد قوسِ قزح نظر آئے تو ماہ کاتک میں غلہ سخت گراں ہو جائے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت متھن ہوتی ۳۰ بوقت ۱۹



پن کال ۔ بعد دوپہر شام تک

# پیشینگوئی بابت ماہ ہاڑ

## ابتدائے ۱۴ جون لغایت ۱۴ جولائی

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار ریوتی نچھتر میں پیش کریگی ۔ جو کہ ۱۹ چوتھی اور پانچواں نچھتر ہے اور پورنماشی بروز سینچر وار مولا نچھتر میں ہو گی ۔ اس لئے اس ماہ میں غلہ گندم و جو کا نرخ بہ نسبت ماہ گذشتہ گرانی پر رہیگا ۔ غلہ خورد ۔ جوار ۔ باجرہ ۔ مکی وغیرہ کا نرخ بدستور ماہ سابقہ ہی رہیگا تو قدرے کمی بیشی ہوگی ۔ روئی کپاس ۔ سن ۔ سوت سفید کپڑا ۔ چاول ۔ نمک ۔ گھی ۔ دودھ ۔ دہی کا نرخ تیز ہو ۔ کالے تل ۔ تیل ۔ السی ۔ سنا ۔ ابرک وغیرہ کا بھاؤ بدستور ماہ سابقہ رہے ۔ ریشم کی دھاتیں گراں اشیا سیاہ رنگ مثلاً لوہا ۔ کوئلہ وغیرہ کا نرخ کچھ ارزاں رہیگا ۔ پنساری کا سامان میوہ بھاؤ ۔ گوند ۔ خشک ۔ شہد ۔ لال مسور ۔ لاکھ ۔ چندن وغیرہ کا نرخ تیزی پر رہیگا ۔ سورج ۔ منگل ۔ بدھ ۔ شکر ایک راشی پر رہیں گے ۔ دو گرہ یکجا ہی ہیں ۔ اس لئے لوگ بیماری سے تنگ ہونگے ۔ مستورات کو تکلیف زیادہ ۔ اسقاط حمل کی وارداتیں بہت ہوں ۔ جانوروں کا ناش ہو ۔ چوری ۔ ڈاکہ اور آگ لگنے کی وارداتیں کثرت سے ہوں ۔ لوگ کھوٹے کرم بہت کریں ۔

## کرۂ فلک

چونکہ شکر و بدھ کے درمیان سورج رہیگا ۔ اس لئے ہوا تیز بہت چلے بارش کم ہو ۔ ماہ جون کی ۱۴ ۔ ۱۵ تاریخ کو آسمان ابر چھایا ۔ ہوا تیز ۔ ۱۶ و ۱۷ ۔ ۱۹ ۔ ۲۱ جون کو گرج ۔ چمک اور بارش ہو ۔ ۲۴ و ۲۵ جون کو بادل رہیں ۔ ۲۹ و ۳۰ جون کو آسمان پر بادل بجلی کی چمک گرج اور بارش ہو ۔ ماہ جولائی کی ۳ ۔ ۴ و ۵ کو ہوا تیز بادل ہیں ۹ و ۱۰ جولائی کو آسمان ابر چھایا رہیگا ۔

۱۹۳۶ء ماہ جون

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | |
| ۲ | منگل وو پیتی کے (۳) ۵۴-۱۱ شکر وو پیتی کے (۲) ۵۷-۱۰ |
| ۳ | سورج دو پیتی کے (۱) ۸-۳۳ |
| ۴ | |
| ۵ | بدھ کرکھا کے (۳) ۱۰-۵۵ شکر دو پیتی کے (۳) ۲۱-۲۳ |
| ۶ | منگل مرگشر کے (۱) ۴۸-۱۳ |
| ۷ | سورج مرگشر کے (۱) ۱۸-۴۲ شکر دو پیتی کے (۴) ۵۲-۳۰ |
| ۸ | |
| ۹ | |
| ۱۰ | سورج مرگشر کے (۲) ۳۰-۴۹ |
| ۱۱ | منگل مرگشر کے (۲) ۴۴-۲۳ شکر مرگشر کے (۱) ۵-۵۵ |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | شکر مرگشر کے (۲) ۵۲-۲۱ |
| ۱۴ | سورج مرگشر کے (۳) ۱۹-۲۸ |
| ۱۵ | بدھ دو پیتی کے (۱) ۳۳-۱۵ |
| ۱۶ | منگل مرگشر کے (۳) ۲۸-۱۲ |
| ۱۷ | سورج مرگشر کے (۴) ۵۰-۲۱ شکر مرگشر کے (۳) ۳۳-۲ |
| ۱۸ | |
| ۱۹ | بدھ دو پیتی کے (۲) ۲-۱۸ شکر مرگشر کے (۴) ۱۱-۵۴ |
| ۲۰ | |
| ۲۱ | سورج آردرا کے (۱) ۲۱-۱۳ شکر آردرا کے (۱) ۵-۱ |
| ۲۲ | منگل مرگشر کے (۴) ۱۰-۴۹ بدھ دو پیتی کے (۳) ۳-۱۶ |
| ۲۳ | |
| ۲۴ | سورج آردرا کے (۲) ۴۰-۲۰ شکر آردرا کے (۲) ۳۳-۴۴ |
| ۲۵ | برہسپت جیشٹھا کے (۳) ۱-۱۵ |
| ۲۶ | منگل آردرا کے (۱) ۳۸-۲۳ |
| ۲۷ | بدھ مرگشر کے (۱) ۰۰-۳۷ شکر آردرا کے (۳) ۳۰-۱۶ |
| ۲۸ | سورج آردرا کے (۳) ۱۹-۳۱ |
| ۲۹ | |
| ۳۰ | بدھ مرگشر کے (۲) ۲۳-۱ شکر آردرا کے (۴) ۳-۱۵ |



تقویم سیارگان

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدھوار | ۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۶ | ۱۸ | دوادشی | ۳۶<br>۳۸ | وشاکھا | ۳<br>۵۲ | سادھ | ۲۲<br>۴ | | | | | ۳۵<br>۹ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | بدھ متھن میں ۲۵-۱۸ پر آیا |
| ویروار | ۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۷ | ۱۹ | ترودشی | ۴۰<br>۱۳ | انورادھا | ۸<br>۳۹ | شبھ | ۲۱<br>۵۹ | | | | | ۳۵<br>۸ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | |
| شکروار | ۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۲۸ | ۲۰ | چتردشی | ۴۱<br>۴۴ | جیشٹھا | ۱۲<br>۴۲ | شکل | ۲۱<br>۳ | دھن | ۱۲<br>۲۲ | ۴۱<br>۴۴ | | ۳۵<br>۶ | ۴<br>۵۸ | ۷<br>۲ | | |
| سنیچروار | ۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۲۹ | ۲۱ | پورنماشی | ۴۱<br>۴۸ | مول | ۱۳<br>۴۹ | برہم | ۱۹<br>۳ | | | | ۱۱<br>۴۳ | ۳۵<br>۵ | ۴<br>۵۵ | ۷<br>۱ | ○ | چاند گرہن - بیاس پوجا - [illegible] پورنماشی برت |
| آتوار | ۵ | ۱۵ | ۱۴ | ساون | ۲۲ | ساون بدی | ۴۰<br>۳۰ | پورباکھاڑا | ۱۵<br>۵۴ | اندر | ۱۵<br>۵۳ | مکر | ۳۰<br>۵۳ | | | ۳۵<br>۳ | ۴<br>۵۹ | ۷<br>۱ | | |
| سوموار | ۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۲ | ۲۳ | دوج | ۳۸<br>۱۴ | اتراکھاڑا | ۱۵<br>۵۴ | ویدھرت | ۱۲<br>۳ | | | | | ۳۵<br>۱ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | |
| منگلوار | ۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۳ | ۲۴ | تیج | ۳۳<br>۵۲ | شرون | ۱۴<br>۲۲ | وشکنبھ | ۶<br>۱۰ | کنبھ | ۴۳<br>۱ | ۶<br>۳۵ | ۳۴<br>۵۳ | ۳۴<br>۵۹ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | پنچک شروع ۴۳-۱ - گنیش چوتھ |
| بدھوار | ۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۴ | ۲۵ | چوتھ | ۳۰<br>۲۸ | دھنشٹا | ۱۱<br>۴۱ | پریتی<br>آیوشمان | ۳۰-۱<br>۹-۵۵ | | | | | ۳۴<br>۵۶ | ۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | | |
| ویروار | ۹ | ۱۹ | ۱۸ | ۵ | ۲۶ | پنچمی | ۲۵<br>۲۵ | شت بھکھا | ۹<br>۳۷ | سوبھاگ | ۲۸<br>۱۳ | مین | ۵۲<br>۸ | | | ۳۴<br>۵۵ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | | بدھ مشرق میں غروب ۳۲-۵۵ |
| شکروار | ۱۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۶ | ۲۷ | چھٹ | ۱۹<br>۵۰ | پوربابھادوں | ۶<br>۱۵ | شوبھن | ۳۱<br>۵۳ | ء | | ۱۹<br>۵۰ | ۳۶<br>۲۵ | ۳۴<br>۵۳ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | | |
| سنیچروار | ۱۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۷ | ۲۸ | ستمی | ۱۳<br>۴۰ | اترابھادوں<br>ریوتی | ۱۱-۲<br>۱۱-۵۸ | اتیگنڈ | ۳۳<br>۲۲ | میکھ | ۵۸<br>۱۱ | | | ۳۴<br>۵۱ | ۵<br>۱ | ۶<br>۵۹ | ◓ | شکر کرک میں ۱۹-۴۲ پر آیا<br>پنچک ختم ۵-۱۱ |
| آتوار | ۱۲ | ۲۲ | ۲۱ | ۸ | ۲۹ | اشٹمی | ء | اشونی | ۵۳<br>۵۰ | سوکرما | ۲۵<br>۴۲ | | | | | ۳۴<br>۵۰ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | |
| سوموار | ۱۳ | ۲۳ | ۲۲ | ۹ | ۳۰ | نومی<br>دشمی | ۳۰-۱<br>[illegible]-۵۵ | بھرنی | ۵۱<br>۳ | دھرت | ۱۸<br>۷ | | | ۲۸<br>۲۵ | ۵۵<br>۴۱ | ۳۴<br>۴۸ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | |
| منگلوار | ۱۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۱۰ | ۳۱ | ایکادشی | ۳۹<br>۵۱ | کرتکا | ۴۶<br>۳۳ | شول | ۱۰<br>۴۹ | برکھ | ۶<br>۸ | | | ۳۴<br>۴۷ | ۵<br>۲ | ۶<br>۵۸ | | کملا ایکادشی |
| بدھوار | ۱۵ | ۲۵ | ۲۴ | ۱۱ | ساون | دوادشی | ۴۳<br>۲۶ | روہنی | ۴۳<br>۳۶ | گنڈ<br>ورِدھی | ۵-۳[illegible]<br>۵۸-۵۶ | | | | | ۳۴<br>۴۴ | ۵<br>۳ | ۶<br>۵۷ | | سورج کرک میں ۵۷-۵۱ |
| ویروار | ۱۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۱۲ | ۲ | ترودشی | ۳۰<br>۴۱ | مرگشر | ۴۰<br>۳۰ | دھرو | ۵۱<br>۴۳ | متھن | ۱۱<br>۵۸ | ۳۰<br>۴۱ | | ۳۴<br>۴۲ | ۵<br>۳ | ۶<br>۵۷ | | |
| شکروار | ۱۷ | ۲۷ | ۲۶ | ۱۳ | ۳ | چتردشی | ۳۶<br>۳۱ | آردرا | ۳۰<br>۲ | ویاگھات | ۲۶<br>۴۷ | | | | ۹<br>۶ | ۳۴<br>۴۰ | ۵<br>۳ | ۶<br>۵۶ | | بدھ کرک میں $\frac{۵۹}{۲۳}$ پر آیا |
| سنیچروار | ۱۸ | ۲۸ | ۲۷ | ۱۴ | ۴ | اماوس | ۳۵<br>۲۰ | پنربس | ۳۹<br>۵۰ | ہرکھن | ۴۳<br>۵۶ | کرک | ۲۳<br>۵۵ | | | ۳۴<br>۳۸ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۶ | ● | شنواری اماوس |
| آتوار | ۱۹ | ۲۹ | ۲۸ | ۱۵ | ۵ | ساون سدی | ۳۴<br>۲۳ | پکھ | ۴۰<br>۴۹ | وجر | ۴۳<br>۵ | | | | | ۳۴<br>۳۶ | ۵<br>۴ | ۶<br>۵۶ | | |
| سوموار | ۲۰ | ۳۰ | ۲۹ | ۱۶ | ۶ | دوج | ۳۳<br>۴۱ | اشلیکھا | ۳۲<br>۱۴ | سدھی | ۳۹<br>۳۶ | سنگھ | ۴۲<br>۱۴ | | | ۳۴<br>۳۴ | ۵<br>۵ | ۶<br>۵۵ | ☽ | چاند نظر آئیگا |
| منگلوار | ۲۱ | [illegible] | ۳۰ | ۱۷ | ۷ | تیج | ۳۶<br>۳۰ | مگھا | ۴۵<br>۴۰ | ویتی پات | ۳۷<br>۳۶ | | | | | ۳۴<br>۳۲ | ۵<br>۵ | ۶<br>۵۵ | | ہریالی تیج |
| بدھوار | ۲۲ | ۲ | ۳۱ | ۱۸ | ۸ | چوتھ | ۳۹<br>۱۳ | پوربا پھاگنی | ۵۱<br>۱۸ | وریان | ۳۸<br>۲۴ | | | ۷<br>۴۲ | ۳۹<br>۱۴ | ۳۴<br>۳۰ | ۵<br>۶ | ۶<br>۵۴ | | |
| ویروار | ۲۳ | ۳ | ۳۲ | ۱۹ | ۹ | پنچمی | ۴۲<br>۴۹ | اترا پھاگنی | ۵۶<br>۵۴ | پریگھ | ۳۴<br>۵ | کنیا | ۷<br>۴۲ | | | ۳۴<br>۲۸ | ۵<br>۶ | ۶<br>۵۴ | | ناگ پنچمی |
| شکروار | ۲۴ | ۴ | [illegible] | ۲۰ | ۱۰ | چھٹ | ۴۶<br>۴۵ | ہست | ۶۰<br>۰۰ | شو | ۳۸<br>۱۷ | | | | | ۳۴<br>۲۵ | ۵<br>۷ | ۶<br>۵۳ | | |
| سنیچروار | ۲۵ | ۵ | ۲ | ۲۱ | ۱۱ | ستمی | ۵۲<br>۳۰ | ہست | ۳<br>۱۱ | سدھ | ۳۹<br>۵۱ | تلا | ۳۶<br>۳۲ | ۵۲<br>۴۰ | | ۳۴<br>۲۲ | ۵<br>۷ | ۶<br>۵۳ | | |
| آتوار | ۲۶ | ۶ | ۳ | ۲۲ | ۱۲ | اشٹمی | ۵۶<br>۴۸ | چترا | ۹<br>۵۴ | سادھ | ۴۲<br>۲ | | | | ۲۵<br>۱۴ | ۳۴<br>۱۹ | ۵<br>۸ | ۶<br>۵۲ | ◒ | میلہ جینتا پوری دیوی |
| سوموار | ۲۷ | ۷ | ۳ | ۲۳ | ۱۳ | نومی | ۶۰<br>۰۰ | سواتی | ۱۴<br>۷ | شبھ | ۴۲<br>۴۷ | | | | | ۳۴<br>۱۷ | ۵<br>۸ | ۶<br>۵۲ | | |
| منگلوار | ۲۸ | ۸ | ۸ | ۲۴ | ۱۴ | نومی | ۷<br>۱۶ | وشاکھا | ۲۱<br>۵۹ | شکل | ۴۳<br>۳۸ | برچھک | ۵<br>۳۱ | | | ۳۴<br>۱۴ | ۵<br>۹ | ۶<br>۵۱ | | قمر در عقرب ۳۱-۵ |
| بدھوار | ۲۹ | ۹ | ۹ | ۲۵ | ۱۵ | دشمی | ۵<br>۵۹ | انورادھا | ۲۴<br>۱ | برہم | ۴۳<br>۳ | | | ۳۷<br>۲۲ | | ۳۴<br>۱۱ | ۵<br>۹ | ۶<br>۵۱ | | شکر مغرب میں طلوع ۵۹-۵۵ |
| ویروار | ۳۰ | ۱۰ | ۷ | ۲۶ | ۱۶ | ایکادشی | ۸<br>۴۵ | جیشٹھا | ۳۰<br>۵۶ | اندر | ۴۲<br>۵۰ | دھن | ۳۰<br>۵۶ | | ۸<br>۴۵ | ۳۴<br>۸ | ۵<br>۱۰ | ۶<br>۵۰ | | پوترا ایکادشی |
| شکروار | ۳۱ | ۱۱ | ۸ | ۲۷ | ۱۷ | دوادشی | ۱۰<br>۱۶ | مول | ۳۳<br>۴۱ | ویدھرت | ۴۱<br>۵۹ | | | | | ۳۴<br>۴ | ۵<br>۱۱ | ۶<br>۴۷ | | |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۸ جولائی کو مطلع صاف رہا تو اٹھارہ روز کے اندر اندر بارش خوب ہوگی۔ اگر ۹ جولائی کو بادل نہ گرجا۔ تو قحط پڑنے کی علامت ہوگی۔ اگر ۱۱ جولائی کو بوقت غروب آفتاب آسمان پر سرخی ہو۔ تو بیماری پڑ جاوے۔ اگر ۱۲ جولائی کو بارش ہوگئی۔ تو نرخ غلہ جلد گراں ہوگا۔ اگر ۱۴ جولائی کو بارش ہوگئی۔ تو فصل کی پیداوار بہت ہوگی۔ اگر ۲۳-۲۴ جولائی کو دو روز برابر بارش ہوئی۔ اور دکھن میں بجلی چمکی۔ تو قحط پڑنے کی علامت جاننا۔ اگر ۲۶ جولائی کو آسمان ابر محیط رہے۔ تو بارش بہت جلد کثرت سے ہو۔

ماہ جولائی ۱۹۳۶ء

## فہرست سیارگان برجہائے نکھشتر

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | سورج آردرا کے (۲) ۵۲-۱۹ منگل آردرا کے (۲) ۲۵-۳۲ بدھ مرگشر کے (۱) ۴۵-۱۸ |
| ۲ | شکر پنربس کے (۱) ۲۸-۳۱ |
| ۳ | بدھ مرگشر کے (۲) ۸-۴۹ |
| ۴ | |
| ۵ | سورج پنربس کے (۱) ۲۰-۹ شکر پنربس کے (۲) ۳۳-۱۱ |
| ۶ | منگل آردرا کے (۳) ۲-۵۶ |
| ۷ | راہو مولا کے (۳) کیتو آردرا کے (۱) ۱۵/۲۷ |
| ۸ | بدھ آردرا کے (۲) ۵۷-۱۰ شکر پنربس کے (۳) ۴۶-۱۳ |
| ۹ | سورج پنربس کے (۲) ۴۲-۳ |
| ۱۰ | بدھ آردرا کے (۳) ۵۱-۲۶ |
| ۱۱ | منگل آردرا کے (۴) ۸-۴۹ بدھ آردرا کے (۴) ۲۲-۱۰ شکر پنربس کے (۴) ۱۹-۳۲ |
| ۱۲ | سورج پنربس کے (۳) ۲۶-۵۹ بدھ پنربس کے (۱) ۴۴-۷ |
| ۱۳ | شکر پکھ کے (۱) ۴۹-۳۱ |
| ۱۴ | بدھ پنربس کے (۲) ۴۰-۷ |
| ۱۵ | سورج پنربس کے (۴) ۵۷-۵۱ |
| ۱۶ | منگل پنربس کے (۱) [illegible] بدھ پنربس کے (۳) [illegible] شکر پکھ کے (۲) ۲۱-۱۶ |
| ۱۷ | بدھ پنربس کے (۴) ۵۹-۲۳ |
| ۱۸ | شکر پکھ کے (۳) ۵-۲۷ |
| ۱۹ | سورج پکھ کے (۱) ۳۳-۱۹ بدھ پکھ کے (۱) ۲-۲۹ |
| ۲۰ | منگل پنربس کے (۲) ۲۳-۷ بدھ پکھ کے (۲) ۱۹-۰ شکر پکھ کے (۴) ۵۳-۳۳ |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | سورج پکھ کے (۲) ۵۹-۵۰ بدھ پکھ کے (۳) ۲۷-۸ |
| ۲۳ | شکر اشلیکھا کے (۱) ۳۴-۵۵ |
| ۲۴ | بدھ پکھ کے (۴) ۳-۲ برہسپت جیشٹا کے [illegible] |
| ۲۵ | منگل پنربس کے (۳) ۱۳-۲۰ |
| ۲۶ | سورج پکھ کے (۳) [illegible] بدھ اشلیکھا کے (۱) [illegible] شکر اشلیکھا کے (۲) ۹-۴۰ |
| ۲۷ | |
| ۲۸ | بدھ اشلیکھا کے (۲) ۴-۲۰ |
| ۲۹ | سورج پکھ کے (۴) ۵۹-۵۴ بدھ [illegible] شکر اشلیکھا کے (۳) ۲-۳۰ |
| ۳۰ | |
| ۳۱ | |

تحویل آفتاب در برج اسد

۲۳ جولائی

کنڈلی اساڑھ سدی پورنماشی ۴ جولائی وقت ۷-۳۳



کنڈلی ساون بدی اشٹمی ۱۲ جولائی بوقت ۷ بجے ۲۵



کنڈلی ساون بدی آماوش ۱۸ جولائی بوقت ۷-۱۹



کنڈلی ساون سدی اشٹمی ۲۶ جولائی بوقت ۷-۳



## تقویم سیارگان

| نام سیارہ | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راس | متھن | متھن | متھن | برچھک | متھن | کمبھ | دھن | متھن |
| انش | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۶ | ۱۰ | ۱۰ |
| کلا | ۲۴ | ۳۲ | ۳ | ۱۹ | ۲۵ | ۵۲ | ۹ | ۹ |
| بکلا | ۱۹ | ۳۱ | ۳۵ | ۳۳ | ۹ | ۴۴ | ۵۴ | ۵۴ |
| گتی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | م | م | م | ب | م | ب | ب | ب |
| [illegible] | ط | ع | ۵ | ط | ع | ط | ع | ع |

| نام سیارہ | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راس | متھن | متھن | متھن | برچھک | کرک | کمبھ | دھن | متھن |
| انش | ۳۲ | ۱۴ | ۳۰ | ۲۲ | ۱ | ۲۷ | ۹ | ۹ |
| کلا | ۵۹ | ۵۹ | ۵ | ۳۰ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۱ | ۴۱ |
| بکلا | ۳۰ | ۵۳ | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۵ | ۲۸ | ۲۸ |
| گتی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | م | م | م | ب | م | ب | ب | ب |
| [illegible] | ط | ع | ع | ط | ع | ط | ع | ع |

| نام سیارہ | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راس | کرک | متھن | کرک | برچھک | کرک | کمبھ | دھن | متھن |
| انش | ۲ | ۲۱ | ۱ | ۲۳ | ۹ | ۲۷ | ۹ | ۹ |
| کلا | ۴۰ | ۲۵ | ۱۰ | ۵۴ | ۳۳ | ۳۶ | ۲۲ | ۲۲ |
| بکلا | ۳۸ | ۱۲ | ۵۲ | ۲۳ | ۸ | ۱۰ | ۲۲ | ۲۲ |
| گتی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | م | م | م | ب | م | ب | ب | ب |
| [illegible] | ۵ | ع | ع | ۵ | ع | ط | ع | ع |

| نام سیارہ | سورج | منگل | بدھ | برہسپت | شکر | سنیچر | راہو | کیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راس | کرک | متھن | کرک | برچھک | کرک | کمبھ | مکر | متھن |
| انش | ۱۰ | ۲۷ | ۱۵ | ۲۳ | ۱۹ | ۲۷ | ۸ | ۸ |
| کلا | ۱۶ | ۳ | ۵۲ | ۱۸ | ۷۱ | ۱۷ | ۵۴ | ۵۹ |
| بکلا | ۴۶ | ۳۳ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۷ | ۲۳ | ۵۲ | ۵۴ |
| گتی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | م | م | م | ب | م | ب | ب | ب |
| [illegible] | ط | ع | ط | ط | ع | ط | ع | ع |

### استعمال و پرہیز

استعمال کثرت سے گرم پانی سے نہانا۔ بدن کو ملنا۔ پھلوں کا کھانا صحت کیلئے مفید ہے پرہیز۔ گرم غذا کھانا۔ زیادہ محنت کرنا۔ دریا کے کنارے سونا۔ جسم کو ننگا رکھنا۔ صحت کے لئے مضر ہے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کرک ہوتی ۳۰ [illegible] ۵۱



رہو کال - اسکے روز ۱۲ بجے سے دو پہر تک

# پیشنگوئی بابت ماہ ساون

ابتدائے ۱۵ جولائی لغایت ۱۵ اگست

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار پرکھشتر نکھشتر میں پرویش کریگی جوکہ ۳۰ مہورتی ہے اور چھٹے نکھشتر میں پرویش ہوئی ہے۔ آماوش بروز سنیچر وار اور جودش کو آردرا نکھشتر ہے۔ بیوپاری لوگ اناج کی تیزی کرنے والے ہیں۔ اسلئے غلہ گندم نخود کا بھاؤ گرانی پر رہیگا۔ اناج خورد دونک موٹھ۔ جوار۔ باجرہ۔ مکی وغیرہ کا نرخ بھی تیز رہیگا۔ روئی۔ کپاس۔ سوت اور سوتی کپڑہ کے نرخ میں کمی بیشی خفیف ہوتی رہیگی۔ دودھ دہی۔ گھی۔ چاول وغیرہ گراں ہونگے۔ گوڑ شکر۔ کھانڈ۔ شہد وغیرہ کا بھاؤ تیز۔ سب طرح کی دھاتیں کم بھاؤ۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں توریہ۔ تارا میرا۔ ارنڈی کا نرخ کم و بیش ہوتا ہے۔ پنساری کا سودا مرچ سیاہ۔ زیرہ دھنیا۔ اجوائن۔ انار دانہ۔ ہلدی وغیرہ کا بھاؤ خفیف تیز ہو۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ لوڑی۔ چارہ بھوسہ گراں۔ تمباکو ارزاں ملے۔ موسم۔ سورج۔ بدھ۔ شکر ایک نکھشتر پر رہینگے اسلئے امراض معدہ۔ بیضی۔ پیٹ درد۔ اسہال و قے وغیرہ بیماری سے لوگ تنگ ہونگے۔ آگ سے نقصان ہو۔ تجارت سست ہے۔ لوگوں کو تکلیف ناگہانی اتفاقات پیدا ہوں اور لوگوں کو تفکر و تشویش رہیگی۔

## کرۂ فلک

سورج۔ شکر کے درمیان بدھ اور چندرماں بادی نکھشتر پہ اس لئے ہوا زیادہ چلیگی۔ جوکہ آتے ہوئے بادلوں کو بھی اڑا کرلے جایا کریگی۔ بارش میدانی علاقوں میں کم اور پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوگی۔ ماہ جولائی کو ۱۵-۱۶ و ۱۷ کو ہوا سرد۔ بادل۔ ۲۱ و ۲۲ و ۲۶ و ۲۷ تاریخ کو بادل اور بعض بعض جگہ بارش ہو۔ ۲۹ و ۳۰ جولائی کو بادل کی گرج چمک۔ بادل و بارش ہوا سرد چلے ۲ و ۳ و ۴ و ۵ اگست کو گرج چمک بارش اور ۹-۱۰ ۱۳ و ۱۴ اگست کو بادل و بارش ہوگی۔

### ثبت اشرف و ہبوط سیارگان

ماہ جولائی

۹ جولائی۔ عطارد مشرق میں غروب

۱۱ " مریخ و عطارد کا برج جوزا میں قران

۱۳ " قمر در برج ثور شرف میں داخل۔

۱۵ " شمس برج سرطان میں داخل

۱۸ " شمس و عطارد کا برج سرطان میں قران۔

۲۱ " قمر برج عقرب ہبوط میں داخل

۲۹ " زہرہ مغرب میں طلوع

| | | | | | | | | | | | | | | ابتدا | انتہا | | طلوع | غروب | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنیچروار | ۱ | ۱۲ | ۹ | ۲۸ | ۱۸ | تردوشی | ۱۰<br>۲۸ | پوربھاگاد | ۳۵<br>۸ | بکھکنبھ | ۳۸<br>۹ | مکر | ۵۰<br>۱۰ | | | ۳۴<br>۰۰ | ۵<br>۱۲ | ۶<br>۴۸ | | |
| اتوار | ۲ | ۱۳ | ۱۰ | ۲۹ | ۱۹ | چتردشی | ۳۰ | اتراکھاد | ۳۵<br>۲۱ | پریت | ۳۳<br>۱۹ | | | ۹<br>۳۹ | ۳۴<br>۵۶ | ۳۳<br>۵۶ | ۵<br>۱۳ | ۶<br>۴۶ | ○ | پورنماشی برت |
| سوموار | ۳ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۰ | ۲۰ | پورنماشی | ۶<br>۱۵ | شرون | ۳۳<br>۲۵ | آیوشمان | ۲۹<br>۳۴ | | | | | ۳۳<br>۵۲ | ۵<br>۱۳ | ۶<br>۴۶ | | بدھ سنگھ میں ۲۳-۳-۵ پر آیا<br>[illegible] |
| منگلوار | ۴ | ۱۵ | ۱۲ | [illegible] | ۲۱ | پروا<br>دوج | ۲-۳-۲۶<br>۵۸-۵۹ | دھنشٹا | ۳۲<br>۳۲ | سوبھاگ | ۲۴<br>۱ | کمبھ | ۳<br>۲۸ | | | ۳۳<br>۴۸ | ۵<br>۱۴ | ۶<br>۴۶ | | [illegible] سنگھ میں ۳۱-۱۰-۱۳ [illegible]<br>[illegible] ۲۰-۳ [illegible] |
| بدھوار | ۵ | ۱۶ | ۱۳ | ۲ | ۲۲ | تیج | ۵۳<br>۳۶ | شت بکھا | ۳۶<br>۵۵ | شوبھن | ۱۴<br>۳۰ | | | ۲۶<br>۵۱ | ۵۳<br>۳۶ | ۳۳<br>۴۴ | ۵<br>۱۵ | ۶<br>۴۵ | | |
| ویروار | ۶ | ۱۷ | ۱۴ | ۳ | ۲۳ | چوتھ | ۴۸<br>۵۴ | پوربھاگاد | ۳۶<br>۳۳ | اتیگنڈ | ۱۰<br>۳۳ | مین | ۱۲<br>۲۵ | | | ۳۳<br>۴۰ | ۵<br>۱۶ | ۶<br>۴۴ | | گنیش چوتھ |
| شکروار | ۷ | ۱۸ | ۱۵ | ۴ | ۲۴ | پنچمی | ۴۳<br>۸ | اتربھاگاد | ۲۲<br>۳۰ | سوکرما<br>دھرت | ۳۷-۳<br>۴۰-۸ | | | | | ۳۳<br>۳۹ | ۵<br>۱۷ | ۶<br>۴۳ | | |
| سنیچروار | ۸ | ۱۹ | ۱۶ | ۵ | ۲۵ | چھٹ | ۳۶<br>۵۳ | ریوتی | ۳۰<br>۳۶ | شول | ۳۸<br>۲۱ | میکھ | ۲۰<br>۳۶ | ۳۶<br>۵۳ | | ۳۳<br>۳۲ | ۵<br>۱۷ | ۶<br>۴۳ | | چھٹ ختم ۲-۳-۳ چندن چھٹ |
| اتوار | ۹ | ۲۰ | ۱۷ | ۶ | ۲۶ | ستمی | ۳۰<br>۳۲ | اشونی | ۱۳<br>۱۱ | گنڈ | ۳۱<br>۴۵ | | | | ۳<br>۴۳ | ۳۳<br>۲۸ | ۵<br>۱۸ | ۶<br>۴۲ | | سیتلا ستمی [illegible] ستمی برت |
| سوموار | ۱۰ | ۲۱ | ۱۸ | ۷ | ۲۷ | اشٹمی | ۲۳<br>۲۱ | بھرنی | ۱۲<br>۱۶ | بردھ | ۳۳<br>۲۰ | برکھ | ۲۵<br>۳۸ | | | ۳۳<br>۲۴ | ۵<br>۱۹ | ۶<br>۴۱ | ◐ | بدھ [illegible] طلوع ۱۱-۳۷ [illegible] |
| منگلوار | ۱۱ | ۲۲ | ۱۹ | ۸ | ۲۸ | نومی | ۱۹ | کرتکا | ۶<br>۲۳ | دھرو | ۲۶<br>۱۵ | | | ۳۶<br>۳۲ | | ۳۳<br>۲۰ | ۵<br>۲۰ | ۶<br>۴۰ | | [illegible] نومی |
| بدھوار | ۱۲ | ۲۳ | ۲۰ | ۹ | ۲۹ | دسمی | ۱۴<br>۳ | روہنی | ۳<br>۱۳ | ویاگھات | ۱۹<br>۳۹ | متھن | ۳۶<br>۳ | | ۱۴<br>۳ | ۳۳<br>۱۶ | ۵<br>۲۱ | ۶<br>۳۹ | | |
| ویروار | ۱۳ | ۲۴ | ۲۱ | ۱۰ | ۳۰ | ایکادشی | ۹<br>۵۵ | مرگشرا<br>آردرا | ۵۴-۰۹<br>[illegible] | ہرکھن | ۱۳<br>۲۵ | | | | | ۳۳<br>۱۲ | ۵<br>۲۲ | ۶<br>۳۸ | | اجا ایکادشی |
| شکروار | ۱۴ | ۲۵ | ۲۲ | ۱۱ | ۳۱ | دوادشی | ۶<br>۳۵ | پنربس | ۵۸<br>۵۲ | بجر | ۸<br>۳۸ | کرک | ۴۳<br>۰۰ | | | ۳۳<br>۸ | ۵<br>۲۲ | ۶<br>۳۸ | | گئوو تسا دوادشی |
| سنیچروار | ۱۵ | ۲۶ | ۲۳ | ۱۲ | ۳۲ | تیرودشی | ۴<br>۲۶ | پکھ | ۵۹<br>۳۴ | سدھی | ۴<br>۱۸ | | | ۴<br>۲۷ | ۳۳<br>۵۶ | ۳۳<br>۴ | ۵<br>۲۳ | ۶<br>۳۷ | | پر سیت [illegible] ۳۷-۴-۱۳ |
| اتوار | ۱۶ | ۲۷ | ۲۴ | ۱۳ | [illegible] | چتردشی | ۳<br>۲۵ | اشلیکھا | ۴۰<br>۰۰ | ویتی پات<br>ورایان | ۵۸-۱<br>۳۰-۵۹ | | | | | ۳۳<br>۰۰ | ۵<br>۲۴ | ۶<br>۳۶ | ● | سورج سنگھ میں ۲۵-۴۱ |
| سوموار | ۱۷ | ۲۸ | ۲۵ | ۱۴ | ۳ | اماوس | ۳<br>۳۲ | اشلیکھا | ۱<br>۳۳ | پرگھ | ۵۴<br>۲۸ | سنگھ | ۱<br>۳۲ | | | ۳۲<br>۵۶ | ۵<br>۲۵ | ۶<br>۳۵ | | سوماوتی [illegible] اماوس |
| منگلوار | ۱۸ | ۲۹ | ۲۶ | ۱۵ | ۳ | [illegible] | ۵<br>۳۱ | مگھا | ۴<br>۴۷ | شو | ۵۶<br>۵۶ | | | | | ۳۲<br>۵۲ | ۵<br>۲۵ | ۶<br>۳۵ | ☾ | چاند نظر آئیگا۔ |
| بدھوار | ۱۹ | [illegible] | ۲۷ | ۱۶ | ۴ | دوج | ۸<br>۱۰ | پوربھاگنی | ۲۰ | سدھ | ۵۲<br>۲۳ | کنیا | ۲۴<br>۸ | | | ۳۲<br>۴۸ | ۵<br>۲۶ | ۶<br>۳۴ | | |
| ویروار | ۲۰ | ۲ | ۲۸ | ۱۷ | ۵ | تیج | ۱۱<br>۵۴ | اتراپھاگنی | ۱۴<br>۳۲ | سادھ | ۵۷<br>۲۳ | | | ۴۴<br>۱۰ | | ۳۲<br>۴۴ | ۵<br>۲۷ | ۶<br>۳۳ | | ہرتالکا تیج [illegible] چوتھ |
| شکروار | ۲۱ | ۳ | ۲۹ | ۱۸ | ۶ | چوتھ | ۱۶<br>۲۶ | ہست | ۲۰<br>۳۵ | شبھ | ۵۶<br>۵۲ | تلا | ۵۳<br>۴۲ | | ۱۶<br>۲۶ | ۳۲<br>۴۰ | ۵<br>۲۸ | ۶<br>۳۲ | | بدھ کنیا میں ۲۵-۴۷ پر آیا |
| سنیچروار | ۲۲ | ۴ | ۳۰ | ۱۹ | ۷ | پنچمی | ۲۱<br>۴۰ | چترا | ۲۲<br>۵۶ | شکل | ۱۰<br>۰۰ | | | | | ۳۲<br>۳۶ | ۵<br>۲۹ | ۶<br>۳۱ | | رکھی پنچمی |
| اتوار | ۲۳ | ۵ | ۳۱ | ۲۰ | ۸ | چھٹ | ۲۶<br>۳۷ | سواتی | ۳۳<br>۳۷ | [illegible] | ۲۸ | | | | | ۳۲<br>۳۲ | ۵<br>۲۹ | ۶<br>۳۱ | | |
| سوموار | ۲۴ | ۶ | [illegible] | ۲۱ | ۹ | ستمی | ۳۱<br>۲۳ | بساکھا | ۳۹<br>۳۲ | [illegible] | ۱<br>۳۸ | برچھک | ۲۳<br>۹ | ۳۰<br>۲۳ | | ۳۲<br>۲۸ | ۵<br>۳۰ | ۶<br>۳۰ | | سوریا ستمی قمر در عقرب ۲۳-۶ |
| منگلوار | ۲۵ | ۷ | ۲ | ۲۲ | ۱۰ | اشٹمی | ۳۵<br>۱۳ | انورادھا | ۴۳<br>۵۱ | اینددر | ۲<br>۴۲ | | | | ۳<br>۱۹ | ۳۲<br>۲۴ | ۵<br>۳۱ | ۶<br>۲۹ | ◑ | رادھا اشٹمی |
| بدھوار | ۲۶ | ۸ | ۳ | ۲۳ | ۱۱ | نومی | ۳۷<br>۵۶ | جیشٹھا | ۴۸<br>۵۹ | بیدھرتی | ۲<br>۵۲ | دھن | ۴۸<br>۵۹ | | | ۳۲<br>۲۰ | ۵<br>۳۲ | ۶<br>۲۸ | | |
| ویروار | ۲۷ | ۹ | ۴ | ۲۴ | ۱۲ | دسمی | ۳۹<br>۴۳ | مول | ۵۲<br>۳ | وشکنبھ | ۲<br>۹ | | | | | ۳۲<br>۱۶ | ۵<br>۳۳ | ۶<br>۲۷ | | |
| شکروار | ۲۸ | ۱۰ | ۵ | ۲۵ | ۱۳ | ایکادشی | ۴۰<br>۱ | پوراکھاڑ | ۵۴<br>۴۴ | پریت<br>آیوشمان | ۲۹-۰۰<br>۲۵-۵۵ | | | ۹<br>۵۲ | ۴۰<br>۱ | ۳۲<br>۱۲ | ۵<br>۳۴ | ۶<br>۲۷ | | پدماں ایکادشی |
| سنیچروار | ۲۹ | ۱۱ | ۶ | ۲۶ | ۱۴ | دوادشی | ۳۹<br>۵ | اتراکھاڑ | ۵۴<br>۵۷ | سوبھاگ | ۵۳ | مکر | ۹<br>۱۸ | | | ۳۲<br>۸ | ۵<br>۳۴ | ۶<br>۲۶ | | شکر کنیا میں ۳۹-۱۹ پر آیا |
| اتوار | ۳۰ | ۱۲ | ۷ | ۲۷ | ۱۵ | تیرودشی | ۳۶<br>۳۵ | شرون | ۵۳<br>۳۵ | شوبھن | ۴۹<br>۳۰ | | | | | ۳۲<br>۴ | ۵<br>۳۵ | ۶<br>۲۵ | | |
| سوموار | ۳۱ | ۱۳ | ۸ | ۲۸ | ۱۶ | چتردشی | ۳۳<br>۲۸ | دھنشٹا | ۵۱<br>۱۰ | اتیگنڈ | ۴۱<br>۳ | کمبھ | ۲۲<br>۴۴ | ۳۳<br>۲۸ | | ۳۱<br>۵۹ | ۵<br>۳۶ | ۶<br>۲۴ | | پنچک شروع ۳۳-۲۳ اننت چودس |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ و ۳ اگست کو بارش ہوئی۔ تو ساونی کا فصل اچھا ہوگا۔ اگر ۴۔ اگست کو بارش ہوئی تو ماہ پوہ میں غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۱۵۔ اگست کو بادل ہوئے۔ تو نرخ غلہ گراں ہو جاوے۔ اگر ۱۶۔ اگست کو بارش ہوگئی۔ تو لوگوں میں بیماری سے دہشت پھیل جاوے۔ اگر ۱۹۔ اگست کو بارش ہوگئی تو گھی۔ تیل گراں ہو جاوے۔ اگر ۲۰۔ اگست کو بادل ہوئے۔ تو اناج کا نرخ جلد گراں ہو جاوے۔ اگر ۲۲۔ اگست کو مطلع صاف رہا۔ تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے۔ اگر ۲۴۔ اگست کو مطلع صاف رہا تو قحط سالی کی علامت جانیئے۔ اگر ۲۶۔ اگست کو بارش ہوگئی۔ تو غلہ جلد گراں ہو جاویگا۔ اگر ۲۷۔ اگست کو بارش ہوئی۔ تو غلہ ارزاں ہوگا۔

# ودھیا ساگر جنتری

زائچہ تحویل آفتاب یعنی شنکرانت سنگھ



## پیشنگوئی بابت ماہ بھادون

### ابتدائے ۱۷ اگست لغایت ۱۵ ستمبر

### کرۂ ارض

اس ماہ کی شنکرانت بروز اتوار اشلیکھا نچھتر میں پرویش کریگی۔ چونکہ ۱۵ مہورتی ہے اور پانچویں نچھتر میں آئی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ بدستور ماہ سابقہ گرانی پر ہی رہیگا۔ غلہ خورد مونگ۔ ماش۔ موٹھ۔ جوار۔ باجرہ۔ مکی کا نرخ قدرے ارزاں ہو جائیگا۔ دودھ۔ دہی کا نرخ کچھ ارزاں گھی گراں رہیگا۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ کھانڈ۔ چاول۔ نمک کا نرخ گراں۔ سونا۔ چاندی۔ تانبہ۔ پیتل وغیرہ کا نرخ بھی بہ نسبت ماہ سابقہ تیزی پر ہوگا۔ سرخ رنگ کی تمام اشیاء کیشر۔ سرخ۔ لاکھ۔ مجیٹھ۔ چندن۔ لال مرچ۔ مسور وغیرہ گراں ملیں گے۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارامیرا۔ اور ارنڈی وغیرہ کا نرخ کچھ تیز ہوگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ ریشمی و سوتی کپڑا اور چوپائے جانور گراں رہینگے۔ عطاروں اور پنساریوں کا سامال سبھی بھاڑ۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ چارہ۔ بھوسہ۔ توڑی۔ تمباکو۔ پھل۔ پھول۔ گراں ہونگے۔

موسم صحت کے لئے یہ ماہ بھی اچھا نہیں۔ خونی امراض کا زور رہیگا۔ چوپائے جانوروں میں روگ کی بڑھتی۔ و لوگوں کو فکر و تشویش۔ وبائی امراض سے لوگ تنگ ہونگے۔

### کرۂ فلک

بدھ و شکر کا ملاپ ہوگا۔ اور چندرماں ابی نچھتر پر ہے اس لئے بادل بہت آوینگے۔ اور بارش بھی بعض بعض جگہ خوب ہوگی۔ ۱۲ - ۱۴ - ۱۰ اگست کو آسمان ابر آلود۔ بارش۔ ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ اگست کو آسمان پر بادل چھائے رہیں اور بعض بعض جگہ بارش بھی ہو۔ ۳۰ - ۳۱ اگست کو آسمان ابر آلود ہوا سرد چلے۔ نیز ۲ - ۵ - ۷ ستمبر کو ہوا سرد۔ بادل خفیف بارش اور ۹ - ۱۰ - ۱۳ - ۱۵ ستمبر کو بادل [illegible]



### تقویم سیارگان

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | |
| ۲ | سورج اشلیکھا کے (۱) ۲۹ - ۱۰ |
| ۳ | بدھ مگھا کے (۱) ۳۲ - ۱۸ |
| ۴ | بدھ مگھا کے (۵) ۲۸ - ۵۵<br>شکر مگھا کے (۱) ۳۱ - ۴۱ |
| ۵ | سورج اشلیکھا کے (۲) ۵۸ - ۳۸ |
| ۶ | شکر [illegible] کے (۱) ۲۱ - ۱۰ بدھ مگھا کے (۲) [illegible]<br>شکر مگھا کے (۲) ۱۳ - ۱۷ |
| ۷ | |
| ۸ | بدھ مگھا کے (۳) ۷ - ۱۲ |
| ۹ | سورج اشلیکھا کے (۳) [illegible] بدھ پوربا پھالگنی [illegible]<br>[illegible] شکر مگھا کے (۳) ۱۹ - ۱۰ |
| ۱۰ | منگل [illegible] کے (۲) ۳۵ - ۸ |
| ۱۱ | بدھ پوربا پھالگنی کے (۲) ۵۰ - ۷۰ شکر<br>مگھا کے (۴) ۳ - ۲۷ |
| ۱۲ | سورج اشلیکھا کے (۴) ۵۵ - ۷۵ |
| ۱۳ | |
| ۱۴ | بدھ پوربا پھالگنی کے (۳) ۵۷ - ۳۰ |
| ۱۵ | منگل [illegible] کے (۳) ۲۸ - ۳۳ شکر پوربا پھالگنی<br>کے (۱) ۱۸ - ۷ |
| ۱۶ | سورج مگھا کے (۱) ۲۵ - ۴۱ |
| ۱۷ | بدھ پوربا پھالگنی کے (۴) ۳ - ۲۳ |
| ۱۸ | بدھ اترا پھالگنی کے (۱) ۱۷ - ۵۰ شکر<br>پوربا پھالگنی کے (۲) ۲۰ - ۳۰ |
| ۱۹ | سورج مگھا کے (۲) ۵۳ - ۱ |
| ۲۰ | منگل [illegible] کے (۴) ۳۲ - ۳۸ |
| ۲۱ | بدھ اترا پھالگنی کے (۲) ۲۵ - ۷۷ شکر<br>پوربا پھالگنی کے (۳) ۴۷ - ۱۱ |
| ۲۲ | |
| ۲۳ | سورج مگھا کے (۳) ۲۱ - ۲۲ بدھ اترا پھالگنی<br>کے (۳) ۵۵ - ۳۱ |
| ۲۴ | شکر پوربا پھالگنی کے (۴) ۱۱ - ۵۹ |
| ۲۵ | منگل اشلیکھا کے (۱) ۵۹ - ۲۰ |
| ۲۶ | سورج مگھا کے (۴) [illegible]<br>[illegible] |
| ۲۷ | |
| ۲۸ | بدھ ہست کے (۱) ۴۴ - ۵۱ |
| ۲۹ | شکر اترا پھالگنی کے (۱) ۳۹ - ۱۹ |
| ۳۰ | بدھ [illegible] پھالگنی کے (۱) ۱۶ - ۳۳ |
| ۳۱ | منگل اشلیکھا کے [illegible] ۲۵ شکر [illegible]<br>[illegible] |

ماہ اگست

[illegible]

| ایام | ستمبر ۱۹۳۷ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | تتھی | گھڑی پل | نچھتر | گھڑی پل | یوگ | گھڑی پل | راس چندرما | گھڑی پل | ابتدا | انتہا | گھڑی پل | طلوع | غروب | چاند کی اشکال | تہوار و طلوع و غروب سیارگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منگلوار | ۱ | ۱۴ | ۹ | ۲۹ | ۱۶ | پورنماشی | ۲۹<br>۳۲ | شتبھکھا | ۳۹<br>۱۸ | سوکرما | ۳۷<br>۵۴ | | | | ۱<br>۳۰ | ۳۱<br>۵۴ | ۵<br>۳۴ | ۶<br>۲۳ | ○ | پورنماشی ـ برت چترابھج |
| بدھوار | ۲ | ۱۵ | ۱۰ | [illegible] | ۱۸ | پڑوا | ۲۳<br>۳۸ | پوربابھادرپد | ۴۲<br>۳ | دھرت | ۳۱<br>۷ | مین | ۳۱<br>۵۳ | | | ۳۱<br>۳۹ | ۵<br>۳۸ | ۶<br>۲۲ | | |
| ویروار | ۳ | ۱۶ | ۱۱ | ۲ | ۱۹ | دوج | ۱۹<br>۱۳ | اترابھادرپد | ۴۳<br>۱۲ | شول | ۳۳<br>۵۱ | | | ۴۶<br>۳۱ | | ۳۱<br>۴۳ | ۵<br>۳۹ | ۶<br>۲۱ | | |
| شکروار | ۴ | ۱۷ | ۱۲ | ۳ | ۲۰ | تیج | ۱۴<br>۸ | ریوتی | ۳۸<br>۱۰ | گنڈ | ۱۶<br>۱۶ | میکھ | ۳۸<br>۱۰ | | ۱۴<br>۸ | ۳۱<br>۳۹ | ۵<br>۴۰ | ۶<br>۲۰ | | پنچک ختم ۳۸ ـ ۱۰<br>گنیش چوتھ |
| چھنچروار | ۵ | ۱۸ | ۱۳ | ۴ | ۲۱ | چوتھ | ۷<br>۸ | اشنی | ۳۳<br>۵۴ | بردھ | ۸<br>۳۴ | | | | | ۳۱<br>۳۵ | ۵<br>۴۱ | ۶<br>۱۹ | | |
| آئتوار | ۶ | ۱۹ | ۱۴ | ۵ | ۲۲ | پنچمی<br>چھٹ | ۴۹ ـ ـ<br>۵۰ ـ ۵۴ | بھرنی | ۲۹<br>۴۷ | دھرو<br>ویاگھات | ۳۰ ـ ـ<br>۵۸ ـ ۴۰ | برکھ | ۴۳<br>۵۰ | ۵۴<br>۵۷ | | ۳۱<br>۳۰ | ۵<br>۴۲ | ۶<br>۱۸ | | کپلا چھٹ |
| سوموار | ۷ | ۲۰ | ۱۵ | ۶ | ۲۳ | سپتمی | ۴۹<br>۳۱ | کرتکا | ۲۵<br>۵۹ | ہرکن | ۴۶<br>۵ | | | | ۲۲<br>۱۷ | ۳۱<br>۲۵ | ۵<br>۴۳ | ۶<br>۱۷ | | |
| منگلوار | ۸ | ۲۱ | ۱۶ | ۷ | ۲۴ | اشٹمی | ۴۴<br>۲۵ | روہنی | ۲۲<br>۴۱ | بجر | ۳۹<br>۲۱ | متھن | ۵۰<br>۲۲ | | | ۳۱<br>۲۰ | ۵<br>۴۴ | ۶<br>۱۶ | ◓ | مہالکشمی اشٹمی برت |
| بدھوار | ۹ | ۲۲ | ۱۷ | ۸ | ۲۵ | نومی | ۴۰<br>۱۹ | مرگشر | ۲۰<br>۴۳ | سدھی | ۳۳<br>۱۵ | | | | | ۳۱<br>۱۵ | ۵<br>۴۵ | ۶<br>۱۵ | | |
| ویروار | ۱۰ | ۲۳ | ۱۸ | ۹ | ۲۶ | دسمی | ۳۷<br>۱ | اردرا | ۱۸<br>۱۷ | ویتپات | ۲۷<br>۵۱ | | | ۸<br>۴۰ | ۳۷<br>۱ | ۳۱<br>۱۰ | ۵<br>۴۶ | ۶<br>۱۴ | | |
| شکروار | ۱۱ | ۲۴ | ۱۹ | ۱۰ | ۲۷ | ایکادشی | ۳۴<br>۵۰ | پنربس | ۱۶<br>۳۲ | بریان | ۲۳<br>۱۸ | کرک | ۳۰<br>۱۴ | | | ۳۱<br>۵ | ۵<br>۴۷ | ۶<br>۱۳ | | بدھ کاری ۵ ـ ۱۷<br>اندرا ایکادشی |
| چھنچروار | ۱۲ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۱ | ۲۸ | دوادشی | ۳۳<br>۵۱ | پکھ | ۱۶<br>۵۴ | پریگھ | ۲۰<br>۴۰ | | | | | ۳۱<br>۰ | ۵<br>۴۸ | ۶<br>۱۲ | | |
| آئتوار | ۱۳ | ۲۶ | ۲۱ | ۱۲ | ۲۹ | تیرودشی | ۳۴<br>۱۱ | اشلیکھا | ۱۹<br>۳۷ | شیو | ۱۹<br>۰ | سنگھ | ۱۹<br>۳۷ | | ۳۴<br>۱۱ | ۳۰<br>۵۵ | ۵<br>۴۹ | ۶<br>۱۱ | | بدھ مغرب میں غروب ۹ ـ ۴ |
| سوموار | ۱۴ | ۲۷ | ۲۲ | ۱۳ | ۳۰ | چودش | ۳۵<br>۴۷ | مگھا | ۲۲<br>۳۲ | سدھ | ۱۶<br>۲۱ | | | | ۴<br>۵۹ | ۳۰<br>۵۰ | ۵<br>۵۰ | ۶<br>۱۰ | | |
| منگلوار | ۱۵ | ۲۸ | ۲۳ | ۱۴ | ۳۱ | اماوس | ۳۸<br>۳۸ | پوربا پھاگن | ۲۶<br>۳۰ | سادھ | ۱۵<br>۳۶ | کنیا | ۴۳<br>۲۸ | | | ۳۰<br>۴۵ | ۵<br>۵۱ | ۶<br>۹ | ● | منگل سنگھ میں ۵۹ ـ ۲۷ پر آیا<br>پتر پکش شرادھ ختم |
| بدھوار | ۱۶ | ۲۹ | ۲۴ | ۱۵ | [illegible] | شدی اکم | ۴۲<br>۲۵ | اترا پھاگن | ۳۱<br>۳۵ | شبھ | ۱۵<br>۴۷ | | | | | ۳۰<br>۴۰ | ۵<br>۵۳ | ۶<br>۸ | | سورج کنیا میں ۳۵ ـ ۱۲ |
| ویروار | ۱۷ | ۳۰ | ۲۵ | ۱۶ | ۲ | دوج | ۴۷<br>۲۲ | ہست | ۳۴<br>۳۳ | شکل | ۱۹<br>۳۶ | | | | | ۳۰<br>۳۵ | ۵<br>۵۳ | ۶<br>۷ | ☽ | چاند نظر آئیگا |
| شکروار | ۱۸ | [illegible] | ۲۶ | ۱۷ | ۳ | تیج | ۵۲<br>۱۳ | چترا | ۴۴<br>۹ | برہم | ۱۷<br>۵۶ | تلا | ۱۰<br>۵۶ | | | ۳۰<br>۳۰ | ۵<br>۵۴ | ۶<br>۶ | | |
| چھنچروار | ۱۹ | ۲ | ۲۷ | ۱۸ | ۴ | چوتھ | ۵۶<br>۱۴ | سواتی | ۵۰<br>۳۸ | ایندر | ۱۹<br>۲۶ | | | ۲۴<br>۴۴ | ۵۶<br>۱۴ | ۳۰<br>۲۵ | ۵<br>۵۵ | ۶<br>۵ | | |
| آئتوار | ۲۰ | ۳ | ۲۸ | ۱۹ | ۵ | پنچمی | ۶۰<br>۰ | بشاکھا | ۵۶<br>۲۵ | بیدھرت | ۳۰<br>۲۸ | برچھک | ۳۰<br>۱۴ | | | ۳۰<br>۲۰ | ۵<br>۵۶ | ۶<br>۴ | | قمر در عقرب ۲۰ ـ ۱۴ |
| سوموار | ۲۱ | ۴ | ۲۹ | ۲۰ | ۶ | پنچمی | ۳<br>۶ | انرادھا | ۶۰<br>۰ | وشکنب | ۳۲<br>۴۴ | | | | | ۳۰<br>۱۵ | ۵<br>۵۷ | ۶<br>۳ | | |
| منگلوار | ۲۲ | ۵ | ۳۰ | ۲۱ | ۷ | چھٹ | ۶<br>۱ | انرادھا | ۲<br>۱۱ | پریت | ۳۳<br>۳ | | | | | ۳۰<br>۱۰ | ۵<br>۵۸ | ۶<br>۲ | | شکر کنیا میں ۳۶ ـ ۲۵ پر آیا |
| بدھوار | ۲۳ | ۶ | ۳۱ | ۲۲ | ۸ | ستمی | ۹<br>۷ | جیشٹھا | ۶<br>۳۷ | آیوشمان | ۳۲<br>۲۷ | دھن | ۶<br>۳۷ | ۹<br>۲ | ۳۹<br>۵۵ | ۳۰<br>۵ | ۵<br>۵۹ | ۶<br>۱ | ◒ | |
| ویروار | ۲۴ | ۷ | [illegible] | ۲۳ | ۹ | اشٹمی | ۱۰<br>۳۸ | مول | ۵<br>۵۶ | سوبھاگ | ۲۱<br>۳ | | | | | ۳۰<br>۰ | ۶<br>۰ | ۶<br>۰ | | |
| شکروار | ۲۵ | ۸ | ۲ | ۲۴ | ۱۰ | نومی | ۱۱<br>۱۵ | پوربا کھاڑ | ۱۱<br>۵۸ | شوبھن | ۱۸<br>۴۴ | مکر | ۲۴<br>۱۰ | | | ۲۹<br>۵۵ | ۶<br>۱ | ۵<br>۵۹ | | |
| چھنچروار | ۲۶ | ۹ | ۳ | ۲۵ | ۱۱ | دسمی | ۱۰<br>۴۷ | اترا کھاڑ | ۱۷<br>۲۵ | اتیگنڈ | ۱۵<br>۵ | | | ۳۹<br>۲۵ | | ۲۹<br>۵۰ | ۶<br>۲ | ۵<br>۵۸ | | |
| آئتوار | ۲۷ | ۱۰ | ۴ | ۲۶ | ۱۲ | ایکادشی | ۸<br>۲۴ | شرون | ۱۷<br>۲۱ | سوکرم | ۱۰<br>۳۵ | کنبھ | ۳۱<br>۳۴ | | ۹<br>۲۴ | ۲۹<br>۴۵ | ۶<br>۳ | ۵<br>۵۷ | | پنچک شروع ۱۳ ـ ۳۷ |
| سوموار | ۲۸ | ۱۱ | ۵ | ۲۷ | ۱۳ | دوادشی | ۵<br>۱۴ | دھنشٹھا | ۱۰<br>۵ | دھرت<br>شول | ۱۴ ـ ۵<br>۱۳ ـ ۵۹ | | | | | ۲۹<br>۴۰ | ۶<br>۴ | ۵<br>۵۶ | | |
| منگلوار | ۲۹ | ۱۲ | ۶ | ۲۸ | ۱۴ | تیرس<br>چودش | ۱ ـ ۱۴<br>[illegible] | شتبھکھا | ۸<br>۳۴ | گنڈ | ۵۲<br>۳۳ | مین | ۵۱<br>۱۳ | ۵۶<br>۳۲ | | ۲۹<br>۳۵ | ۶<br>۵ | ۵<br>۵۵ | | بدھ مشرق میں طلوع ۵۲ ـ ۴۹ |
| بدھوار | ۳۰ | ۱۳ | ۷ | ۲۹ | ۱۵ | پورنماشی | ۵۰<br>۴۲ | پوربھادرپد | ۵<br>۸ | بردھ | ۴۶<br>۱۶ | | | | ۲۳<br>۴۷ | ۲۹<br>۳۰ | ۶<br>۶ | ۵<br>۵۴ | ○ | پورنماشی برت |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر یکم ستمبر کو آسمان پر گھنگور گھٹا دکھائی دیوے۔ تو غلہ بہت جلد گراں ہو جاوے گا۔ اگر ۲ ستمبر کو بادل ہووے تو بارش جلد آنے والی جاننا۔ اگر ۸ ستمبر کو بارش ہوئی تو غلہ ارزاں رہے۔ اگر ۱۱ ستمبر کو بادل ہووے۔ تو بارش جلد آوے۔ اگر ۱۹ ستمبر کو بوقت طلوع آفتاب بادل ہوں۔ تو بارش جلد آنے کی علامت ہے اگر ۲۴ ستمبر کو بارش ہوئی تو ارزانی غلہ کی علامت ہوگی۔ اگر ۲۸ ستمبر کو رعد و برق کی مہیب آواز سنائی دی۔ تو آئندہ غلہ گراں ہو جاوے گا۔ اگر ۳۰ ستمبر کو مطلع صاف رہا۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو۔ اگر بادل ہووے تو جلد نرخ غلہ گراں ہو جاوے۔

## جنبش ستارگان

[illegible] کنیا [illegible] ۲۵



پنچک کال ۲۵-۲۶ سے ۳۱-۳۲ تک

## پیشنگوئی بابت ماہ اسوج

ابتداء سے ۱۶ ستمبر لغایت ۱۵ اکتوبر

### کرۂ ارض

اس ماہ کی شکل [illegible] [illegible] ہوگی چونکہ ۲۵ ستمبر سے
اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ اوسط ماہ
گذشتہ کی طرح ہی رہیگا۔ غلہ خورد ہوگا
موٹھ۔ ماش۔ جوار۔ باجرہ۔ مکی کا نرخ کچھ
ارزاں رہیگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت
سوتی کپڑا کا نرخ مدھم۔ [illegible] کچھ گراں
رہیگا۔ [illegible] شکر۔ کھانڈ۔ دودھ۔
دہی کا نرخ تیزی پر ہوگا۔ گھی کا بھاؤ مدھم۔
اشیاء سرخ رنگ۔ لاکھ۔ [illegible]۔ چندن
[illegible] سونا [illegible] اور [illegible] کے برتن گراں
رہینگے۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔
[illegible] نارجیل۔ [illegible] نمک کا بھاؤ
اور چوپائے تیز بھاؤ بکیں گے۔ سونا کا
بھاؤ گراں۔ چاندی۔ قلعی۔ کانسی کا نرخ
[illegible]۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ لوہا۔ گھاس۔
بھوسہ کا نرخ گراں ہوگا۔
موسم۔ امراض [illegible]۔ پھنسی۔ بخار ملیریا اور
نزلہ و زکام سے لوگ تکلیف پاویں گے
لوگوں کے دلوں میں بغض و حسد کا مادہ
بڑھ جاوے۔ [illegible] سے نقصان
ہوگا۔

### کرۂ فلک

اس ماہ میں ہوا زیادہ چلیگی۔ بارش کم
ہوگی۔ ۱۶ و ۱۷ ستمبر کو ہوا تیز۔ آسمان
پر بادل رہیں۔ ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ ستمبر
کو آسمان ابر محیط ۲۹ و ۳۰ ستمبر کو
بادل اور بعض بعض جگہ بارش ہو ۲ و
۳ اکتوبر کو بادل ہو اور خفیف بارش
۱۰ و ۱۱ و ۱۲ اکتوبر کو آسمان پر
بادل چکر لگاویں گے۔ اور کچھ بوندا
باندی ہوگی



### تقویم سیارگان

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | بدھ حوت کے (۴) ۵۳-۱۰ [illegible]<br>[illegible] (۳) ۵۵-۰۰ |
| ۲ | [illegible] ۱۷<br>[illegible] ۲۵-۱۸ |
| ۳ | |
| ۴ | |
| ۵ | [illegible] (۳) ۲۲-۹ [illegible]<br>[illegible] ۵۹-۲۳ |
| ۶ | [illegible] (۱۳) ۹-۳۰ |
| ۷ | [illegible] |
| ۸ | [illegible] کے (۷) ۵۵-۲۲ |
| ۹ | [illegible] ۵۸ |
| ۱۰ | [illegible] ۵۵ |
| ۱۱ | [illegible] ۲۹ |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | [illegible] |
| ۱۴ | [illegible] ۱۸ |
| ۱۵ | [illegible] ۲۶ |
| ۱۶ | [illegible] ۳۶<br>[illegible] |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | |
| ۱۹ | [illegible] |
| ۲۰ | [illegible] ۳۲<br>[illegible] |
| ۲۱ | [illegible] ۱۸-۵ |
| ۲۲ | [illegible] (۳) ۳۶ [illegible] |
| ۲۳ | |
| ۲۴ | [illegible] (۲) ۱۳-۳۲ |
| ۲۵ | [illegible]<br>[illegible] |
| ۲۶ | |
| ۲۷ | [illegible]<br>[illegible] |
| ۲۸ | |
| ۲۹ | [illegible] |
| ۳۰ | [illegible] (۲) ۱-۱۸<br>[illegible] |

[illegible]

| وار | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ویروار | ۱ | ۱۴ | ۸ | [illegible] | ۱۶ | پنچک ختم ۵۸ - ۴۵ |
| شکروار | ۲ | ۱۵ | ۹ | ۲ | ۱۷ | |
| سنیچروار | ۳ | ۱۶ | ۱۰ | ۳ | ۱۸ | [illegible] |
| اتوار | ۴ | ۱۷ | ۱۱ | ۴ | ۱۹ | |
| سوموار | ۵ | ۱۸ | ۱۲ | ۵ | ۲۰ | |
| منگلوار | ۶ | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۲۱ | |
| بدھوار | ۷ | ۲۰ | ۱۴ | ۷ | ۲۲ | |
| ویروار | ۸ | ۲۱ | ۱۵ | ۸ | ۲۳ | |
| شکروار | ۹ | ۲۲ | ۱۶ | ۹ | ۲۴ | |
| سنیچروار | ۱۰ | ۲۳ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۵ | |
| اتوار | ۱۱ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۲۶ | |
| سوموار | ۱۲ | ۲۵ | ۱۹ | ۱۲ | ۲۷ | |
| منگلوار | ۱۳ | ۲۶ | ۲۰ | ۱۳ | ۲۸ | شب معراج |
| بدھوار | ۱۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۱۴ | ۲۹ | |
| ویروار | ۱۵ | ۲۸ | ۲۲ | ۱۵ | ۳۰ | |
| شکروار | ۱۶ | ۲۹ | ۲۳ | ۱۶ | [illegible] | [illegible] |
| سنیچروار | ۱۷ | ۳۰ | ۲۴ | ۱۷ | ۲ | [illegible] |
| اتوار | ۱۸ | [illegible] | ۲۵ | ۱۸ | ۳ | |
| سوموار | ۱۹ | ۲ | ۲۶ | ۱۹ | ۴ | |
| منگلوار | ۲۰ | ۳ | ۲۷ | ۲۰ | ۵ | |
| بدھوار | ۲۱ | ۴ | ۲۸ | ۲۱ | ۶ | |
| ویروار | ۲۲ | ۵ | ۲۹ | ۲۲ | ۷ | [illegible] |
| شکروار | ۲۳ | ۶ | ۳۰ | ۲۳ | ۸ | [illegible] |
| سنیچروار | ۲۴ | ۷ | [illegible] | ۲۴ | ۹ | [illegible] ۲۸-۳۰ پر آیا |
| اتوار | ۲۵ | ۸ | ۲ | ۲۵ | ۱۰ | [illegible] شروع ۱-۹ [illegible] دسہرہ |
| سوموار | ۲۶ | ۹ | ۳ | ۲۶ | ۱۱ | [illegible] |
| منگلوار | ۲۷ | ۱۰ | ۴ | ۲۷ | ۱۲ | |
| بدھوار | ۲۸ | ۱۱ | ۵ | ۲۸ | ۱۳ | [illegible] ۲۸-۵ پر آیا |
| ویروار | ۲۹ | ۱۲ | ۶ | ۲۹ | ۱۴ | پنچک [illegible] ۱۷-۳۴ [illegible] |
| شکروار | ۳۰ | ۱۳ | ۷ | ۳۰ | ۱۵ | [illegible] پورنماشی اکاش دیا |
| [illegible] | ۳۱ | ۱۴ | ۸ | [illegible] | ۱۶ | شب برات [illegible] شروع |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر یکم اکتوبر کو بادل رہے۔ تو بارش جلد آنے والی جاننا۔ اگر ۸ اکتوبر کو بارش ہو گئی۔ تو غلہ ارزاں۔ اور بادل رہے۔ تو بارش جلد آنے کی علامت ہے۔ اگر ۱۰ اکتوبر کو آسمان ابر محیط رہا۔ تو بارش خوب ہونے کی علامت ہے۔ اگر ۱۵ اکتوبر کو صبح کے وقت بادل ہو۔ تو بارش جلد آوے۔ اگر ۲۳ اکتوبر کو بارش ہوئی۔ تو ارزانی غلہ کی دلیل ہے۔ اگر ۲۷ اکتوبر کو بادل کی گرج ہوئی۔ تو غلہ گراں ہو جاوے گا۔ اگر ۳۰ اکتوبر کو مطلع صاف رہا۔ تو [illegible] غلہ ارزاں ہو جاوے گا۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت [illegible]

پنچک کال [illegible] لگے روز صبح سے دو پہر تک

## پیشینگوئی بابت ماہ کاتک

ابتدائے ۱۶ اکتوبر لغایت ۱۴ نومبر

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت [illegible] شکر وار [illegible] نکشتر میں پردیش کریگی جو کہ ۱۵ مہورتی ہے۔ اس سے غلہ گندم و نخود کا بھاؤ تیزی پر رہے گا۔ اناج خورد مکی۔ موٹھ۔ مونگ۔ ماش۔ جوار۔ باجرہ وغیرہ کا نرخ کچھ ارزاں ہوگا۔ دودھ۔ دہی کا نرخ مندہ۔ گڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ لاکھ۔ کتھہ۔ چندن۔ وغیرہ کا نرخ گراں رہیگا۔ گھی کا بھاؤ تیز تل تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارامیرا۔ ناریل کا نرخ ارزانی پر رہے۔ سب طرح کی دھاتیں گراں۔ چاندی۔ تانبا۔ کانسی۔ چاول۔ کھانڈ۔ نمک کا نرخ ارزاں رہیگا۔ سواری کے جانور گھوڑے اونٹ۔ ہاتھی وغیرہ ارزاں بکیں گے۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت۔ سوتی کپڑا کا بھاؤ ارزاں۔ اونی۔ ریشمی کپڑا کا بھاؤ گراں پر چلا جاویگا۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ چارہ۔ بھوسہ۔ تمباکو کا نرخ گراں اور پنساری کا سودا کا بھاؤ مدہم رہیگا۔

موسم۔ خسرہ۔ چیچک۔ موسمی بخار اور نزلہ و زکام سے بہت لوگ بیمار رہینگے۔ چھوٹے بچوں میں اموات زیادہ ہونگی۔ بوڑھے لوگ بھی تکلیف پاوینگے۔ لوگوں کی طبیعتیں منتشر رہینگی۔ *

### کرۂ فلک

ہوا اس ماہ میں بھی زیادہ چلیگی۔ آسمانی ستارے زیادہ ٹوٹیں گے۔ دھوپ کی [illegible] ۱۶-۱۹ اکتوبر کو آسمان [illegible] ہوا تیز ۲۲-۲۳-۲۵-۲۸ اکتوبر کو بادل [illegible] یکم و ۲ نومبر کو بادل ہوا سرد ۳-۴ و ۵ نومبر کو [illegible] بارش اور ژالہ باری ۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ نومبر کو بادل ہوا تیز چلیگی۔ *

## وقت تحویل سیارگان

۱۹۳۶ء

| تاریخ | |
|---|---|
| ۱ | منگل [illegible] کے (۴) ۵۵-۳۴ |
| ۲ | |
| ۳ | سورج [illegible] کے (۳) [illegible] شکر<br>[illegible] کے (۳) [illegible] |
| ۴ | |
| ۵ | |
| ۶ | شکر سواتی کے (۳) ۶-۳۰ |
| ۷ | سورج [illegible] کے (۴) [illegible]-۳۸ |
| ۸ | منگل اوترا پھالگنی کے (۱) ۱۱-۳ شکر<br>[illegible] کے (۱) [illegible] |
| ۹ | |
| ۱۰ | سورج چترا کے (۱) [illegible]<br>شکر [illegible] کے (۲) [illegible] |
| ۱۱ | |
| ۱۲ | بدھ [illegible] کے (۱) [illegible]<br>کے (۳) [illegible] |
| ۱۳ | سورج چترا کے (۲) [illegible]<br>منگل [illegible] |
| ۱۴ | |
| ۱۵ | |
| ۱۶ | سورج چترا کے (۳) [illegible] |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | منگل [illegible] کے (۳) [illegible]-۱۲ |
| ۱۹ | بدھ [illegible] کے (۳) ۱۵-۳۸ |
| ۲۰ | سورج چترا کے (۴) ۱۱-۲۷ شکر<br>[illegible] |
| ۲۱ | |
| ۲۲ | بدھ [illegible] کے (۴) ۲۳-۱۳ |
| ۲۳ | سورج سواتی کے (۱) [illegible] شکر [illegible] |
| ۲۴ | منگل [illegible] کے (۴) [illegible]<br>[illegible] |
| ۲۵ | شکر [illegible] کے (۳) [illegible]-۱۰ |
| ۲۶ | سورج سواتی کے (۲) [illegible] بدھ<br>چترا کے (۲) ۹-۱۰ |
| ۲۷ | شکر [illegible] کے (۴) [illegible] |
| ۲۸ | بدھ چترا کے (۳) ۲۸-۵ |
| ۲۹ | منگل [illegible] کے (۱) [illegible] |
| ۳۰ | سورج سواتی کے (۳) ۱۱-۲۳ بدھ<br>چترا کے (۴) [illegible] |
| ۳۱ | |

تقویم سیارگان

| [illegible] | نومبر | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | گھڑی پل | گھڑی پل | گھڑی پل | [illegible] | طلوع آفتاب | غروب آفتاب | ملکی و مذہبی تیوہار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار | ۱ | ۱۵ | ۹ | ۲ | ۱۷ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۵ ۲۳ | [illegible] | ۲۳ ۲۵ | | | ۲۸ ۳۸ | ۵۵ ۵۸ | ۲۶ ۵۰ | ۶ ۳۸ | ۵ ۲۲ | |
| سوموار | ۲ | ۱۶ | ۱۰ | ۳ | ۱۸ | [illegible] | ۴۱ ۴۲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۶ ۱۳ | [illegible] | ۳۱ ۱۵ | | | ۲۶ ۴۵ | ۶ ۳۹ | ۵ ۲۱ | [illegible] |
| منگلوار | ۳ | ۱۷ | ۱۱ | ۴ | ۱۹ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۵۶ ۲۱ | [illegible] | [illegible] | | | | | ۲۶ ۴۰ | ۶ ۴۰ | ۵ ۲۰ | |
| بدھوار | ۴ | ۱۸ | ۱۲ | ۵ | ۲۰ | [illegible] | ۳۳ ۵۳ | [illegible] | ۵۵ ۳۱ | [illegible] | ۳۳ ۳۰ | کرک | ۳۰ ۲۷ | ۴۳ ۵۳ | | ۲۶ ۳۵ | ۶ ۴۱ | ۵ ۱۹ | |
| وریروار | ۵ | ۱۹ | ۱۳ | ۶ | ۲۱ | [illegible] | ۳۱ ۵۳ | [illegible] | ۴۴ ۵۹ | [illegible] | ۵۳ ۵۸ | | | | ۱۳ ۴۳ | ۲۶ ۳۰ | ۶ ۴۲ | ۵ ۱۸ | منگل کنیا میں ۱۲-۸-۳ پر آیا |
| شکروار | ۶ | ۲۰ | ۱۴ | ۷ | ۲۲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۵۵ ۵۱ | [illegible] | ۵۸ ۳۵ | سنگھ | ۵۸ ۵۱ | | | ۲۶ ۲۵ | ۶ ۴۳ | ۵ ۱۷ | آہوئی اشٹمی |
| سنیچروار | ۷ | ۲۱ | ۱۵ | ۸ | ۲۳ | [illegible] | ۴۱ ۳۳ | [illegible] | ۵۸ ۱۰ | [illegible] | ۴۸ ۱۰ | | | | | ۲۶ ۲۰ | ۶ ۴۳ | ۵ ۱۶ | |
| اتوار | ۸ | ۲۲ | ۱۶ | ۹ | ۲۴ | [illegible] | ۳۴ ۳۰ | [illegible] | ۲۰ ۰۰ | [illegible] | ۳۶ ۵۱ | | | ۱۳ ۴۳ | ۳۳ ۳۰ | ۲۶ ۱۸ | ۶ ۴۵ | ۵ ۱۵ | |
| سوموار | ۹ | ۲۳ | ۱۷ | ۱۰ | ۲۵ | [illegible] | ۳۴ ۳۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۷ ۱۹ | کنیا | ۱۸ ۱۷ | | | ۲۶ ۱۰ | ۶ ۴۶ | ۵ ۱۳ | رماں ایکادشی |
| منگلوار | ۱۰ | ۲۴ | ۱۸ | ۱۱ | ۲۶ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۲ | [illegible] | ۴۶ ۱ | | | | | ۲۶ ۵ | ۶ ۴۶ | ۵ ۱۳ | |
| بدھوار | ۱۱ | ۲۵ | ۱۹ | ۱۲ | ۲۷ | [illegible] | ۵۵ ۱۴ | [illegible] | ۱۲ ۵۸ | [illegible] | ۴۲ ۳۶ | [illegible] | ۳۵ ۳ | ۵۵ ۱۷ | | ۲۶ ۰ | ۶ ۴۸ | ۵ ۱۲ | شکر عقرب میں ۱۳-۴۰ پر آیا<br>دھن تیرس |
| وریروار | ۱۲ | ۲۶ | ۲۰ | ۱۳ | ۲۸ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۸ ۱۰ | [illegible] | ۳۸ ۵۳ | | | | ۲۸ ۶ | ۲۵ ۵۵ | ۶ ۴۹ | ۵ ۱۱ | نرک چودس |
| شکروار | ۱۳ | ۲۷ | ۲۱ | ۱۴ | ۲۹ | [illegible] | ۳۳ | [illegible] | ۲۷ ۳۳ | [illegible] | ۵۰ ۱۸ | | | | | ۲۵ ۵۰ | ۶ ۵۰ | ۵ ۱۰ | دیپ مالا |
| سنیچروار | ۱۴ | ۲۸ | ۲۲ | ۱۵ | ۳۰ | [illegible] | ۵ ۴۳ | [illegible] | ۳۱ ۵ | [illegible] | ۵۱ ۲۱ | برچھک | ۱۳ ۴۳ | | | ۲۵ ۴۵ | ۶ ۵۱ | ۵ ۹ | [illegible] ۳۳ |
| اتوار | ۱۵ | ۲۹ | ۲۳ | ۱۶ | [illegible] | [illegible] | ۱۰ ۳۸ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۵۴ ۵۹ | | | | | ۲۵ ۴۰ | ۶ ۵۲ | ۵ ۸ | [illegible] |
| سوموار | ۱۶ | رمضان | ۲۴ | ۱۷ | ۲ | [illegible] | ۱۳ ۵۳ | [illegible] | ۴۱ ۳۳ | [illegible] | ۵۱ ۵۲ | دھن | ۱۳ ۳۳ | | | ۲۵ ۳۶ | ۶ ۵۳ | ۵ ۷ | بھائی دوج [illegible] ۔ روزے شروع |
| منگلوار | ۱۷ | ۲ | ۲۵ | ۱۸ | ۳ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۸ ۴۷ | [illegible] | ۵۰ ۵۱ | | | ۲۸ ۵۰ | | ۲۵ ۳۲ | ۶ ۵۴ | ۵ ۶ | |
| بدھوار | ۱۸ | ۳ | ۲۶ | ۱۹ | ۴ | [illegible] | ۱۹ ۴۹ | [illegible] | ۳۸ ۵۳ | شول | ۳۸ ۵۱ | | | | ۱۹ ۲۹ | ۲۵ ۲۸ | ۶ ۵۴ | ۵ ۶ | |
| وریروار | ۱۹ | ۴ | ۲۷ | ۲۰ | ۵ | [illegible] | ۲۰ ۳۰ | [illegible] | ۳۹ ۴۹ | [illegible] | ۴۵ ۵۷ | مکر | ۲ ۴ | | | ۲۵ ۲۲ | ۶ ۵۵ | ۵ ۵ | سورج چھٹی |
| شکروار | ۲۰ | ۵ | ۲۸ | ۲۱ | ۶ | [illegible] | ۱۹ ۳۸ | [illegible] | ۳۹ ۵۹ | [illegible] | [illegible] | | | | | ۲۵ ۲۰ | ۶ ۵۶ | ۵ ۴ | [illegible] ۹-۳۳-۵۵ |
| سنیچروار | ۲۱ | ۶ | ۲۹ | ۲۲ | ۷ | [illegible] | ۱۴ ۲۳ | [illegible] | ۳۹ | [illegible] | ۳۹ ۵۸ | کنبھ | ۱۹ ۲۹ | ۱۴ ۲۳ | ۲۴ ۲ | ۲۵ ۱۷ | ۶ ۵۶ | ۵ ۴ | پنچک شروع ۱۵-۲۹ |
| اتوار | ۲۲ | ۷ | ۳۰ | ۲۳ | ۸ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۱ ۱۵ | | | | | ۲۵ ۱۳ | ۶ ۵۷ | ۵ ۳ | گوپال اشٹمی |
| سوموار | ۲۳ | ۸ | [illegible] | ۲۴ | ۹ | [illegible] | ۱۰ ۴۹ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۳ ۵۰ | مین | ۳۱ ۲۷ | | | ۲۵ ۱۲ | ۶ ۵۷ | ۵ ۳ | [illegible] نومی |
| منگلوار | ۲۴ | ۹ | ۲ | ۲۵ | ۱۰ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۰ ۴۵ | [illegible] | ۱۴ ۲۹ | | | ۳۰ ۲۳ | | ۲۵ ۱۰ | ۶ ۵۸ | ۵ ۲ | |
| بدھوار | ۲۵ | ۱۰ | ۳ | ۲۶ | ۱۱ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۴ ۱ | [illegible] | ۱۰ ۲۱ | میکھ | ۳۴ ۴ | | [illegible] ۲۳ | ۲۵ ۹ | ۶ ۵۸ | ۵ ۲ | پنچک ختم ۱-۲۷<br>[illegible] ایکادشی |
| وریروار | ۲۶ | ۱۱ | ۴ | ۲۷ | ۱۲ | [illegible] | ۵۹ ۲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | ۲۵ ۸ | ۶ ۵۸ | ۵ ۲ | |
| شکروار | ۲۷ | ۱۲ | ۵ | ۲۸ | ۱۳ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۶ ۲۴ | [illegible] | ۳۶ ۴۲ | برکھ | ۳۰ ۵۹ | ۲۳ ۴ | | ۲۵ ۷ | ۶ ۵۸ | ۵ ۲ | بیکنٹھ چتردشی |
| سنیچروار | ۲۸ | ۱۳ | ۶ | ۲۹ | ۱۴ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۳ ۲۳ | [illegible] | ۳۹ ۹ | | | | ۱۹ ۱۷ | ۲۵ ۶ | ۶ ۵۹ | ۵ ۱ | [illegible] |
| اتوار | ۲۹ | ۱۴ | ۷ | [illegible] | ۱۵ | [illegible] | ۳۲ ۲ | [illegible] | ۳۰ ۴۳ | [illegible] | ۳۱ ۳۳ | متھن | ۲۹ ۱۸ | | | ۲۵ ۵ | ۶ ۵۹ | ۵ ۱ | مرگہ [illegible] |
| سوموار | ۳۰ | ۱۵ | ۸ | ۲ | ۱۶ | [illegible] | ۲۷ ۲۲ | [illegible] | ۱۷ ۴۳ | [illegible] | ۲۲ ۲۹ | | | ۵۵ ۲۳ | | ۲۵ ۳ | ۶ ۵۹ | ۵ ۱ | |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۶ نومبر کو بارش ہوئی ۔ تو آئندہ بارش اچھی ہوگی ۔ اگر ۸ نومبر کو بارش ہوئی ۔ تو گھی کا نرخ گراں ہو گا ۔ اگر ۹ ۔ نومبر کو بارش ہو گئی ۔ تو آئندہ ماہ میں بارش خوب ہوگی ۔ اگر ۱۰ نومبر رات کو بادل کی گرج و بارش ہو گئی تو ماہ ساون میں لوگ بارش کو ترسیں گے ۔ اگر ۱۲ نومبر کو انکابات ہوا تو لوگوں کو سخت تکلیف کا سامنا ہو گا ۔ اگر ۱۵ نومبر کو سورج کے گرد ہالہ پڑا ۔ تو تل وغیرہ گراں ہونگے ۔ اگر ۱۷ نومبر کو بارش ہو گئی ۔ تو فصل کے لئے مفید ہوگی ۔ اگر ۱۸ نومبر کو بارش ہوئی ۔ تو آئندہ بارش اچھی ہوگی ۔ اگر ۲۰ نومبر کو مطلع صاف رہا ۔ تو فصل کے لئے ناقص علامت ہے ۔ اگر ۲۶ نومبر کو مطلع صاف رہا ۔ تو آئندہ بارش کی قلت ہو گی ۔ اگر ۲۹ ۔ نومبر کو گرج و چمک ہوئی ۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو گا ۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت برچھک ۱۵ بوقت ۳۳



پن کال۔ اگلے روز صبح سے دوپہر تک

# پیشینگوئی بابت ماہ مگھر

ابتدائے ۱۵ نومبر لغایت ۱۴ دسمبر

## کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار جیشٹھا نچھتر میں پرویش کرے گی۔ چونکہ ۱۵ اتوار کی ہے۔ آ ادش اور شدی تھی دونوں سنیچروار کو ہیں۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ بدستور گراں پڑی رہیگا۔ انلج خورد کا بھاؤ گاہے ارزاں اور گاہے گراں ہوتا رہے گا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت کا نرخ کچھ گراں۔ سوتی کپڑا ارزاں۔ گرم کپڑا گراں ہوگا۔ چاول۔ نمک۔ کافور۔ دودھ۔ دہی۔ گھی کا نرخ تیزی پہ چلا جاوے گا۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارا میرا کا نرخ کم و بیش ہوتا رہے گا۔ گڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ لال کپڑا۔ لاکھ۔ مجیٹھ۔ چندن۔ سونا اور سرخ رنگ کے چوپائے گراں ہیں گے۔ مکینوں اور بیوپاریوں کا کام خوب چلیگا۔ ہر قسم کی دھاتیں مدھم بھاؤ رہینگی۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ چارہ۔ بھوسہ گراں رہیگا۔ موسم شکر پسند رہا ہوگا۔ اتنی بھوک ہے چونکہ لوگوں کی صحت پر بُرا اثر ڈالیں گے۔ مغربی علاقہ میں کچھ بے چینی پھیلیگی۔ لوگوں میں باہمی تنازعات ترقی کریں گے۔

## کرۂ فلک

حشرات الارض کی پیداوار زیادہ رہے گی فصل کو نقصان پہنچیگا۔ بارش کم ہوگی۔ ۱۵ و ۱۶ نومبر کو ہوا سرد بادل۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱ نومبر کو گرج چمک بارش وژالہ باری ہو۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰ نومبر کو بادل ہوا سرد اور خفیف بارش۔ یکم۔ ۳۔ ۵۔ ۶ دسمبر کو ہوا سرد خفیف بارش۔ ۹ و ۱۰ دسمبر کو آسمان ابر محیط۔ ۱۳ و ۱۴ دسمبر کو بادل و بارش ہوگی۔

دخل سیارگان در برج

| | |
|---|---|
| ۱ | بدھ سواتی کے (۱) ۳۶-۵۰ |
| ۲ | سورج سواتی کے (۳) ۳۴-۵۱<br>شکر جیشٹھا کے (۲) ۲-۳۵ |
| ۳ | بدھ سواتی کے (۳) ۲۱-۱۳ |
| ۴ | |
| ۵ | سورج وشاکھا کے (۱) [illegible] منگل [illegible] |
| ۶ | [illegible] |
| ۷ | بدھ سواتی کے (۴) ۵۳-۱۱ |
| ۸ | شکر جیشٹھا کے (۳) ۳۰-۱۹ |
| ۹ | سورج وشاکھا کے (۲) ۴-۵۰ |
| ۱۰ | [illegible] |
| ۱۱ | بدھ وشاکھا کے [illegible] |
| ۱۲ | سورج وشاکھا کے (۳) ۲۴-۵۵ |
| ۱۳ | بدھ وشاکھا کے (۳) ۲۸-۴۹ شکر مول کے (۱) ۲۵-۳۸ |
| ۱۴ | |
| ۱۵ | سورج وشاکھا کے (۴) [illegible] |
| ۱۶ | [illegible] (۲) ۳۰-۱۳ |
| ۱۷ | بدھ انورادھا کے (۱) ۱۲-۱۵ |
| ۱۸ | شکر مول کے (۲) ۲۹-۳۱ |
| ۱۹ | سورج انورادھا کے (۱) ۵۷<br>بدھ انورادھا کے (۲) [illegible] |
| ۲۰ | منگل ہست کے (۱) ۳۷-۴۹ |
| ۲۱ | بدھ انورادھا کے (۳) ۷-۳۲ شکر پورا کھاڑا کے (۱) ۱۲-۱۳ |
| ۲۲ | سورج انورادھا کے (۲) ۱۹-۳۸<br>[illegible] |
| ۲۳ | |
| ۲۴ | بدھ جیشٹھا کے (۱) ۵۲-۷ شکر<br>پورا کھاڑا کے (۲) ۳۶-۲۴ |
| ۲۵ | سورج انورادھا کے (۳) ۳۳-۵۹<br>[illegible] |
| ۲۶ | [illegible] |
| ۲۷ | |
| ۲۸ | سورج انورادھا کے (۴) ۵۰-۳۳<br>بدھ جیشٹھا کے (۲) ۱۹-۱۰ |
| ۲۹ | شکر پورا کھاڑا کے (۴) ۲۷-۰ |
| ۳۰ | بدھ جیشٹھا کے (۴) ۴۸-۲۹ |



تقویم سیارگان

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]



| دسمبر | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | تتھی | گھڑی پل | نکشتر | گھڑی پل | یوگ | گھڑی پل | چندرما راس | گھڑی پل | [illegible] | [illegible] | گھڑی پل | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منگلوار | ۱ | ۱۷ | ۹ | ۳ | ۱۴ | تیج | ۳۲<br>۴۲ | آردرا | ۱۳<br>۱۹ | شبھ | ۱۴<br>۳۶ | کرک | ۵۸<br>۳۳ | | ۲۳<br>۲۲ | ۲۵<br>۳ | ۶<br>۵۹ | ۵<br>۱ | گنیش چوتھ |
| بدھوار | ۲ | ۱۶ | ۱۰ | ۴ | ۱۸ | چوتھ | ۳۰<br>۴۷ | پنربس | ۱۳<br>۵۱ | شکل | ۱۳<br>۵ | | | | | ۲۵<br>۲ | ۶<br>۵۹ | ۵<br>۱ | |
| ویروار | ۳ | ۱۸ | ۱۱ | ۵ | ۱۹ | پنچمی | ۱۸<br>۳۳ | پکھ | ۱۳<br>۳۲ | برہم | ۸<br>۳۳ | | | | | ۲۵<br>۱ | ۶<br>۰۰ | ۵<br>۰۰ | بدھ دھن میں ۶-۹-۳۵ |
| شکروار | ۴ | ۱۹ | ۱۲ | ۶ | ۲۰ | چھٹ | ۱۶<br>۵۴ | اشلیکھا | ۱۳<br>۳۲ | اندر | ۳<br>۳۸ | سنگھ | ۱۳<br>۳۲ | ۱۴<br>۵۲ | ۳۸<br>۱۵ | ۲۵<br>۰۰ | ۷<br>۰۰ | ۵<br>۰۰ | |
| سنیچروار | ۵ | ۲۰ | ۱۳ | ۷ | ۲۱ | ستمی | ۱۸<br>۳۵ | مگھا | ۱۶<br>۵ | بیدھرتی | ۱<br>۵۹ | | | | | ۲۴<br>۵۸ | ۷<br>۰۰ | ۵<br>۰۰ | شکر کرمیں ۱۳-۱۷ پر آیا |
| اتوار | ۶ | ۲۱ | ۱۴ | ۸ | ۲۲ | اشٹمی | ۳۰<br>۳۷ | پوروا پھاگنی | ۳۱<br>۲۲ | وشکنبھ | ۱۲- | کنیا | ۳۶<br>۱۳ | | | ۲۴<br>۵۷ | ۷<br>۰۰ | ۵<br>۰۰ | بھیرو اشٹمی |
| سوموار | ۷ | ۲۲ | ۱۵ | ۹ | ۲۳ | نومی | ۲۳<br>۲۹ | اترا پھاگنی | ۲۳<br>۴۵ | پریتی | ۵۹<br>۲۵ | | | ۵۸<br>۵۲ | | ۲۴<br>۵۶ | ۷<br>۱ | ۴<br>۵۹ | |
| منگلوار | ۸ | ۲۳ | ۱۶ | ۱۰ | ۲۴ | دسمی | ۲۷<br>۵۵ | ہست | ۲۹<br>۱۰ | آیوشمان | ۲۰<br>۰۰ | | | | ۲۷<br>۵۵ | ۲۴<br>۵۵ | ۷<br>۱ | ۴<br>۵۹ | |
| بدھوار | ۹ | ۲۴ | ۱۷ | ۱۱ | ۲۵ | ایکادشی | ۳۳<br>۲ | چترا | ۳۰<br>۱۳ | سوبھاگ | ۱۰<br>۹ | تلا | ۳<br>۱۲ | | | ۲۴<br>۵۴ | ۷<br>۱ | ۴<br>۵۹ | اتپنا ایکادشی |
| ویروار | ۱۰ | ۲۵ | ۱۸ | ۱۲ | ۲۶ | دوادشی | ۳۸<br>۱۸ | سواتی | ۳۱<br>۳۲ | شوبھن | ۱<br>۱۸ | | | | | ۲۴<br>۵۳ | ۷<br>۱ | ۴<br>۵۹ | بدھ مغرب میں طلوع ۳۹- شب قدر |
| شکروار | ۱۱ | ۲۶ | ۱۹ | ۱۳ | ۲۷ | ترودشی | ۳۳<br>۳۳ | وشاکھا | ۲۸<br>۹ | اتی گنڈ | ۲<br>۴۰ | برچھک | ۳۱<br>۱۵ | ۴۳<br>۳۳ | | ۲۴<br>۵۲ | ۷<br>۱ | ۴<br>۵۸ | جمعۃ الوداع۔ قمر عقرب میں |
| سنیچروار | ۱۲ | ۲۷ | ۲۰ | ۱۴ | ۲۸ | چتردشی | ۳۸<br>۳۳ | انورادھا | ۵۳<br>۷ | سکرما | ۳<br>۵۲ | | | | ۱۵<br>۴۹ | ۲۴<br>۵۱ | ۷<br>۱ | ۴<br>۵۹ | |
| اتوار | ۱۳ | ۲۸ | ۲۱ | ۱۵ | ۲۹ | اماوس | ۵۲<br>۳۹ | جیشٹھا | ۹<br>۳۱ | دھرتی | ۲۸<br>۳۲ | دھن | ۹<br>۵۹ | | | ۲۴<br>۵۰ | ۷<br>۲ | ۴<br>۵۸ | برہسپت مغرب میں غروب ۳۹-۴ |
| سوموار | ۱۴ | ۲۹ | ۲۲ | ۱۶ | ۳۰ | پروا | ۵۵<br>۳۶ | مول | ۶۰<br>۰۰ | شول | ۳<br>۲۹ | | | | | ۲۴<br>۴۹ | ۷<br>۲ | ۴<br>۵۸ | |
| منگلوار | ۱۵ | ۳۰ | ۲۳ | ۱۷ | [illegible] | دوج | ۵۳<br>۳۳ | مول | ۳<br>۸ | گنڈ | ۳<br>۵۳ | | | | | ۲۴<br>۴۸ | ۷<br>۲ | ۴<br>۵۸ | سورج دھن میں ۱۲-۱۰ چاند نظر نہ آئے گا |
| بدھوار | ۱۶ | [illegible] | ۲۴ | ۱۸ | ۲ | تیج | ۵۸<br>۹ | پورکھاڑ | ۳<br>۳۲ | وردھی | ۱۱-۳<br>۲-۵۹ | مکر | ۳۱<br>۵۸ | | | ۲۴<br>۴۷ | ۷<br>۲ | ۵<br>۱ | عید الفطر |
| ویروار | ۱۷ | ۲ | ۲۵ | ۱۹ | ۳ | چوتھ | ۵۶<br>۲۸ | اترکھاڑ | ۸<br>۱۳ | بیاگھات | ۵۵<br>۱ | | | ۲۸<br>۳۴ | ۵۸<br>۲۵ | ۲۴<br>۴۶ | ۷<br>۲ | ۴<br>۵۸ | |
| شکروار | ۱۸ | ۳ | ۲۶ | ۲۰ | ۴ | پنچمی | ۵۵<br>۳۵ | شرون | ۸<br>۳۶ | ہرکھن | ۵۱<br>۱۹ | کنبھ | ۳۸<br>۲۵ | | | ۲۴<br>۴۵ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۷ | پنچک شروع ۳۸-۲۵ |
| سنیچروار | ۱۹ | ۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۵ | چھٹ | ۵۳<br>۲۵ | دھنشٹھا | ۸<br>۸ | بجر | ۴۵<br>۳۹ | | | | | ۲۴<br>۴۴ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۷ | |
| اتوار | ۲۰ | ۵ | ۲۸ | ۲۲ | ۶ | ستمی | ۴۸<br>۳۳ | شت بھکھا | ۹<br>۲۳ | سدھ | ۳۹<br>۴۸ | مین | ۴۹<br>۲۸ | ۳۸<br>۴۳ | | ۲۴<br>۴۳ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۶ | |
| سوموار | ۲۱ | ۶ | ۲۹ | ۲۳ | ۷ | اشٹمی | ۴۳<br>۴۳ | پوربھادوں | ۳<br>۵۰ | ویتی پات | ۳۲<br>۲۸ | | | | ۱۲<br>۱۳ | ۲۴<br>۴۲ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۶ | |
| منگلوار | ۲۲ | ۷ | [illegible] | ۲۴ | ۸ | نومی | ۳۶<br>۱۷ | اترا بھادوں | ۳۴-<br>۵۱- | بریان | ۲۵<br>۲۳ | میکھ | ۵۶<br>۵۰ | | | ۲۳<br>۴۹ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۴ | پنچک ختم ۵۶-۰۰ |
| بدھوار | ۲۳ | ۸ | ۲ | ۲۵ | ۹ | دسمی | ۳۳<br>۴۱ | ریوتی | ۵۳<br>۲۵ | پرگھ | ۱۷<br>۲۷ | | | ۵۹<br>۴۱ | | ۲۳<br>۴۰ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۹ | |
| ویروار | ۲۴ | ۹ | ۳ | ۲۶ | ۱۰ | ایکادشی | ۲۲<br>۳۴ | بھرنی | ۳۸<br>۳۳ | شیو | ۹<br>۵۶ | | | | ۳۴<br>۳۰ | ۲۴<br>۳۱ | ۷<br>۴ | ۴<br>۵۴ | موکشدا ایکادشی |
| شکروار | ۲۵ | ۱۰ | ۴ | ۲۷ | ۱۱ | دوادشی | ۳۰<br>۵۴ | کرتکا | ۴۲<br>۲۶ | سدھ | ۱-۹۹<br>۱-۵۸ | برکھ | ۵<br>۳ | | | ۲۴<br>۳۲ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۹ | منگل تلا میں ۲۶-۲۲ پر آیا |
| سنیچروار | ۲۶ | ۱۱ | ۵ | ۲۸ | ۱۲ | ترودشی | ۱۸<br>۹ | روہنی | ۳۰<br>۳۲ | سادھیہ | ۳۰<br>۴۲ | | | | | ۲۴<br>۳۳ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۴ | بدھ مکر میں ۳۰-۱ پر آیا |
| اتوار | ۲۷ | ۱۲ | ۶ | ۲۹ | ۱۳ | پورنماشی | ۱۰<br>۱ | مرگ سر | ۳۴<br>۳۸ | شبھ | ۳۹<br>۲۱ | متھن | ۹<br>۳ | ۱۰<br>۱ | ۳۶<br>۳۹ | ۲۴<br>۳۵ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۷ | پورنماشی برت |
| سوموار | ۲۸ | ۱۳ | ۷ | ۳۰ | ۱۴ | پروا | ۵<br>۱۴ | آردرا | ۳۲<br>۵۲ | برہم | ۳۳<br>۶ | | | | | ۲۴<br>۳۶ | ۷<br>۳ | ۴<br>۵۶ | |
| منگلوار | ۲۹ | ۱۴ | ۸ | [illegible] | ۱۵ | دوج | ۳۱<br>۵۱ | پنربس | ۳۲<br>۱۰ | اندر | ۲۴<br>۲۱ | کرک | ۱۲<br>۵۱ | | | ۲۴<br>۳۶ | ۷<br>۲ | ۴<br>۵۸ | |
| بدھوار | ۳۰ | ۱۵ | ۹ | ۲ | ۱۶ | تیج | ۵۴<br>۵۱ | پکھ | ۳۰<br>۲۸ | بیدھرتی | ۲۲<br>۲۱ | | | ۳۸<br>۹ | ۵۴<br>۵۱ | ۲۴<br>۵۱ | ۷<br>۲ | ۴<br>۵۸ | شکر کنبھ میں ۳۰-۲۵ پر آیا |
| ویروار | ۳۱ | ۱۶ | ۱۰ | ۳ | ۱۷ | چوتھ | ۵۶<br>۱۲ | اشلیکھا | ۳۰<br>۵۸ | وشکنبھ | ۱۸<br>۳۲ | سنگھ | ۳۲<br>۵۸ | | | ۲۴<br>۵۳ | ۷<br>۲ | ۴<br>۵۸ | گنیش چوتھ |

## آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۳ دسمبر کو بادل ہوئے۔ تو آئندہ بارش خوب ہوگی۔ اگر ۵ دسمبر کو آسمان ابر محیط رہے تو ماہ بیساکھ میں بارش کم غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے۔ اگر ۸ دسمبر کو رات کے وقت بادل گرجا تو ساون بھادوں بارش سے خالی جاویگے۔ اگر ۱۳ دسمبر کو بادل رہے۔ تو گھاس اور چارہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۲ دسمبر کو شمال کون میں بادل ہوئے۔ تو بارش کی قلت ہوگی۔ اگر ۲۳ دسمبر کو بارش ہوگئی۔ تو آئندہ نرخ غلہ اعتدال پر ہوگا۔ اگر ۲۸ دسمبر کو آسمان پر بادل ہوں۔ تو ماہ چیت میں غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۹ دسمبر کو بادل رہا۔ تو ماہ اساڑھ میں بارش اچھی ہوگی +



پن کال = ۱۲-۱۰ سے ۲۸-۱۰ تک

## پیشینگوئی بابت ماہ پوہ

ابتدائے ۱۵ دسمبر لغایت ۱۴ جنوری سنہ ۱۹۳۷ء

### کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز منگلوار پوربا کھاڑ نچھتر میں پرویش ہوتی ہے جو کہ ۳۰ مہورتی ہے۔ اور اس ماہ سورج و برہسپت کا اجتماع ہو گیا ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں ارزانی کی کمی [illegible] ہے۔ نرخ پہ متنزل گرانی ہوگا۔ غلہ خورد کا نرخ بھی تیزی ہوگا۔ شہد و دہی کی قلت بھی گراں ہوگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت [illegible] کا نرخ گراں تیل۔ تلسی۔ سرسوں۔ لونگ۔ بادام۔ ہیرا۔ [illegible] بھی تیزی پر ہوگا۔ گڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ مسور [illegible] چنے وغیرہ کے بھاؤ میں گرانی رہیگی۔ چاول نمک۔ چاندی۔ تانبہ۔ کانسی وغیرہ کا بھاؤ بھی تیز رہیگا۔ سیاہ رنگ کی چیزیں اور سیاہ کپڑا [illegible] اور سیاہ رنگ کے چوپائے [illegible] بادام۔ پستہ۔ [illegible] لونگ کا نرخ گراں ہوگا۔

موسم۔ سردی زیادہ پڑیگی۔ زہریلی بخار۔ خسرہ۔ چیچک وغیرہ کی امراض بہت ہونگی۔ چوپائے جانوروں کا ناش ہوگا۔

### کرۂ فلک

آسمان ابر آلود رہیگا۔ ہوا سرد زیادہ چلیگی۔ اور بعض بعض جگہ بارش بھی ہوگی۔ پہاڑی مقامات پر برف باری ہوگی۔ ۱۵ و ۱۶ دسمبر کو آسمان ابر آلود اور بارش۔ ۲۵ لغایت ۲۸ دسمبر کو بادل ہوا سرد اور بارش [illegible] ۳۰-۳۱ دسمبر کو بعض بعض جگہ بوندا باندی۔ یکم و ۲ جنوری ۱۹۳۷ء کو بادل ہوا سرد۔ ۵-۶-۷ جنوری کو بادل اور بوندا باندی اور ۱۱ و ۱۲ جنوری کو بادل ہوا سرد اور بارش ہوگی۔



تقویم سیارگان

| | |
|---|---|
| ۱ | منگل جیسٹ کے (۳) ۸-۵-۱۲ |
| ۲ | سورج چیتا کے (۱) [illegible] |
| ۳ | بدھ مولا کے (۱) ۲۶-۵۳ |
| ۴ | |
| ۵ | سورج چیتا کے [illegible] |
| ۶ | |
| ۷ | منگل جیسٹ کے (۴) ۴۹-۱۲ [illegible] |
| ۸ | سورج جیشٹا کے (۳) ۳۰-۵۶ |
| ۹ | جیسٹ مولا کے (۴) ۵۳-۲۹ |
| ۱۰ | [illegible] |
| ۱۱ | سورج جیشٹا کے (۴) ۵۳-۱۰ [illegible] |
| ۱۲ | |
| ۱۳ | منگل [illegible] |
| ۱۴ | |
| ۱۵ | سورج مولا کے (۱) ۱۲-۱۰ |
| ۱۶ | بدھ پوربا کھاڑ کے (۳) ۱۹-۴ [illegible] |
| ۱۷ | |
| ۱۸ | سورج مولا کے (۲) ۲۷-۳۴ |
| ۱۹ | بدھ پوربا کھاڑ کے [illegible] |
| ۲۰ | منگل [illegible] کے (۱) ۲۴-۴ |
| ۲۱ | سورج مولا کے (۳) ۴۲-۴۹ |
| ۲۲ | شکر شرون کے (۴) ۲۴-۲ |
| ۲۳ | بدھ اترا کھاڑ کے (۱) ۱۰-۵۵ |
| ۲۴ | سورج مولا کے (۴) [illegible] |
| ۲۵ | منگل [illegible] کے (۳) ۴۹-۲۲ [illegible] |
| ۲۶ | بدھ اترا کھاڑ کے (۲) ۳۰-۱ |
| ۲۷ | شکر دھنشٹا کے (۳) ۴۲-۱۸ |
| ۲۸ | سورج پوربا کھاڑ کے (۱) ۱۳-۱۵ |
| ۲۹ | |
| ۳۰ | شکر دھنشٹا کے (۴) ۳۰-۲۵ |
| ۳۱ | [illegible] کے (۲) ۳۹-۳۴ [illegible] ۱۵ |

# مہورت

شبھ کاموں کے ابتدا کرنے کے لئے نیک وقت یعنی مہورت ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ جو صاحب مندرجہ ذیل اصول سے جب کوئی شبھ کام شروع کرینگے وہ کام سرانجام ہوگا۔

| مہورت | تتھ | یوم | نچھتر شبھ | کیفیت |
|---|---|---|---|---|
| نئے مکان میں پرویش کرنا | چوتھ ۔ نومی ۔ چودش ۔ اماوش نہ ہو | اتوار منگلوار نہ ہو | مرگشر ۔ ریوتی ۔ چترا ۔ انورادھا ۔ اتراپھالگنی ۔ اتراکھاڑ ۔ اترابھادرپد ۔ روہنی ۔ | جیٹھ ۔ اگھن ۔ پھاگن ۔ بیساکھ کا مہینہ ہو سورج اتراشی ہو ۔ لگن مستقر ہو ۔ گرہ پرویش کے وقت سورج چکر سے ۵ خراب ۔ ۸ عمدہ ۔ ۸ خراب ۔ ۸ عمدہ ۔ ۸ خراب پھر ۲ عمدہ ہو سکتے ہیں ۔ |
| ملازمت کیلئے |  | جمعرات شکر بدھ | اشونی ۔ پکھ ۔ مرگشر ۔ ریوتی ۔ چترا ۔ انورادھا ۔ ابھجیت ۔ ہست | سنگھ یا منگل لگن دسویں یا گیارھویں ہونا چاہئے |
| گھر میں اناج لانا |  | منگل اتوار نہ ہو | اتراپھالگنی ۔ اتراکھاڑ ۔ اترابھادرپد ۔ پکھ ۔ چتھی ۔ سواتی ۔ شرون ۔ روہنی ۔ جیشٹا ۔ دھنشٹا ۔ ست بھکھا | کرک و سنگھ لگن نہ ہونا چاہئے ۔ |
| بیمار کو غسل کرنا | چوتھ ۔ نومی ۔ چودش نہ ہو | شکروار نہ ہونا چاہئے | مندرجہ ذیل نچھتروں کے علاوہ اور سب نیک ہیں ۔ ریوتی ۔ اتراپھالگنی ۔ اترابھادرپد ۔ پنربس ۔ اتراکھاڑ ۔ روہنی ۔ سواتی ۔ اشلیکھا ۔ | لگن چر نہ ہو ۔ |
| مکلاوہ لانے کیلئے |  | منگل شنیچر کے سوا سب دن نیک ہیں | ہست ۔ اشونی ۔ روہنی ۔ پکھ ۔ اتراپھالگنی ۔ سواتی ۔ پنربس ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ مول ۔ مرگشر ۔ ریوتی ۔ چترا ۔ انورادھا ۔ اتراکھاڑ ۔ اترابھادرپد | بیاہ کے برس سے طاق برس میں مکلاوہ ہو ۔ میکھ ۔ برکھ ۔ کنبھ کا سورج ہو ۔ |
| بچہ کا نام رکھنا | ۳ ۔ ۹ ۔ ۱۰ ۔ ۱۳ ہوں |  | مرگشر ۔ روہنی ۔ پکھ ۔ ریوتی ۔ ہست ۔ چترا ۔ سواتی ۔ انورادھا ۔ شرون ۔ اشونی ۔ ست بھکھا ۔ تینوں اترا | پرب نہ ہو ۔ جنم سے گیارھویں دن ہو |
| بیل یا درخت لگانا |  |  | بشاکھا ۔ مول ۔ مرگشر ۔ ریوتی ۔ چترا ۔ انورادھا ۔ ست بھکھا ۔ اشونی ۔ پکھ ۔ تینوں اترا اچھے ہیں |  |
| خرید مویشی | ۲ ۔ ۵ ۔ ۷ ۔ ۱۰ ۔ ۱۱ ۔ ۱۳ نیک | اتوار نہ ہو | اتراکھاڑ ۔ اترابھادرپد ۔ پورباکھاڑ ۔ بشاکھا ۔ روہنی ۔ پنربس ۔ پکھ ۔ اتراپھالگنی | لگن مستقر ہو ۔ |
| فروخت مویشی |  |  | پورباپھالگنی ۔ پورباپھادرپد ۔ پورباکھاڑ ۔ بشاکھا ۔ کرتکا ۔ اشلیکھا | لگن کنبھ ہو ۔ |
| دکان کھولنا | ۴ ۔ ۹ ۔ ۱۴<br>نہ ہو |  | ریوتی ۔ مرگشر ۔ انورادھا ۔ چترا ۔ روہنی ۔ ہست ۔ اشونی ۔ تینوں اترا ۔ | لگن سے دوسرے ۔ دسویں ۔ گیارھویں گھر میں چندرما شبھ گرہ ہوں ۔ لگن کنبھ ہو ۔ |
| زمین جوتنا | ۴ ۔ ۹ ۔ ۱۴ ۔ ۱۲<br>۸ ۔ اماوش نہ ہو |  | مول ۔ بشاکھا ۔ سواتی ۔ مگھا ۔ پنربس ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ ست بھکھا ۔ روہنی ۔ مرگشر ۔ چترا ۔ انورادھا ۔ ہست ۔ اشونی ۔ پکھ ۔ تینوں اترا | سورج چکر ۳ خراب ۸ عمدہ ۹ خراب ۸ عمدہ ۔ |
| بیج بونا | ۶ ۔ ۱۲<br>۴ ۔ ۱۴<br>نہ ہو | منگل شنیچر نہ ہو | مول ۔ مگھا ۔ سواتی ۔ دھنشٹا ۔ اتراپھالگنی ۔ اتراکھاڑ ۔ اترابھادرپد ۔ ریوتی ۔ مرگشر ۔ روہنی ۔ چترا ۔ انورادھا ۔ ہست ۔ اشونی ۔ | راہو چکر سے ۳ خراب ۵ عمدہ پھر ایک خراب ۳ عمدہ پھر ۳ خراب پھر ۳ عمدہ پھر ۳ نچھتر بیج بونے کے خراب ہیں ۔ |
| فصل کاٹنا | ۴ ۔ ۹<br>۱۴ نہ ہو |  | مول ۔ جیشٹا ۔ آردرا ۔ اشلیکھا ۔ کرتکا ۔ ہست ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ مرگشر ۔ سواتی ۔ چترا ۔ پکھ ۔ مگھا ۔ تینوں اترا ۔ پورباپھادرپد ۔ | برکھ ۔ سنگھ ۔ دھن ۔ برچھک لگن ہو ۔ |
| مونڈن کرنا | ۸ ۔ اماوش نہ ہو | منگل شنیچر اتوار نہ ہو | اشونی ۔ جیشٹا ۔ ریوتی ۔ پکھ ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ پنربس ۔ سواتی ۔ مرگشر ۔ چترا ۔ ہست ۔ ست بھکھا | جنم سے ۳ ۔ ۵ ۔ ۷ سال جائز ہیں ۔ |
| کان چھیدنا |  | منگل شنیچر اتوار نہ ہو | انورادھا ۔ پنربس ۔ پکھ ۔ دھنشٹا ۔ ریوتی ۔ ہست ۔ شرون ۔ اترابھادرپد ۔ اتراکھاڑ ۔ |  |
| زنانہ سیندھی | [illegible] | منگل شنیچر نہ ہو | چترا ۔ سواتی ۔ ریوتی ۔ پکھ ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ اشونی ۔ مرگشر ۔ ہست ۔ پورباکھاڑ ۔ پورباپھالگنی | سورج اترائن ہو لگن ۔ برکھ ۔ کنبھ [illegible] |
| بچہ کو مکتب بٹھانا | ۲ ۔ ۳ ۔ ۵ ۔ ۱۲ [illegible] | منگل شنیچر نہ ہو | ریوتی ۔ اشونی ۔ مرگشر ۔ آردرا ۔ پنربس ۔ پکھ ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ چترا ۔ سواتی ۔ مول ۔ اشلیکھا | جنم سے پانچویں برس شبھ ہے ۔ |
| کنواں یا تالاب بنانا | ۲ ۔ ۵ ۔ ۱۲<br>اماوش نہ ہو | اتوار منگل نہ ہو | پورباکھاڑ ۔ پنربس ۔ پکھ ۔ روہنی ۔ مرگشر ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ ست بھکھا ۔ اتراپھالگنی ۔ ہست ۔ چترا ۔ مول ۔ سواتی ۔ ریوتی ۔ انورادھا ۔ اشونی | راہو چکر سے ۵ ۔ ۵ ۔ ۹ ۔ ۷ ۔ ۶ [illegible] نچھتروں میں [illegible] |
| علاج بیمار | ۸ ۔ ۹<br>اماوش نہ ہو | اتوار منگل شنیچر نہ ہو | ریوتی ۔ ہست ۔ چترا ۔ اشونی ۔ پنربس ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ ست بھکھا ۔ اتراپھالگنی ۔ ہست ۔ چترا ۔ مول ۔ سواتی ۔ ریوتی ۔ انورادھا ۔ اشونی | چندرما پانچ راشی کا نہ ہو ۔ |
| سواری کا مہورت | ۵ سے ۱۲<br>شبھ ہیں | سوموار و بدھ<br>بدھ وار ہو | شرون ۔ انورادھا ۔ تینوں اترا ۔ روہنی ۔ مرگشر ۔ پنربس ۔ پکھ ۔ ہست ۔ چترا ۔ سواتی ۔ اشونی ۔ |  |
| زیور بنانے کا مہورت | ۲ ۔ ۳ ۔ ۵ ۔ ۱۰ ۔ ۱۲<br>شبھ ہیں | اتوار بدھ وار شکروار<br>بیروار ہو | تینوں اترا ۔ ریوتی ۔ اشونی ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ ست بھکھا ۔ مرگشر ۔ پکھ ۔ ہست ۔ چترا ۔ سواتی ۔ روہنی ۔ |  |
| [illegible] | ۱۰ ۔ ۱۲ ۔ ۱۳ ۔ ۱۴<br>شبھ ہیں | اتوار منگل بیروار<br>بدھ وار ہو | کرتکا ۔ روہنی ۔ مرگشر ۔ ہست ۔ چترا ۔ سواتی ۔ بشاکھا ۔ انورادھا ۔ ریوتی ۔ اشونی ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ ست بھکھا ۔ پنربس ۔ پکھ ۔ تینوں اترا ۔ |  |
| حاکم کی ملاقات کرنا | ۲ ۔ ۳ ۔ ۵ ۔ ۷<br>۱۳ شبھ ہیں | منگل شنیچر<br>نہ ہو | تینوں اترا ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ مرگشر ۔ پکھ ۔ انورادھا ۔ ریوتی ۔ اشونی ۔ چترا ۔ ہست ۔ |  |
| اناج بھرنا | ۲ ۔ ۳ ۔ ۵ ۔ ۱۳<br>شبھ ہیں | بدھوار اتوار<br>شکروار اچھے ہیں | پنربس ۔ مرگشر ۔ ریوتی ۔ انورادھا ۔ شرون ۔ دھنشٹا ۔ ست بھکھا ۔ چترا ۔ سواتی ۔ اشونی ۔ پکھ ۔ روہنی ۔ تینوں اترا ۔ |  |

# چند عجیب دوائیاں جن کی مثال کہیں دوسری جگہ نہ ملینگی!

## پاس رکھکر مشہوری حاصل کرو

## [illegible] لڑکا ہی پیدا ہوگا نہ ہو تو قیمت واپس

یہ ایک عجیب دوائی ہے حمل کے دو ماہ بعد تیسرے ماہ کے شروع میں ایک ماہ دودھ سے کھلائی جاتی ہے جس سے لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے [illegible] لڑکی پیدا ہو تو قیمت واپس [illegible] سکتے ہیں [illegible] نہایت خوشی سے عرض کرتا ہوں کہ [illegible] میرے گھر میں فرزند ارجمند تولد ہوا یہ آپکی دوائی کا کرشمہ ہے اس دوائی کی قیمت اگر دس ہزار روپیہ بھی ہو تو تھوڑی ہے [illegible] ۔۔۔۔ ایسی ہزاروں اسناد موجود ہیں

## عرق بخار

[illegible]

مکمل فہرست ادویات کا خط ڈالنے پر کارڈ لکھکر مفت منگوا سکتے ہیں۔

## پھولو پھلو

یہ سوکھیا مسان کی دوائی ہے۔ بچہ جب سوکھتا جاتا ہے۔ اس دوائی کو اسکی کمر پر ملا جاتا ہے۔ کمر سے ایک کیڑے نکلتے ہیں۔ بچہ تر و تازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قیمت [illegible] ایسی دوائی دیکھنے سننے میں نہیں آئی۔ اول روز ہی استعمال کرنے سے [illegible] کیڑے برآمد ہوئے۔

## درد شکن

اس دوائی کی [illegible] پانچ منٹ کے اندر [illegible]

مکمل فہرست ادویات کا خط ڈالنے پر کارڈ لکھکر مفت منگوا سکتے ہیں!

## گولی امرت

یہ گولیاں قبض۔ درد شکم۔ بدہضمی۔ دمہ۔ کھانسی۔ تپ۔ [illegible] سانپ بچھو کا ڈنک۔ گنٹھیا [illegible]

## ایلپی

[illegible]

امرت دھارا کے برابر دنیا میں کوئی عجیب دوائی نہیں ایک ہی دوائی تقریباً کل امراض کو اکسیر ہے [illegible] لاکھوں انسان استعمال کر کے فائدہ اٹھا چکے ہیں قیمت فی شیشی [illegible] نصف [illegible] نمونہ [illegible]

## ایک ضروری اطلاع

[illegible]

خط وکتابت یا تار کیواسطے پتہ:۔ امرت دھارا ۵۶ لاہور

# لانبے لانبے گھنگریاں تے وچ سونے دی تار

## امرت دھارا مرہم

[illegible] امرت دھارا [illegible] قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ

## امرت دھارا لوزنجز

بازاری مٹھائی بچوں کو نقصان دہ ہے۔ امرت دھارا کی میٹھی ٹکیوں کو بچے مٹھائی کی طرح کھاتے ہیں اور امرت دھارا کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔

[illegible] امرت دھارا کا فائدہ [illegible] کی امراض کو نافع۔ قیمت صرف ۳۲ ٹکی ڈبیہ [illegible]

## امرت دھارا صابن

بازار میں [illegible] کے صابن ملتے ہیں [illegible] امرت دھارا شامل ہے۔ قیمت [illegible]

## امرت دھارا

آزمائش کا زمانہ گذر چکا۔ کوئی گھر یا انسان اب ایسا نہیں جو یہ نہ مانتا ہو کہ امرت دھارا کا ہر وقت ہر گھر بلکہ ہر جیب میں رہنا ضروری ہے ایک شیشی بذات خود ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے تمام دردیں اندرونی و بیرونی تمام زہروں کے اثرات اور ہیضہ انفلوئنزا جیسی زہریلی امراض تقریباً تمام جسمانی امراض پر معجزہ نما اثر رکھتی ہے جس نے ایک بار آزمایا ہمیشہ کے واسطے یار بنایا اور بہت سے خرچ تکلیف و تشویش سے اپنے آپکو بچایا۔ باقی چھپیوں اکسیروں میں امرت دھارا شامل ہے۔ اور سب امرت دھارا لاہور سے مل سکتی ہیں!

قیمت فی شیشی دو روپے آٹھ آنہ [illegible]
نصف شیشی ایک روپیہ چار آنے [illegible]
نمونہ کی شیشی آٹھ آنہ (۸/)

## امرت دھارا بام

امرت دھارا ملنے سے تمام دردوں کو آرام پہنچاتی ہے۔ اس کو دوسرے دافع درد تیلوں میں شامل کر کے امرت دھارا بام بنا دیا ہے جس سے ملنے میں سہولت ہو گئی ہے اور آزادی سے استعمال ہو سکتی ہے۔

قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ (عہ)

## امرت دھارا پھلیل

جو بھی خوشبو انسانوں کے واسطے نہایت صحت بخش دافع [illegible] امرت دھارا کے ساتھ اور خوشبودار خاص تیل ملا کر ایک امرت دھارا پھلیل بنایا گیا ہے جس کے لگانے [illegible] تیل کو لگا کر سونے سے آپ تو خوشبو کا لطف لیں۔ مگر مچھر دور رہیں گے۔ ڈنگ نہ ماریں گے۔

قیمت فی شیشی آٹھ آنہ (۸/)

## امرت دھارا لوشن

لاکھوں روپیہ کے غرارے کرنے یا ناک میں چھڑکنے والے لوشن دوسرے ممالک سے ہندوستان میں آتے ہیں [illegible] کے دلدادہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے گھر میں ان سے بہتر ایک چیز موجود ہے۔ ناک حلق کی امراض کو دور کرنے۔ زکام نزلہ۔ [illegible] کے واسطے بہترین لوشن ہے۔ اعلےٰ لوشنوں کی طرح یہ سب کام بھی دے گا۔

قیمت فی شیشی ایک روپیہ

## کرن جوانی

اس کے کھانے سے ہی دل و دماغ۔ معدہ۔ جگر۔ گردہ۔ مثانہ۔ طحال۔ آنت اور باہ پر اچھا اثر ہونے لگتا ہے۔ جگر صاف ہو کر رنگ خوبصورت و سرخ ہونے لگتا ہے۔ زکام نزلہ۔ کھانسی دور ہوتی ہیں۔ بھوک بڑھتی ہے جریان احتلام۔ رقت وغیرہ دور ہو کر باہ بڑھنے لگتی ہے۔ پیشاب کے کل نقائص دور ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں جوانی کی امنگیں اٹھنے لگتی ہیں۔ جوانوں کو اصل جوانی حاصل ہوتی ہے۔ نئی جوانی حاصل کرنے یا جوانی کے قائم رکھنے کے لئے بے نظیر ثابت ہوئی ہے۔ جوانی میں بال سفید ہوں۔ تو سیاہ ہو جاتے ہیں۔ قیمت ۲۴ گولی ایک روپیہ (عہ)۔ ۱۰۰ گولی چار روپے [illegible] خوراک ۲ گولی صبح ۲ گولی شام ہے +

خط و کتابت و تار کے لئے پتہ:- امرت دھارا (۵۶) لاہور

المشتہر

مینیجر امرت دھارا اوشدھالیہ۔ امرت دھارا بھون۔ امرت دھارا روڈ۔ امرت دھارا پوسٹ آفس لاہور

خط و تار کے واسطے پتہ امرت دھارا (۵۶) لاہور

# پنڈت جی کی تیار کردہ بیخطا ادویات جن سے ہزاروں مرد عورت فائدہ اٹھا چکے ہیں

ہر ایک دوائی کا نمونہ بھی دیا جاتا ہے۔ جو چاہیں اوّل نمونہ منگوا کر یقین کر لیں!

**اکسیر نمبر ۳۴ الف** یہ دوائی جریان کے واسطے اکسیر ہے۔ خواہ کسی وجہ سے ہو نیز بدخوابی کو بھی نافع ہے۔ قیمت ۳۲ گولی دو روپے (عه) نمونہ ۸ر

**اکسیر نمبر ۴۰** یہ دوائی بدخوابی کے واسطے ہے۔ غیر شادی شدہ طالب علموں کی حفاظت کرتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ (عه) نمونہ چار آنے (۴ر)

**اکسیر نمبر ۲۴ جوب جوش کن** تعریف نام سے ہی ظاہر ہے۔ تیسرے پہر کر ایک گولی کھالیں سب کمیاں دور ہوں گی قیمت دو روپے۔ نمونہ ۸ر

**طلاء نمبر ۱** جس نے اپنے پاؤں آپ کلہاڑا مارا ہے۔ ان کے واسطے یہ عام طلاء ہے قیمت پانچ روپے (صہ) نمونہ ایک روپیہ چار آنے (لعہ)

**ابلارام (رجسٹرڈ)** کثرت حیض کی بیماری کسی قسم کی اور کسی قسم میں ہو اس سے آرام آتا ہے کوئی بے قاعدگی نہیں رہتی۔ قیمت دو روپے۔ نمونہ ۴ر

**سوہاوتی (رجسٹرڈ)** عورتوں کے سفید پانی جریان لیکوریا سیلان رطوبت کی اکسیر دوائی قیمت عه نمونہ ۱۲ر

**بال سکھ (رجسٹرڈ)** بچوں کی امراض ہرے پیلے دست۔ کھانسی۔ بخار وغیرہ کے واسطے بے نظیر دوائی ہے قیمت ایک روپیہ (عه) نمونہ ۴ر

**سارسا رشٹ مرکب** پرانا آتشک جب خون خراب کر دے۔ یہ دوائی خون صاف کر کے جسم کو کندن کرتی ہے قیمت دو روپے۔ نمونہ ۶ر

**سوزوشاف (رجسٹرڈ)** سوزاک کی بے نظیر دوائی جلن سوزش وغیرہ اول ہی دن موقوف چند دن میں بالکل آرام آتا ہے قیمت ایک روپیہ۔ نمونہ ۴ر

**دوائی بواسیر نمبر ۳** خونی و بادی ہر قسم کی بواسیر کے واسطے بے نظیر ہے سالوں کی بیماری دنوں میں دور۔ قیمت دو روپے۔ نمونہ ۴ر

**دوائی تلی نمبر ۲** تاپ تلی کے واسطے بے نظیر دوائی ہے۔ ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے قیمت فی شیشی دو روپے (عه) نمونہ چار آنے (۴ر)

**آرام جان (رجسٹرڈ)** جن کو ضیق ایسی رہتی ہے۔ وہ اس کو کھایا کریں۔ آہستہ آہستہ بیماری دور ہو جائے گی قیمت ۳۲ گولی ایک روپیہ۔ ۱۶ گولی ۸ر

**بلادور**۔ ان گولیوں سے افیون چھوٹ جاتی ہے سینکڑوں چھوڑ چکے ہیں قیمت فی شیشی ایک روپیہ آٹھ آنہ

**آنکھ روشن** آنکھوں کی عام امراض دھند۔ جالا۔ پانی۔ خارش۔ سرخی وغیرہ کے واسطے مفید ہے۔ قیمت ۱۲ر۔ نمونہ ۱ر

**کرن تیل** کان کی امراض۔ درد پیپ۔ زخم۔ شائیں شائیں کی سماعت کے واسطے بہت اعلیٰ تیل ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔ نمونہ ۴ر

**دنت سُو (رجسٹرڈ)** مسوڑے پھولنے سے یا چیپک آنے کے درد سوا کسی دانت درد کان درد نزلہ زکام وغیرہ دور ہوتے ہیں قیمت فی شیشی ایک روپیہ۔ نمونہ ۴ر

**کبیرس** نادر لاثانی دوائی۔ نزلہ جلن [illegible] چند دن میں بیماری دور۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عه) نمونہ چار آنے (۴ر)

**گولی کھانسی** منہ میں رکھ کر چوسنے سے کھانسی خشک ہو یا تر دور ہو جاتی ہے قیمت ۶۰ گولی صرف ایک روپیہ (عه) نمونہ ۴ر

**ملیریا ناش** یہ سستی دوائی اس واسطے تیار کی ہے کہ ملیریا کے دنوں میں غریب لوگ بھی فائدہ اٹھا دیں۔ اور کونین کی ضرورت نہ رہے امیر لوگ منگوا کر مفت بانٹیں قیمت ۲ تولہ ۸ر

**اُبٹن اچت موہنی (رجسٹرڈ)** چہرے کے بدنما داغ کیل چھائیاں وغیرہ دور ہو کر چہرہ صاف ہوتا ہے جھریاں نہیں پڑتیں قیمت صرف ایک روپیہ (عه) نمونہ صرف ۴ر

**دل سُندری (رجسٹرڈ) حسن افزاء** یہ تیل ہے چہرے کو چمکیلا بناتا ہے اور داغ کیل وغیرہ کو دور کرتا ہے قیمت فی شیشی ایک روپیہ۔ نمونہ ۴ر

**بال اڑانے کی بے نظیر دوائی** اس دوائی کو پانی میں گھول کر لگانے سے ایک ہی منٹ کے اندر بغیر تکلیف اور بغیر زخم جگہ کے بال صفائی کمال خوبی سے دور ہوتے ہیں قیمت فی ڈبیہ ۶ر۔ نمونہ ۱ر

**منجن نمبر ۱** دانتوں کی امراض مثلاً خون جانا۔ درد دنداں۔ دہن کی بدبو دور کرتا ہے۔ قیمت چار آنے ۴ر۔ نمونہ ۱ر

**منجن نمبر ۲** خاص کر دانتوں کی صفائی کے واسطے بنایا گیا ہے اس کے ملنے سے دانت موتیوں کی طرح ہو جاتے ہیں قیمت ۴ر نمونہ ۱ر

**باغ پھول تیل (رجسٹرڈ)** بالوں پر تمام تیلوں کا سرتاج ہے۔ بالوں کو نرم و ملائم کرتا ہے۔ بڑھاتا ہے۔ سر کو ٹھنڈا رکھتا ہے بینائی کو قائم رکھتا ہے۔ صرف خوشبو ہی نہیں مفید بھی ہے قیمت فی شیشی بارہ آنے ۱۲ر

**کوبلیری (رجسٹرڈ)** پاؤں کی بوائی پھٹی ہو یا ہاتھ پھٹتے ہوں اس کے استعمال سے بہت جلد آرام آتا ہے قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ (عه)

**پران سکھ (رجسٹرڈ)** چھاتیوں کو ڈھلکنے سے بچاتا ہے اور ڈھلکی ہوئی کو اصلی حالت پر لاتا ہے قیمت سالم چار روپیہ۔ نمونہ ایک روپیہ

خط و کتابت تار کے لئے پتہ :- امرت دھارا ۵۶ لاہور

المشتہر

مینیجر امرت دھارا اوشدھالیہ۔ امرت دھارا بھون۔ امرت دھارا روڈ۔ امرت دھارا پوسٹ آفس۔ لاہور

خط و کتابت کے واسطے پتہ :- امرت دھارا ۵۶ لاہور

# طبی کتب

[illegible]

## دیرج کے متعلق علمی و طبی تحقیقات

[illegible] قیمت [illegible]

## کیا ہم لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی پر پیدا کر سکتے ہیں؟

خواہش پیدا کرنے کے متعلق [illegible] ڈاکٹری تحقیقات کا مفصل بیان۔ قیمت اردو ۲ ہندی ۴ [illegible] تیسرا ایڈیشن

## رسالہ وضع حمل

یہ رسالہ ہر گھر میں [illegible] ۳۲ [illegible] تصاویر ہیں۔ قیمت فی جلد [illegible]

## علاج الاطفال

[illegible] ڈاکٹری یونانی ویدک کے علاج درج ہیں [illegible] قیمت [illegible]

## رسالہ قبض

قبض [illegible] قیمت فی جلد اردو ۱۰ ہندی ۱۲

## رسالہ بیری بیری

اس میں بیری بیری کا مکمل بیان درج ہے [illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی ۱

## رسالہ سرعت

[illegible] اس میں اس کی مکمل تشریح کی گئی ہے [illegible] قیمت فی جلد [illegible]

## رسالہ طبی نیند و فلسفہ خواب

[illegible] ہندوستان میں نہیں [illegible] قیمت فی جلد اردو ۱۲ ہندی ایک روپیہ چار آنہ

## رسالہ زہروں کا علاج نمبر اول

[illegible] سانپ وغیرہ [illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

## رسالہ زہروں کا علاج نمبر دوم

[illegible] قیمت فی جلد [illegible] ہندی ایک روپیہ چھ آنے

## رسالہ زہروں کا علاج نمبر سوم

[illegible] قیمت ایک روپیہ چار آنہ

## رسالہ دردِ سر

[illegible] کے مفصل حالات و علاج درج ہیں۔ قیمت فی جلد [illegible] ہندی ایک روپیہ چار آنہ

## رسالہ آتشک [illegible]

[illegible] قیمت فی جلد [illegible]

## رسالہ سوزاک

[illegible] قیمت فی جلد [illegible] ہندی ۱۲

## روشن کتاب علم الاخلاق

[illegible] قیمت فی جلد [illegible] دوسرا ایڈیشن ۱۲

## اصطلاحات یونانی

[illegible] قیمت فی جلد ۱۰

## اصطلاحات ویدک

[illegible] قیمت [illegible]

## شودھن ودھی

[illegible]

## علم و عمل کشتہ جات

[illegible] قیمت فی جلد [illegible]

## رسالہ چیچک

[illegible] قیمت [illegible]

## سشرت کا ترجمہ حصہ اول

[illegible]

## سشرت کا ترجمہ حصہ دوم

[illegible] قیمت فی جلد [illegible]

## فزیالوجی یا علم افعال الاعضاء

[illegible] قیمت فی جلد [illegible]

## شناخت نبض

[illegible] قیمت فی جلد [illegible]

## ویدک کے مشہور مرکبات حصہ اول

[illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

## گنج مجربات

[illegible] قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ

## علاج المفردات

[illegible] قیمت صرف [illegible]

## لغات [illegible] ویدک

[illegible] قیمت [illegible]

## گوشوارہ تشخیص الامراض

[illegible] قیمت فی جلد [illegible]

## ادویات باہ حصہ اول

[illegible] قیمت [illegible]

## ادویات باہ حصہ دوم

[illegible] قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنے

خط و کتابت و تار کے لئے پتہ :- "امرت دھارا" ۵۶ لاہور۔

**المشتہر، مینیجر امرت دھارا اوشدھالیہ۔ امرت دھارا بھون۔ امرت دھارا روڈ۔ امرت دھارا پوسٹ آفس۔ لاہور**

# راس اور نچھتر معلوم کرنے کا نقشہ

ناظرین! دنیا کی تمام موجودات کو جوتشیوں نے اس نقشہ پر تقسیم کر دیا ہے۔ پس اپنی راس معلوم کرنے والے کو چاہیئے۔ کہ اپنے نام کا اول حرف اس نقشہ میں دیکھے۔ پس اس حروف کے اوپر جو راس لکھی ہے۔ وہی اس شخص کی راس ہوگی۔ اور جو نچھتر اس کے جانب راست لکھا ہے۔ وہی اس کا نچھتر ہوگا۔ مثلاً نام رام چند ہے۔ حروف اول جو ر ہے تلا راس کے جانب راست نچھتر چترا کا ۳ چرن لکھا ہے۔ پس رام چند کی راس تلا اور نچھتر چترا ہے۔

| میکھ | | برکھ | | متھن | | کرک | | سنگھ | | کنیا | | تلا | | برچھک | | دھن | | مکر | | کنبھ | | مین | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف | [illegible] | حروف |
| اشونی ۱ | چو चू | کرتکا ۲ | ای ई | مرگشرا ۳ | کا का | پنربس ۴ | ہی ही | مگھا ۱ | ما मा | اترا پھالگنی ۲ | ٹو टो | چترا ۳ | را रा | بشاکھا ۴ | تو तो | مول ۱ | یے ये | اتراکھاڑا ۲ | بھو भो | دھنشٹھا ۳ | گو गू | پوروا بھادرپد ۴ | دی दी |
| ۲ | چے चे | ۳ | او उ | ۴ | کی की | پکھ ۱ | ہو हू | ۲ | می मी | ۳ | پا पा | ۴ | ری री | انورادھا ۱ | نا ना | ۲ | یو यो | ۳ | جا जा | ۴ | گے गे | اترا بھادرپد ۱ | دو दू |
| ۳ | چو चो | ۴ | اے ए | آردرا ۱ | کو कू | ۲ | ہے हे | ۳ | مو मू | ۴ | پی पी | سواتی ۱ | رو रू | ۲ | نی नी | ۳ | بھا भा | ۴<br>ابھجت ۱ | جی जी<br>جو जू | شتبھکھا ۱ | گو गो | ۲ | تھ थ |
| ۴ | لا ला | روہنی ۱ | او ओ | ۲ | گھ घ | ۳ | ہو हो | ۴ | مے मे | ہست ۱ | پو पू | ۲ | رے रे | ۳ | نو नू | ۴ | بھی भी | ۲<br>۳ | جے जे<br>جو जो | ۲ | سا सा | ۳ | جھ झ |
| بھرنی ۱ | لی ली | ۲ | وا वा | ۳ | ڈ ङ | ۴ | ڈا डा | پوروا پھالگنی ۱ | مو मो | ۲ | ش ष | ۳ | رو रो | ۴ | نے ने | پورواکھاڑا ۱ | بھو भू | ۴ | کھا खा | ۳ | سی सी | ۴ | [illegible] ञ |
| ۲ | لو लू | ۳ | وی वी | ۴ | چھ छ | اشلیکھا ۱ | ڈی डी | ۲ | ٹا टा | ۳ | ن ण | ۴ | تا ता | جیشٹھا ۱ | نو नो | ۲ | دھا धा | سرون ۱ | کھی | ۴ | سو सू | ریوتی ۱ | دے दे |
| ۳ | لے ले | ۴ | وو वू | پنربس ۱ | کے के | ۲ | ڈو डू | ۳ | ٹی टी | ۴ | ٹھ ठ | بشاکھا ۱ | تی ती | ۲ | یا या | ۳ | پھا फा | ۲ | کھو | پوروا بھادرپد ۱ | سے से | ۲ | دو दो |
| ۴ | لو लो | مرگشرا ۱ | وے वे | ۲ | کو को | ۳ | ڈے डे | ۴ | ٹو टू | چترا ۱ | پے पे | ۲ | تو तू | ۳ | یی यी | ۴ | ڈھا ढा | ۳ | کھے | ۲ | سو सो | ۳ | چا चा |
| کرتکا ۱ | آ अ | ۲ | وو वो | ۳ | ہا हा | ۴ | ڈو डो | اترا پھالگنی ۱ | ٹے टे | ۲ | پو पो | ۳ | تے ते | ۴ | یو यू | اتراکھاڑا ۱ | بھے भे | ۴<br>دھنشٹھا ۱<br>۲ | کھو<br>گا<br>گی | ۳ | دا दा | ۴ | چی ची |

## بارہ راشیوں کے ماہواری حالات

اکثر معتقدان علم جوتش اس علم کے جاننے والوں سے اپنے نیک و بد حالات دریافت کیا کرتے ہیں۔ اس لئے مشہور عالم جنتری میں ہر سال بلحاظ گردش کواکب بارہ راشیوں کے مختصر حالات بمعہ کنڈلی گرہ و راسہا نہایت آسان ترکیب سے درج کئے جاتے ہیں۔ جن کو دیکھ کر ہر ایک شخص اپنی راس کی گرہ چال اور اس کے نیک و بد پھل وغیرہ بغیر کسی جوتشی سے دریافت کئے معلوم کر سکتا ہے۔ اور ان نام نہاد جوتشیوں کے پھندوں سے بچ جاتا ہے۔ جو خواہ مخواہ اپنی مطلب براری کے لئے لوگوں کے سروں پر سنیچر و منگل کا بھوت سوار کر کے ان کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ مشہور عالم جنتری میں برابر پچیس سال سے جاری ہے۔ جس کو پبلک نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ کہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ جس کا کوئی نام نہ ہو۔ ماہران علم جوتش نے کرۂ فلک کے بارہ حصے کر کے ہر ایک حصہ کی ہر ایک راشی مقرر کر دی ہے۔ اور تمام مخلوقات عالم کو ان بارہ راشیوں پر تقسیم کر دیا ہے ہر ایک چیز کے نام کا پہلا حرف اُس کی راشی پر دلالت کرتا ہے۔ جو کہ نقشہ بالا سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ جو صاحب اپنے حالات دیکھنا چاہیں۔ ان کو چاہیئے۔ کہ نقشہ مندرجہ بالا میں سے اپنے نام کے پہلے حرف سے اپنی راشی معلوم کریں۔ پھر اگلے صفحوں میں وہ مہینہ نکال کر اپنی گرہ چال اور نیک و بد حالات دیکھ لیں۔ مگر واضح رہے۔ کہ یہ حالات شکلا تتی مہینہ کے حساب سے لکھے گئے ہیں۔ اور جس تاریخ میں درج ہیں۔ وہ بھی شکلا تتی مہینہ کی ہیں۔

## لابھ و خرچ ۱۹۳۶ء

یہ ایک مجمل طریقہ آمدن و خرچ دیکھنے کے لئے ہے۔ اس نقشہ سے سوائے اس کے کہ اس سال میں آمدن و خرچ کیسا رہیگا۔ اور کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ ناظرین کی دلچسپی کے لئے نقشہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے

## بارہ راشیوں کے مرد و عورت کا لابھ و خرچ کا نقشہ بابت سمت ۱۹۹۳ بکرم

| نام راس | میکھ | برکھ | متھن | کرک | سنگھ | کنیا | تلا | برچھک | دھن | مکر | کنبھ | مین | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لابھ | ۲ | ۱۱ | ۲ | ۱۱ | ۱۴ | ۲ | ۱۱ | ۲ | ۱۴ | ۸ | ۸ | ۱۴ | مردوں کیلئے |
| خرچ | ۱۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۱۴ | ۲ | ۵ | ۵ | ۲ | |
| لابھ | ۸ | ۲ | ۵ | ۱۴ | ۲ | ۵ | ۲ | ۸ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۱ | عورتوں کیلئے |
| خرچ | ۱۴ | ۸ | ۵ | ۲ | ۱۴ | ۵ | ۸ | ۱۴ | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۵ | |

**طریقہ۔** اپنی راس کے اعداد لابھ و خرچ کو جمع کر کے ایک کم کر دو۔ اور باقی کو ۶ پر تقسیم کر دو۔ اگر باقی ۱ یا ۲ یا ۴ رہیں۔ تو آمدنی زیادہ۔ اگر ۳ یا ۵ رہیں۔ تو خرچ زیادہ۔ اگر پوری تقسیم ہو۔ تو وہ سال آمدنی کے لئے نہایت منحوس خیال کرنا چاہیئے۔

## بارہ راشیوں میں سے بعض کیلئے سمت ۱۹۹۳ بکرم میں گرہوں کی ناقص تاثیر

سمت ۱۹۹۳ بکرم میں سنیچر کنبھ راشی میں ہی رہیگا۔ اس لئے مکر کنبھ و مین راشی والوں کو ناقص ہے۔ برہسپت خراب دھن کی راشی کو فکر و تشویش ہوگی۔ راہو دھن میں کیتو متھن راشی میں رہیگا۔ اس لئے راہو۔ مکر۔ برکھ۔ کنیا اور کیتو مین کرک برچھک راشی کو ناقص پھل کریگا۔ کاروبار میں نقصان خرچ زیادگی اور دل کو بے چینی رہیگی۔

## گرہوں کی نحوست

اکثر لوگ گرہوں کی نحوست کو پوجن وغیرہ سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ غلطی کرتے ہیں۔ کیونکہ گرہ اپنی مقررہ میعاد سے پیشتر اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ اور اپنا پھل ضرور کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دان سے کلیان ہوتی ہے۔ اس لئے ایسے وقت میں غریبوں اور محتاجوں کو دان دو۔ تاکہ ان کی دعا سے خیریت تمہاری مشکل آسان ہو۔

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ برائے بابت ماگھ سمت ۱۹۹۲ بکرم

### میکھ



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ عزت مرتبہ بلند۔ نقل وحرکت زیادہ کرنی پڑے۔ بھائیوں سے لابھ۔ صحت خراب اور بات بات میں دھن کا خرچ۔ دھرم کے کاموں میں ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۱۶-۱۸-۲۲-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار مدہم۔ آمدن کم خرچ زیادہ ہے۔ راج دربار میں ترقی مرتبہ۔ عورت سے محبت زیادہ اولاد سے سکھ ملے۔ کسی مایوس امید میں کامیابی۔ صحت عیاشی اچھی ہے۔ کوئی خوشی کی خبر ملے۔ اس ماہ کی ۲-۵-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں نقصان۔ دھن کی ہانی ہو۔ سفر میں جانے سے جھگڑا۔ اور صحت خراب ہو جائے۔ دشمنوں سے تکلیف پہنچے۔ عورت سے جھگڑا۔ کمر میں درد۔ دل کو فکر تشویش لگی رہے۔ رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۴-۱۳-۱۴ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ مگر خرچ بھی بہت ہو جاوے گا۔ سفر پیش آئے۔ عورت بیمار۔ اولاد کی طرف سے شکایت ملے۔ پیٹ میں تکلیف۔ دشمن مغلوب ہو۔ کسی جگہ سے ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۲۳ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ کوئی خوشی کی خبر ملے۔ عورت بیمار ہو اور اس سے جھگڑا ہو جانے سے بیماری میں دھن کا خرچ۔ اولاد کی طرف سے فکر۔ والدین کو کشٹ ہو۔ دل کو خوف لگا رہے۔ اس ماہ کی ۹-۱۱-۱۲-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں دھن کا لابھ۔ علم و عقل کی ترقی۔ بھائیوں سے محبت اور ان سے فائدہ پہنچے۔ دشمن ناش۔ سفر میں جانے سے رنج پہنچے۔ اولاد کو کشٹ۔ درد سر سے تکلیف۔ مایوس امید میں کامیابی۔ اس ماہ کی ۳-۱۲-۲۱-۲۲-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کی ہانی ہو۔ والدین سے رنجش۔ سفر میں جانے سے مایوسی۔ آنکھوں میں روگ۔ کوئی کام بگڑ جاوے۔ نقصان ہو۔ اولاد کو کشٹ۔ بھائیوں کی امداد ملے۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۳-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار میں ترقی۔ دھن لابھ۔ آمدن ذریعہ مال ہو۔ دشمن ناش۔ دلی امید میں کامیابی۔ راج دربار کے کاموں میں کامیابی۔ عورت سے محبت۔ صحت اچھی ہے۔ والدین کو کشٹ ہو۔ اس ماہ کی ۱۶-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ اچھا ہوگا۔ لیکن خرچ بھی بہت ہو جاوے گا۔ آنکھوں میں روگ۔ بھائیوں سے جھگڑا۔ عورت سے رنجش۔ دشمنوں سے نقصان پہنچے۔ دل کو خوف لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۵-۱۶-۱۸-۲۱ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ سفر میں جانے سے زیرباری ہو جائے۔ عورت کی صحت خراب رہے۔ راج دربار میں عزت بنا۔ مراد پوری ہو۔ دشمنوں کا فکر لگا رہے۔ درد سر سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۷-۲۰-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار مدہم۔ دھن لابھ تھوڑا ہوگا۔ کچھ زیرباری ہو جائے۔ اولاد کی طرف سے فکر۔ دشمنوں کا خوف لگا رہے۔ نزلہ و زکام سے سر میں درد ہو۔ اور بات میں دھن کا خرچ زیادہ رہے۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۱-۱۷ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ۔ خرید و فروخت کے کاموں میں فائدہ ہو۔ دشمن مغلوب۔ دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ لگا رہے۔ سفر میں جانے سے رنج زیرباری ہو جاوے۔ عورت سے سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۴-۲۰-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

**پیارے ناظرین!** مشہور عالم جنتری میں ہر سال علم راز کے نئے نئے مضامین کا اندراج ہوتا چلا آتا ہے۔ یہ فالنامہ جو کہ ان کالموں میں درج ہوتا چلا آتا ہے نہایت مفید اور عجیب تجربہ ہے۔ جس کے بدوں امداد دیگرے ہر ایک شخص خود بخود اپنے مطلب اور امورات خیر و شر کو دیکھ سکتا ہے۔ جس کا نتیجہ بالکل درست نکلتا ہے۔ اس لئے اس فالنامہ کا ہمیشہ کے لئے مشہور عالم جنتری میں درج ہونا ضروری ہے۔ یہ فالنامہ علماء و متقدمین علم [illegible] نے ایسے طریق پر استخراج کیا ہے۔ کہ جس سے ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور وہ تمام نہاد جوتشیوں کے ڈھکوسلوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لئے اس کا اندراج شائقین کی فرمائش سے ہر سال کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ بتلا دینا ضروری ہے۔ کہ ہم نے اس فالنامہ کو کتاب کی صورت میں علیحدہ بھی چھاپ دیا ہے۔ جو معاوضہ [illegible] ٹکٹ پیسہ پر کارخانہ سے درخواست کرنے پر مل سکتا ہے۔

## فالنامہ دیکھنے کا طریقہ

یہ قرعہ ہفت دھات کا شرف آفتاب یا زہرہ یا مشتری کی ساعت بروز جمعہ یعنی شکروار قمر تا ثریا النور میں اس طرح سے بنوا لیں۔ کہ اس کے تین جانب کے چاروں طرف حرف (ا ب ج د) کندہ کرا لیں اور پھر تینوں دانوں کو ایک آہنی تار میں اس طرح پرو دیں کہ وہ گردش میں رہیں جن کی صورت حسب ذیل ہے۔



پس جب کبھی امر نیک و بد کے نتیجہ کو دیکھنا ہو۔ تو بصدق دل بخلوص قلب سے اس کو ہاتھ میں لیکر اپنے مطلب کو مد نظر رکھ کر اس کو گردش دے کر کسی تختی یا ہموار جگہ پر ڈال دیں۔ اور دیکھیں کہ اس کے اوپر کون کونسا حرف آیا ہے۔ جو حروف آئے ہوں۔ انکو بالترتیب جنتری کے ان کالموں میں دیکھیں وہ ردیف کے مطابق ملینگے پس ان حرفوں کے زیر جو تشریح لکھا ہے اسکو دیکھ لیں۔

## رفع تکلیف

مشہور عالم جنتری کے ناظرین کو قرعہ تیار کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی ہے۔ پس جن احباب کو خود بخود بنوانا مشکل معلوم ہو۔ ان کی رفع تکلیف کیلئے یہ قرعہ تیار کرائے گئے ہیں جن کی قیمت ۸ روپے اور محصول ڈاک بذمہ خریدار ہے۔ پس درخواست بھیجکر پتہ ذیل سے منگا لیں۔

ملنے کا پتہ

**منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ اسپھاٹ بابت ماہ پھاگن سمت ۱۹۹۲ بکرم

### میکھ



منگل
۱۰
بدھ
۳ کیت
۵
۷
۶ چندرمان
۸ برہسپت
شکر
راہو

کاروبار میں دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار میں مان۔ مرتبہ بلند۔ بھائیوں سے فائدہ پہنچے۔ نقل و حرکت زیادہ کرنی پڑے۔ دشمن مغلوب۔ بلغمی امراض سے تکلیف پہنچے۔ دل رنجیدہ رہے۔ اس ماہ کی ۱۶-۱۷-۱۹-۲۵ تاریخ ہے۔

### برکھ



۳ کیت
۱
۱۲
۲
سورج منگل
۸
برہسپت
بدھ
۵
۷

کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ مگر خرچ بہ نسبت آمدنی کے بڑھ جائے۔ راج دربار سے مان اور لابھ سکھ ملے۔ عورت سے محبت بڑھے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی ہو۔ تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲۲-۲۷-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



۵
۴
۳ کیت
۲
۱
۱۲
چندرمان
۷
راہو
۸ برہسپت

کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ کم ہو۔ دشمنوں سے تکلیف پہنچے۔ سفر میں جانے سے جھگڑا۔ دھن کی ہانی اور صحت خراب۔ تکرار ہو۔ عورت سے کلیش۔ پیٹ میں روگ ہو۔ اس ماہ کی ۳-۱۱-۱۲-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کیت
چندرمان
۵
۲
۱
۱۰
بدھ
برہسپت
راہو

کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ اولاد کی طرف سے سکھ ملے۔ دشمنوں سے تکلیف۔ دل کو فکر لگا رہے۔ عورت سے سلوک۔ مگر کسی بڑی امید میں کامیابی ہونے سے دل کو خوشی ہو۔ اس ماہ کی ۵-۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



چندرمان
کیت
۷
۵
۸
۲
برہسپت
راہو
۱
۱۲
بدھ

کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ دشمنوں کی طرف سے دل کو خوف لگا رہے۔ عورت سخت بیمار رہے اور دوا بابت میں دھن کا خرچ۔ اولاد کا فکر۔ سفر پڑے۔ پیٹ میں روگ ہو۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۰-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



۷
۶
۵
۴
چندرمان
۳ کیت
راہو
۱۰
۱۲
۲
۱

کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں کامیابی۔ عورت کو سکھ ملے۔ اولاد کی طرف سے خوشی۔ البتہ سے رنجش۔ صحت اچھی ہے۔ سفر میں جانے سے رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۱۰-۲۰-۲۱-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



چندرمان
برہسپت
۷
۵
۴
بدھ
۱
۱۲
۲
کیت

کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ کم ہوگا۔ بدھی بے چین رہے۔ کوئی بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ عورت سے سکھ ملے۔ بھائیوں سے اور اولاد کو کشٹ اور فکر لگا رہے۔ آنکھوں میں درد کی شکایت۔ اس ماہ کی ۷-۸-۱۱-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



۹ راہو
برہسپت
۸
۶
۵
۳
۲
۱
کیت

کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ خرچ بہ نسبت آمدن کے بڑھا رہے۔ والدین سے رنجش۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ جھگڑے میں کامیابی۔ نزلہ و زکام سے کچھ تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۱۵-۱۷-۱۸-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



۱۰ بدھ
۸ برہسپت
۹
راہو
۱۲
چندرمان
۳
کیت
۱
۴
۲

کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ۔ [illegible] ملے۔ دشمن ناش۔ دل کو خوشی ہو بھائیوں سے کچھ جھگڑا اور رنج پہنچے۔ عورت سے تنازعہ۔ راج دربار میں مان بڑھے کسی دوست کا ملاپ ہو۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۵-۱۷-۱۸ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



۸
۹ راہو
۱۰
بدھ
برہسپت
۷
۴
چندرمان
۳ کیت
۵

کاروبار میں نقصان۔ دھن کی ہانی۔ آمدن کم۔ خرچ زیادہ رہے۔ کسی جگہ سے تہمت لگ کر بے عزتی ہو۔ آنکھوں میں روگ۔ دشمنوں کا خوف۔ دل کو رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۱۸-۲۵-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



۳
۱۱
۱ بدھ
۹ راہو
۱
برہسپت
۵
۴
چندرمان

کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کی ہانی۔ سفر میں جانے سے زیر باری۔ اولاد کی طرف سے رنج۔ پھوڑے۔ پھنسی سے تکلیف۔ دشمنوں سے دہشت ہو۔ اچانک مصیبت پیش آوے۔ اس ماہ کی ۴-۸-۱۶ تاریخ خراب ہے۔

### مین



۱
۱۰
بدھ
۱۲
۲
۳
کیت
راہو
برہسپت
۵
چندرمان

کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ مرتبہ بلند۔ دلی امیدوں میں کامیابی۔ دشمن سے آزار ملے۔ سفر میں جانے سے رنج۔ زیر باری ہو۔ عورت سے سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۱۷-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

## قرعۂ اشکال حروفی قرعہ

### ا ا ا

خوش قسمتی کا ایک نشان ہے۔ روزگار میں ترقی اور مایوس امیدوں میں کامیابی ہوگی۔ اگر یقین نہ ہو تو دیکھو تمہارے داہنے پاؤں پر تل کا نشان ہے۔

### ا ب ا

جس چیز کی یاد میں حیران ہو۔ وہ جلد ملیگی۔ اور خواہش تمہاری جلد پوری ہوگی۔ فکر مت کرو۔ دیکھو اس کی صداقت کے لئے تمہاری داہنی آنکھ کے اوپر کی طرف ایک نشان ہے۔

### ا ج ا

تمہارا کام آسان ہوگا۔ دشمنوں کی تکلیف دور ہوگی۔ یہ سال تمہاری امیدوں کی بہتری کے لئے مبارک ہے۔ کسی عورت سے تم کو محبت ہوگی اور کھوئی ہوئی چیز مل جائیگی۔ یقین نہ ہو۔ تو دیکھ لو کہ تم کو استقلال نہیں۔

### ا د ا

کاروبار میں ترقی۔ آمدن اچھی ہوگی۔ تجارت میں فائدہ ہوگا۔ جسم کی تکلیف دور ہوگی۔ دشمن دور ہونگے۔ یقین جان لو۔ کہ ایک ماہ کے بعد تم کو فائدہ ہوگا۔ تصدیق یہ ہے۔ کہ تمہاری عورت سے محبت نہیں ہے۔

### ب ا ا

کارج سدھ ہوگا۔ سفر سے فائدہ ہوگا۔ دل کا فکر کچھ روز کے بعد دور ہوگا۔ کسی عزیز سے ملاقات ہونے والی ہے۔ بیوپار سے لابھ ہوگا۔ نشان یہ ہے۔ کہ تمہاری عورت تم کو تکلیف دیتی ہے۔

### ب ب ا

تم ایک سال سے حیرانی و پریشانی میں ہو۔ اور سخت تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں۔ اب وقت بہتری کا آگیا ہے۔ اس لئے تمہارا فکر دور ہوگا نشان یہ ہے۔ کہ تم دس سال کی عمر میں پانی میں ڈوب گئے تھے۔

### ب ج ا

تم کو تکلیف ہے۔ جس سے نیکی کرتے ہو اس کا بدلہ بدی ملتا ہے۔ عورت کی طرف تمہارا خیال بہت رہتا ہے۔ چند یوم میں تمہارا مطلب پورا ہوگا۔ نشان دیکھو۔ تمہارے سر میں اکثر درد کی شکایت رہتی ہے۔

### ب د ا

تم کو جس جگہ سے لابھ کی امید ہے۔ وہاں سے کام ہونا مشکل ہے۔ مگر ایک دوست کی مدد سے کچھ صورت بہتری کی ہوگی۔ یقین

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ اسپاشٹ بابت ماہ چیت سمت ۱۹۹۲ بکرم

### میکھ



کاروبار میں دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں عزت بڑھے۔ عہدہ کی ترقی بھائیوں سے فائدہ پہنچے۔ امراض بلغمی سے تکلیف۔ دل کو فکر۔ اولاد میں خرچ زیادہ ہو۔ رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ دشمن مغلوب۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند۔ عورت سے محبت زیادہ صحت میں فتور۔ بواسیر سے تکلیف بیماری میں دھن کا خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۲۲-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ راج دربار سے مان۔ دھرم کے کاموں میں توجہ زیادہ رہے۔ عورت سے محبت۔ نقل و حرکت زیادہ کرنی پڑے صحت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۶-۹-۱۰-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ اولاد سے سکھ ملے۔ دشمنوں کا ڈر لگتا ہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ پیٹ میں روگ۔ دل کو رنج بیماری میں دھن کی ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۱۲-۲۱-۲۲-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں کشاکش لیکن دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ والدین سے محبت سفر میں جانے سے صحت خراب اور جھگڑا پیش آئے۔ عورت سے سکھ ملے۔ اولاد کا فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۲-۷-۸-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار مدہم۔ دھن لابھ کم۔ خرچ زیادہ رہے۔ عورت کی صحت خراب۔ دشمنوں سے آزار۔ اور دل کو خوف لگا رہے۔ سفر میں رنج درد کمر سے تکلیف۔ پیٹ میں پیڑا ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۷-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہو۔ مگر خرچ بھی بہت بڑھا رہے۔ دشمن مغلوب اولاد کو کشٹ۔ بھائیوں سے دھن لابھ۔ دھرم کے کاموں میں دل نہ لگے۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۴-۵-۸-۱۱ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار مدہم۔ آمدن کم۔ خرچ زیادہ۔ دھن کی ہانی ہو۔ امیدوں میں ناکامی۔ کوئی کام بگڑ جائے۔ عورت سے سکھ اولاد سے رنج و فکر۔ والدین کو کشٹ بلغمی و بادی روگ سے صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۵-۱۶ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار معمولی۔ آمدن خرچ برابر رہے۔ والدین سے رنجش۔ آنکھوں میں روگ۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ سفر میں جانے سے نقصان۔ دھن ہانی۔ عورت سے جھگڑا۔ بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ دشمن ناش۔ بھائیوں سے کچھ رنجش ہے۔ کسی اپنی امید میں کامیابی۔ دل کو خوشی ہو۔ صحت کچھ خراب رہے۔ بیماری میں کا خرچ زیادہ۔ زیرباری ہو۔ اس ماہ کی ۱۷-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں ترقی۔ زر و مال کی آمد ہو لیکن خرچ بھی بہت ہو جائے۔ اولاد کی طرف سے فکر و اندیشہ۔ کسی جگہ سے بے عزتی ہو۔ دھن ہانی۔ بیماری میں خرچ زیادہ تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۴-۵-۱۳-۱۸-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں دھن کی ہانی۔ لابھ کم ہو۔ سفر میں جانے سے نقصان پہنچے۔ پھوڑا پھنسی۔ فساد خون سے تکلیف۔ آنکھوں میں روگ۔ خوف۔ دشمن سے آزار ملے۔ عورت بیمار رہے۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۷-۲۱ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

رہو۔ تو دیکھو۔ تمہاری داہنی آنکھ پر تل ہے۔

### ج ا ا

وقت تو اچھا آگیا ہے۔ زمین کا لابھ ہوگا۔ سفر کا خیال ہو۔ تو جاؤ فائدہ ہوگا۔ مگر اولاد کا فکر ہے۔ کچھ عورت کی طرف جو چنتا کرتے ہو۔ وہ دور ہوگی۔ کیونکہ تمہاری استری بہت ہوشیار ہے۔

### ج ب ا

اے صاحب فال! تیرا زمانہ بہت ناقص ہے۔ جس کام کو تو کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر دیکھو۔ پانچ ماہ کے بعد تیری بہتری کی سبیل نکل آئیگی۔ اگر یقین نہ ہو۔ تو دیکھ لے۔ تیری طبیعت اداس ہے۔

### ج ج ا

دو سال سے تیرے اوپر نحوست آئی ہوئی ہے اور کاروبار میں خلل ہوتا ہے۔ اور جو ارادہ کرتا ہے۔ وہ درمیان میں ہی خراب ہو جاتا ہے مگر یہ چنتا تیری جلد دور ہوگی۔ دیکھ تمہارے داہنے ہاتھ کی پشت پر کوئی نشان ہے۔

### ج د ا

چند روز سے عجیب معاملات تمہارے درپیش آئے ہیں۔ جو کام کرتے ہو ادھورا رہتا ہے اس وقت تم کو ایک جیو کی چنتا ہے۔ جو ایک ماہ کے بعد دور ہو جائیگی۔ یقین نہ ہو۔ تو دیکھو۔ تمہارے کندھے پر زخم کا نشان ہے۔

### د ا ا

تمہیں ہر طرح تکلیف اور دل کو فکر رہتا ہے بلکہ تم کو بھرم ایسا رہتا ہے۔ یہ وقت منحوس ہے۔ دھن کی ہانی اور چنتا دل کو لگ گئی ہے اس کا دور ہونا مشکل ہے۔ یقین نہ ہو تو دیکھو۔ تمہارے داہنے بازو پر تل ہے۔

### د ب ا

تم کو ایک جیو سے دھن کی پراپتی کا خیال لگا ہوا ہے۔ ایک ماہ تک صبر کرو۔ تمہارے بگڑے ہوئے کام درست ہونگے۔ عورت سے لابھ ہوگا۔ دیکھو تمہارے عضو تناسل پر تل ہے۔

### د ج ا

تمہارے دل میں جس شخص سے مدد لینے کا خیال ہے وہ تم کو بیت و لال میں ٹال دیگا۔ اور تم کو رنج پہنچیگا۔ چند روز صبر کرو۔ امداد پہنچے تمہارا کام سدھ ہوگا اور کارج سدھ ہوگا۔ مگر یاد رکھو کہ تمہاری استری دروغگو ہے۔

### د د ا

تم گمی ہوئی چیز کا ملنا مشکل ہے۔ دھن کی پراپتی

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات و گرہ راسهائے بابت ماہ بیساکھ سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ سفر میں جانے سے زیر باری۔ دشمنوں کا خوف لگا رہے۔ آنکھوں میں روگ۔ راج دربار سے مان۔ بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار میں ہانی۔ آمدن کم خرچ زیادہ ہو۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ اولاد میں دھن کا خرچ۔ زیر باری۔ دل رنجیدہ رہے۔ دشمنوں سے خوف۔ والدین سے رنجش ہو۔ اس ماہ کی ۱۷-۲۱-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ بگاڑ کے کاموں میں فائدہ۔ دل کو خوشی ہو۔ عورت سے سکھ ملے۔ دلی مراد بر آئے۔ صحت کچھ خراب رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ اس ماہ کی ۲-۶-۷-۲۵-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ نزد دور کام سے تکلیف۔ راج دربار سے مان۔ مرتبہ بلند۔ نقل حرکت زیادہ کرنی پڑے۔ پیٹ میں اور کمر میں درد کی تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۱۷-۱۹-۲۰-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ عورت بیمار۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ گرانی شکم کبھی مایوس امیدیں بہتری ہو۔ دشمنوں کا فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۲-۴-۵-۱۱-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ سفر میں جانے سے جھگڑا پیش آئے۔ صحت خراب رہے۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش ہوں۔ راج دربار میں کامیابی۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۱۶ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ کم ہوگا۔ عورت بیمار رہیگی۔ دل کو فکر لگا رہے۔ اولاد کی طرف سے تشویش۔ بھائیوں سے امداد ملے۔ سفر جانا پڑے۔ دشمنوں سے نقصان۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۷-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار میں رکاوٹ۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ کسی جگہ سے اچانک کچھ فائدہ ہو جائے۔ اولاد کی طرف سے خوشی۔ والدین سے بگاڑ۔ دشمن ناش ہوں۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۴-۱۳ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ کوئی بنا بنایا کام بگڑ جاوے۔ عورت سے سکھ ملے۔ والدین کو تکلیف۔ سوچ بچار میں وقت زیادہ گذرے۔ بھائیوں سے رنجش۔ اس ماہ کی ۸-۹-۱۱ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں نقصان۔ دھن ہانی ہوگی۔ سفر میں جانے سے مایوسی۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ بیماری میں دھن خرچ۔ والدین کو تکلیف۔ بھائیوں سے لابھ۔ آنکھوں میں روگ ہو۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۸-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں ترقی۔ دھن لابھ۔ دشمن ناش ہوں۔ جھگڑے میں کامیابی۔ اولاد سے رنج۔ دلی مرادوں میں کامیابی۔ عورت کی صحت خراب۔ اپنے جسم میں بھی تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۱۰-۲۳-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ۔ راج دربار سے مان مرتبہ بلند۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش۔ سفر میں جانے سے رنج پہنچے کسی جگہ سے کچھ دھن پراپت ہوگا۔ اس ماہ کی ۶-۷-۱۰-۱۸ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

کے لئے بیوپار سے لابھ ہوگا۔ مگر دشمن ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں۔ اگر تم بزرگوں کی خدمت کیا کرو۔ اور فقیروں کو روٹی کھلایا کرو۔ تمہارا کارج سدھ ہوگا۔ نشانی دیکھو۔ تم کو تیریاں کی تکلیف ہے۔

### ا ب

آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ جو کام کرتے ہو اس میں تکلیف اٹھاتے ہو۔ ان دنوں تو مدعا ہونا محال ہے۔ صبر کرو۔ پردیس میں جانے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو تمہارے جسم میں کچھ روگ ہے۔

### ا ج ب

اے صاحب فال۔ جس کام کی نسبت تو دریافت کرتا ہے۔ وہ کام تیرا دو ماہ کے بعد سرانجام ہوگا اور یاد رکھ۔ کہ ایک خوبصورت عورت سے وصل ہوگا۔ اور مشرق کے سفر سے کچھ کو لابھ ہوگا۔ دیکھو تمہاری بغل کے نیچے ایک نشان ہے۔

### ا د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم دولت کے خواہشمند ہو۔ اور کسی بیوی کی چنتا تم کو لگی رہتی ہے۔ لیکن تمہارا مطلب سدھ ہوگا۔ اور وہاں سے تم کو دھن بہت ملیگا۔ دیکھو۔ تم کو کسی شخص پر اعتبار نہیں ہے۔

### ب ا ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم حصول زر اور ترقی کاروبار کے لئے پردیس جانے کا ارادہ کرتے ہو بیشک جاؤ۔ تمہارا مطلب سدھ ہوگا۔ اور وہاں سے تم کو دھن بہت ملیگا۔ دیکھو۔ تمہارے دل میں کسی دوست سے ملنے کا خیال ہے۔

### ب ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ دشمن در پے آزار رہیں۔ اور ان سے تم کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ قرض خواہوں سے دہشت ہوتی ہے۔ جس کام کا تم کو خیال ہے۔ ابھی اس میں توقف ہے۔ دیکھو۔ کہ تمہاری ران پر [illegible] کا نشان ہے

### ب ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارا طالع نحوست میں ہے۔ اور بہت دنوں سے تم کو نقصان ہو رہا ہے۔ کہ ایک شخص سے لڑائی جھگڑے میں تم کو تکلیف ہوئی۔ تم کارج سدھ ہونے کے لئے جو دریافت کرتے ہو۔ وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ دیکھو تمہارا دل اداس ہے۔

### ا ب

شکر کرو معاونت کا وقت آگیا ہے عنقریب تمہارا کارج سدھ ہوگا۔ اور تم کو کسی دوست سے امداد ملیگی۔ اور سفر با منفعت پیش آنے والا

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ راسہائے بابت ماہ جیٹھ سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار مدہم۔ دھن کا نقصان ہوگا۔ چور لگنے سے بچاؤ ہو۔ راج دربار میں ان آنکھوں میں تکلیف۔ عورت بیمار۔ بھائیوں سے لابھ۔ دشمن ناش۔ سفر میں تکلیف رہے۔ اس ماہ کی ۳-۷-۸-۱۶-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ زیادہ ہوگا۔ عورت بیمار رہیگی۔ دل کو فکر لگا رہے۔ فساد و فرزندان اندرونی سر سے تکلیف پہنچے۔ بیاہ اولاد سے رنج۔ سفر میں روگ۔ کام ہوشیار رہے۔ اس ماہ کی ۲-۱۸-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں رکاوٹ۔ دل پسند چیزوں کی خرید و فروخت سے کچھ فائدہ پہنچے۔ خویش و اقارب سے جھگڑا۔ عورت سے سکھ ملے۔ راج دربار میں مان بڑھے۔ ہو۔ پت و بلغم کے روگ سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۳-۴-۲۱-۳۰-۳۱ تاریخ ہے

### کرک



کاروبار تجارت میں لابھ۔ دھن، دھن کی بھی ترقی ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں مان۔ جو چاہے کام کر سکے۔ دوستوں سے ملاپ۔ ہمت تنگ۔ صحت اچھی ہے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۵-۱۶-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار کشادہ۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار میں عزت بڑھے۔ اولاد سے سکھ ملے۔ عورت کو تکلیف۔ دشمنوں سے نقصان۔ کوئی چیز چوری جائے۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی یکم-۵-۲۵-۲۸-۲۹-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار مدہم۔ دھن کا خرچ زیادہ ہے۔ دشمن ناش۔ اولاد کی طرف سے خوشی۔ عورت سے جھگڑا۔ سفر میں جانے سے رنج۔ بدھی ملین ہے۔ بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی یکم-۱۰-۱۱-۱۲-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



تجارتی کاروبار میں کچھ کشائش رہے۔ دھن لابھ تھوڑا ہو۔ بھائیوں سے کلیش ہو۔ پیر کا روگ۔ اولاد کی طرف سے فکر و تشویش۔ راج دربار سے بھے جیسی تکلیف۔ سفر میں جھگڑا ہو۔ اس ماہ کی ۴-۲۵-۲۶-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار تجارت میں فائدہ۔ دھن لابھ ہوگا۔ عورت بیمار رہے۔ آنکھوں میں روگ۔ دوستوں سے امداد ملے۔ دشمنوں سے نقصان پہنچے۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۴-۹-۱۰-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ بھائیوں اور دوستوں سے بگاڑ۔ اولاد کا سکھ ملے۔ عورت بیمار رہے۔ خویش و اقارب سے آرام ملے۔ دشمن ناش ہوں۔ ہر بدل میں کامیابی ہو۔ اس ماہ کی ۴-۵-۶-۸-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن زیر ہوں۔ عورت و اولاد کو تکلیف۔ بھائیوں کو کلفت ملے۔ دوستوں سے بگاڑ۔ دھن کا خرچ زیادہ رہے۔ نزلہ و زکام سے تکلیف۔ زیر باری نہ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۳-۱۶-۱۷ تاریخ خراب ہے۔

### کمبھ



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کی ہانی۔ خویش و اقارب سے جھگڑا۔ عورت کا سکھ ملے۔ دشمنوں سے تکلیف۔ سر میں درد۔ آنکھوں میں تکلیف۔ سفر میں جانے سے زیر باری۔ بدھی ملین رہے۔ اس ماہ کی ۴-۱۴-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے

### مین



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ دشمن مغلوب۔ راج دربار سے مان سمان ملے۔ سیر باغ کا شوق ہو۔ عورت سے سکھ۔ بھائیوں سے تکرار۔ صحت کچھ خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۴-۷-۸-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

ہے۔ دیکھو تم اپنی عورت کی محبت میں سرشار رہتے ہو۔

### ب د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ زمانہ گذشتہ میں تم نے پراستری کے خیال میں دھن کا نقصان کیا اور تمہارے کاروبار میں خلل ہوگیا۔ مگر وقت اچھا آگیا ہے۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارے دائیں کندھے پر تل کا نشان ہے۔

### ج ا ب

اے صاحب فال! تمہاری موجودہ حالت عجیب قسم کی ہوگئی ہے۔ تمہارے خیالات گاہے چنیں گاہے چناں ہوتے ہیں۔ اور جس شخص سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وہ مشکل ہے۔ ہاں چند روز کے بعد کوئی دیگر صورت ظہور میں آئیگی۔ دیکھو۔ اس وقت تمہارے خیالات پراگندہ ہیں۔

### ج ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو کسی گئے ہوئے جیو کی چنتا رہتی ہے۔ اور کسی خبر و خط کے ہر وقت انتظار میں رہتے ہو۔ بلکہ تم کسی چیز کی خرید و فروخت کا جو خیال کرتے ہو۔ وہ اس وقت نہیں ہوگی۔ دیکھو۔ تمہارے سر پہ ایک داغ کا نشان ہے۔

### ج ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم حصول زر اور کشائش کاروبار کے لئے بڑی جستجو کرتے ہو۔ مگر گردش ایام تمہاری تم کو فائدہ نہیں ہونے دیتی۔ اور جس شخص کو ملنے کی خواہش کرتے ہو۔ وہ عنقریب تم کو ملیگا۔ مگر یاد رکھو۔ کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو اس وقت تمہاری توجہ اس شخص کی طرف لگی ہوئی ہے۔

### ج د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ایک جیو کی چنتا ہے۔ اور کشائش روزگار کی طرف تمہارا خیال لگا رہتا ہے۔ یہ دن اچھے ہیں۔ کارج سدھ ہوگا۔ کسی دوست کے وصل سے خوشی ہوگی۔ دیکھو۔ تمہاری اندری پر تل ہے۔

### د ا ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو زن و فرزند کی چنتا ہے اور تمہارے پاس دھن تھوڑا ہے۔ ست سنگ میں دل لگاتے ہو۔ مگر چنتا تم کو کچھ نہیں کرنے دیتی۔ دو ماہ تک صبر کرو۔ پھر دن اچھے آئیں گے۔ دیکھو تمہارے پاؤں پہ کوئی داغ ہے۔

### د ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے دل میں ایک گپت چنتا لگ رہی ہے۔ اور تم کسی دشمن کو زیر کرنے کا خیال بہت کرتے ہو۔ مگر لابھ کیلئے جو فکر تم کو ہے

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راسہائے بابت ماہ سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار میں ہانی آمدن کم۔ خرچ زیادہ۔ دشمن ناش ہوں۔ راج دربار سے لابھ۔ عورت بیمار۔ مایوس امیدوں میں کامیابی سفر میں مایوسی۔ آنکھوں میں روگ۔ اولاد سے رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۱۱-۲۴-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ خرید و فروخت کے کاموں میں کچھ ہانی ہوگی۔ چور و اگنی سے بچے۔ سواری کا سکھ ملے۔ عورت بیمار۔ دوستوں سے رنجش ہو۔ سفر میں نقصان۔ اس ماہ کی ۵-۱۳-۱۴-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار مدہم۔ دھن کا خرچ زیادہ ہے۔ دل کو فکر۔ سفر میں زیرباری۔ سفر میں روگ۔ اولاد کو تکلیف۔ عورت سے کلیش ہو۔ بیماری میں دھن کا خرچ۔ صحت خراب۔ خویشوں سے جھگڑا۔ اس ماہ کی ۱۵-۱۶-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کی بڑھتی ہوگی۔ عورت سے محبت۔ سیر دریا و باغ کا شوق۔ اولاد سے سکھ ملے۔ ست سنگ ہو۔ دھرم کے کاموں میں دل لگے۔ مرتبہ میں ترقی۔ عورت کی صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۴-۱۱-۱۲-۱۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



تجارتی کاروبار سے منافع۔ دھن کی بڑھتی۔ راج دربار سے لابھ۔ مرتبہ بلند اور ہر کام سے کامیابی ہو۔ دشمن کی طرف سے فکر۔ عورت بیمار۔ اولاد سے رنجش۔ دوستوں سے تکلیف پہنچے۔ اس ماہ کی ۲۱-۲۳-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہو۔ عورت سے محبت۔ کسی دوست کا ملاپ ہو۔ اولاد سے سکھ ملے۔ دشمن ناش۔ جھگڑوں میں کامیابی۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ دلی مراد پوری ہو۔ اس ماہ کی ۳-۶-۷-۲۴-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار مدہم۔ دھن کا خرچ زیادہ رہے۔ دل بے چین۔ عورت سے جھگڑا۔ راج دربار سے تنگی۔ چوری کا اندیشہ ہے۔ والد کو تکلیف۔ پیٹ میں روگ۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ اس ماہ کی ۲۰-۲۱-۲۲-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار معمولی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ اولاد سے سکھ ملے۔ راج دربار میں مان۔ عورت بیمار۔ سفر پڑے۔ بلغمی روگ سے کشٹ ہو۔ والدین کو تکلیف۔ اس ماہ کی ۳-۴-۵-۲۱-۲۸-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار مدہم۔ دھن ہانی۔ خرچ زیادہ۔ آنکھوں میں روگ۔ سفر جانا پڑے۔ عورت بیمار رہے۔ اولاد سے سکھ ملے۔ [illegible] سے نقصان۔ دل کو فکر۔ جھگڑا ہو جائے۔ بیماری میں خرچ زیادہ۔ اس ماہ کی ۲-۲۳-۲۶-۲۸-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ صحت خراب رہے۔ اولاد کو کشٹ۔ دشمن ناش ہوں۔ مرض جریان سے کچھ تکلیف پہنچے۔ کوئی کام بگڑے۔ چوپایہ کا سکھ۔ خویشوں سے رنجش۔ اس ماہ کی ۵-۶-۱۱-۱۲ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار سے ترقی۔ خویشوں سے امداد ملے۔ سفر میں جانے سے نقصان ہو۔ دوستوں سے بگاڑ۔ عورت کی صحت خراب۔ چوپایہ کا سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۲-۱۱-۲۱-۲۲-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار مدہم۔ آمدن خرچ برابر رہے۔ سفر میں جانے سے دھن ہانی۔ عورت سے محبت۔ بھائیوں بگاڑ۔ دشمن ناش۔ راج دربار سے لابھ۔ جھگڑے میں کامیابی۔ دوستوں سے رنج۔ نزلہ زکام رہنے سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۱۰-۲۲-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

وہ توقف سے رفع ہوگا۔ دیکھو تو بھلا تمہاری کمر پر کوئی نشان ہے۔

### د ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ عنقریب تم کو کسی عزیز کا خط پہنچیگا۔ دشمنوں کی طرف سے جو چنتا تم کو لگی ہے۔ وہ جلد رفع ہو جائیگی۔ مگر شک جاتا ہے۔ کہ تمہاری عورت تم سے محبت نہیں رکھتی۔

### د د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ کچھ دنوں سے تمہارا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے۔ اور تم روزگار کے لئے کوشش کرتے ہو۔ مگر بباعث گردش کام سرانجام نہیں ہوتا۔ لیکن اب کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ چنتا مت کرو۔

### ا ا ج

یہ شکل کرتی ہے۔ کہ تم بلندی مرتبہ کے لئے اور مال و املاک کی بہتری کے واسطے ایک عرصہ سے کوشش کر رہے ہو۔ اس وقت تک طالع گردش میں ہے۔ چھ ماہ کے بعد کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ آج معلوم ہوتا ہے۔ کہ تمہاری جیب سے کوئی چیز گر گئی تھی۔

### ا ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارا دل کسی شخص کی محبت میں بیقرار ہے۔ اور وہ تم سے التفات نہیں رکھتا۔ اور تم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ طالع گردش میں ہے۔ خیال چھوڑ دو۔ نقصان اٹھاؤ گے۔ دیکھو آج کئی روز سے تم کو قبضی کی شکایت ہے۔

### ا ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ایک چنتا ہے۔ اور تم اپنے دشمنوں کو دفع کرنے کیلئے کوشش کرتے ہو۔ کچھ دن ہوئے۔ تمہارا کچھ نقصان بھی ہو گیا تھا۔ اب دن اچھے آگئے ہیں۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو تم کو کھانسی کی تکلیف ہے۔

### ا د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ کسی نے تمہاری مملوکہ چیز پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور تم کو ہر وقت اس کی چنتا رہتی ہے۔ اور تم اپنی بہتری کی کوشش کرتے ہو۔ مگر بباعث گردش ایام کام نہیں ہوتا۔ ایک سال کے بعد امید بہتری رکھیں۔ دیکھو۔ تم کو بھوک کم لگتی ہے۔

### ب ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم دنیاوی دھندوں میں عجب کشمکش میں پڑے ہو۔ اور بھی کامیابی کے لئے کوشش کرتے ہو۔ اچھا دن اچھے آنے

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات ماہوار واسطے بابت ساون سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار مدھم۔ آمدنی و خرچ برابر رہے۔ طبیعت اداس۔ اولاد سے رنج۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ بدچلنی ملیں۔ عورت سے سکھ ملے۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں ان مرتبہ بلند ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۰-۲۶ کو تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار میں نقصان۔ کم آمدن خرچ زیادہ ہے۔ راج دربار سے ملن۔ دشمن ناش۔ عورت سے محبت بڑھے۔ آنکھوں میں روگ۔ دو دو بھائیوں سے بگاڑ۔ دوستوں سے رنج ہو۔ کھانسی سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۱-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو لیکن خرچ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ کسی جگہ سے تہمت لگے کہ بے عزتی ہو۔ عورت بیمار۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ جھگڑے میں دھن کی ہانی۔ اس ماہ کی ۹-۱۳-۲۰-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار میں ہانی۔ قریبیوں سے جھگڑے۔ اولاد کا سکھ۔ راج دربار سے بچے۔ بیماری میں دھن خرچ ہو۔ دل کو فکر۔ سفر پیش آئے۔ خرید باری ہو۔ اس ماہ کی ۸-۱۰-۱۵-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں کامیابی۔ سنتان تنگ ہو۔ دشمن ناش۔ اولاد سے سکھ ملے۔ خویشوں سے جھگڑا۔ مال و املاک کی ترقی۔ آنکھوں میں درد۔ سفر میں خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۱۷-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں دھن کا لابھ۔ تجارتی کاموں میں فائدہ پہنچے۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش۔ بھائیوں سے محبت۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ چوپائے کا سکھ۔ سیر و تفریح کا شوق ترقی پر۔ اس ماہ کی ۳-۴-۲۰-۲۳-۳۰-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ دشمن ناش۔ خویشوں سے سکھ ملے۔ سفر میں آرام پہنچے۔ دھرم کے کاموں کی بڑھتی۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۷-۱۸-۲۱ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



تجارتی کاموں میں فائدہ۔ دھن کا لابھ ہو۔ والدین کو کشٹ۔ عورت و اولاد سے سکھ ملے۔ بگاڑ خون پھوڑا پھنسی سے تکلیف۔ دھرم کے کاموں کی ہانی۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں کامیابی۔ اس ماہ کی یکم-۳-۱۵-۲۵-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں ترقی۔ تجارتی کاموں میں دھن لابھ۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ سفر میں جانے سے کشٹ۔ دھن ہانی۔ عورت بیمار ہے۔ دشمنوں سے آزار ملے۔ پیٹ کی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۱۷-۲۴-۲۵-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



تجارت کی ترقی۔ دھن کی بڑھتی ہو۔ راج دربار سے مان۔ اولاد کا سکھ ملے۔ دشمن ناش ہوں۔ چوپایہ کا سکھ۔ عورت سے محبت۔ سمر زدوں سے تکلیف رہے۔ سفر جانا پڑے۔ اس ماہ کی یکم-۷-۸-۲۶-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ کوئی کام بگڑ جاوے۔ خویش و اقارب سے رنج۔ سفر میں جھگڑا ہو جاوے۔ چوپایہ کا سکھ۔ راج دربار میں مان۔ اس ماہ کی ۵-۱۴-۱۸-۲۶-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ترقی۔ دھن لابھ۔ دوستوں سے بگاڑ۔ والدین کو کشٹ۔ بھائیوں سے محبت۔ عورت سے سکھ ملے۔ چوپایہ کا سکھ۔ اولاد کی طرف سے خوشی ہو۔ دھرم کے کاموں میں دل لگے۔ ہر طرح کامیابی۔ اس ماہ کی ۲-۱۲-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

میں یہ چند یوم میں کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ رات تم نے خواب میں ایک مہاتما کا درشن کیا ہے۔

### ب ب ج

یہ شکل نحوست طالع پر دلالت کرتی ہے۔ جو کام تم نے بچارا ہے۔ اس کا پورا ہونا مشکل ہے۔ لین دین کے معاملہ میں بھی تم کو تکلیف ہوگی۔ دوستوں سے رنج پہنچیگا۔ دیکھو۔ رات خواب میں تم نے ایک روز خوف کھایا تھا۔

### ب ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو فکر اور رنج رہتا ہے۔ جس میں اکثر تکلیف اور کسی بیماری کی طرف سے چنتا کرتے ہو۔ مگر خیال رکھو کہ ایام نحوست بہتری کی صورت میں نہیں ہونے دیتے۔ دیکھو۔ تم کو عورت کی طرف سے سکھ نہیں ملتا۔

### ب د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ اپنی امیدوں میں کامیابی ہوگی۔ دشمن و رنج۔ حاکم سے فائدہ۔ اور جس جیو کے ملنے کی خواہش ہے۔ وہ جلد ملیگا۔ بشرطیکہ تم منگلوار کو برت رکھا کرو۔ دیکھو۔ تمہاری اندری پر تل ہے۔

### ج ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے جسم میں کشٹ رہتا ہے۔ کسی کام کا ہر وقت فکر رہتا ہے۔ طاقت مردمی کام دیو کی چنتا سے بہت کم ہو گئی ہے۔ علاج سے فائدہ نہیں۔ گردش کا باعث ہے۔ دیکھو۔ تمہارے دل میں ایک بھرم ہو رہا ہے۔

### ج ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو کسی عورت کے ملنے کا شوق ہے۔ اور تم ہر وقت ترقی روزگار کے لیئے بھی کوشش کرتے ہو۔ اور تمہارا دل ایک جگہ نہیں لگتا۔ رات کو خواب میں بھی بڑبڑاتے ہو۔ کسی شخص کی مدد سے تمہارا کارج سدھ ہوگا۔

### ج ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ بہت دنوں سے کوئی شخص تم کو نقصان دیتا ہے جس کی چنتا تم کو لگی ہوئی ہے۔ اور روزگار بھی تمہارا اچھا نہیں۔ مگر اب وقت اچھا آگیا ہے۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا اپنا سوانس چل رہا ہے۔

### ج د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے مکان میں دھن گڑا ہوا ہے۔ تم نے کئی مرتبہ اس کے لینے کی خواہش کی۔ مگر نہیں ملا۔ ہر وقت تم کو چنتا لگی رہتی ہے۔ لیکن وہ دھن تم کو نہیں ملیگا۔ چھپا چھوڑ دو۔ دیکھو۔ تمہارے مکان کا دروازہ پورب کو ہے۔

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راسہائے بابت ماہ بھادوں سمبت ۱۹۹۳

### میکھ



کاروبار مدہم دھن کا لابھ تو ہو مگر خرچ بھی بہت ہو جائے۔ اولاد کو کشٹ والدین سے جھگڑا۔ دوستوں سے رنج۔ سفر میں جانے سے تکلیف پہنچے۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ چوپایہ کا سکھ ملے عورت بیمار ہے۔ اس ماہ کی ۳-۱۲-۲۱-۲۳-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار کی ترقی دھن کا لابھ ہو۔ دشمن مغلوب والدین کو کشٹ عورت سے سکھ ملے۔ راج دربار سے مان۔ سفر میں جانے سے کہیں جھگڑا فساد ہو جائے بھائیوں سے بگاڑ دل بے چین رہے۔ اس ماہ کی ۵-۶-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ لیکن خرچ بھی بہت ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار سے ترقی مرتبہ بلند۔ بھیدوں میں کامیابی۔ چور و اگنی سے نقصان ہو۔ [illegible] عورت کو تکلیف دوستوں سے رنج ہو۔ اس ماہ کی ۲-۸-۱۲-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمنوں سے کچھ نقصان پہنچے۔ عورت کو تکلیف۔ نوکروں سے آرام ملے۔ راج دربار میں مان کوئی چیز گم ہو جائے۔ دردسر اور پھوڑے پھنسی سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۷-۴-۱۰-۱۸-۳۰-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ راج دربار سے خوف۔ سفر میں جانے سے [illegible] اور بے عزتی ہو۔ کوئی دوست ملے۔ دردسر نزلہ۔ زکام و کھانسی سے جسم کو تکلیف دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار مدہم۔ دھن کا خرچ زیادہ سفر میں جانے سے خرچ ہو۔ دشمنوں کا خوف دل کو لگا رہے۔ مگر وہ خود دبے ہوں۔ خویش و اقارب سے رنجش صحت خراب۔ آنکھوں میں تکلیف ہے اس ماہ کی ۱۵-۱۷-۲۵-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار تجارت سے لابھ ہو سفید چیزوں کی خرید و فروخت سے فائدہ ہو۔ دشمن ناش۔ دوستوں کا ملاپ۔ عورت سے محبت۔ چوپایہ کا سکھ [illegible] ہو۔ راج دربار سے عزت مرتبہ میں ترقی دل کو خوشی ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۲-۱۳-۱۶ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار میں کشائش۔ زر و مال کا فائدہ راج دربار سے ترقی امید پوری۔ دشمن ناش عورت سے محبت زیادہ۔ سفر میں جانے سے فائدہ اور آرام ملے۔ خویش و اقارب سے [illegible] صحت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۷-۱۴-۲۲-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کا لابھ نہ ہو دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ دل بے چین۔ دھن ہانی۔ دشمنوں کا خطرہ ہے جھگڑا۔ بخار [illegible] تکلیف۔ اولاد سے سکھ۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۹-۲۰-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ سفر میں جانا پڑے۔ عورت بیمار رہے۔ راج دربار سے ہانی۔ دل کو فکر [illegible] کے رنگ سے کشٹ۔ دشمن مغلوب رہیں دھرم کے کاموں میں ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۲-۳-۷-۱۰-۲۰-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



تجارتی کاروبار میں دھن کا لابھ۔ دشمن ناش عورت و اولاد سے سکھ۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند۔ سفر میں جانے سے فائدہ پہنچے۔ سر میں درد اور آنکھوں میں تکلیف ہے۔ دل کو فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۲۱-۲۲-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ دشمن پیدا ہو کر ناش ہو جاویں۔ اولاد کو کشٹ۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند۔ کوئی کام بگڑ جائے۔ خویش و اقارب سے بگاڑ۔ بلغم کا زکام اور خرابی [illegible] تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۱-۱۴-۱۸-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

### د ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو راج دربار سے [illegible] ہوتا ہے۔ اور عورت کی پیشانی بھی ہر وقت [illegible] رہتی ہے۔ ناقص وقت گذر گیا۔ اب کاروبار [illegible] ہوا چاہتا ہے۔ دل کی خواہش پوری ہوگی۔ مگر تمہارا [illegible] بہت چنچل ہے۔

### د ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم مشتاق ہو روزگار اور ترقی کاروبار کے لئے کسی شخص کی امداد کے طلبگار ہو۔ تمہارا اقبال شامل کرتا ہے۔ عنقریب ایک معاون پیدا ہوگا۔ اور تمہارا کاروبار جاری ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارے سر میں درد ہے۔

### د ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ان دنوں کچھ [illegible] ہے۔ اور ابھی تمہارے دن بہت خراب ہیں۔ [illegible] میں روگ ہوگا۔ دشمن سے دہشت ہوگی [illegible] کی یاد کرو۔ شاید تمہارا مطلب پورا ہو جائے۔ دیکھو۔ رات تم کو نیند بہت کم آتی ہے۔

### د د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ گذشتہ وقت میں تم نے دشمن کا نقصان اٹھایا۔ مگر اب تمہاری [illegible] نہ ہونے والی ہیں۔ چند روز میں [illegible] تیار ہو سکتا۔ اور عورت و اولاد کا سکھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہاری [illegible] پر تل ہے۔

### ا ا د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ عنقریب ایک غیر معمولی ترقی اور عزت پاؤ گے۔ اور تمہارے بگڑے ہوئے کام سر انجام ہونگے۔ عورت اور اولاد کا سکھ کسی دوست سے ملاقات ہو۔ دیکھو۔ تمہاری گردن پر تل ہے۔

### ا ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو [illegible] کا بہت شوق ہے۔ [illegible] بہت زیادہ [illegible] چنچل دل [illegible] تشویش ہے۔ عنقریب یہاں سے [illegible] چند روز کے بعد تم کو ایک جگہ سے فائدہ پہنچیگا۔ دیکھو۔ تمہاری طاقت مردمی کمزور ہے۔

### ا ج د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ایک عورت کی طرف سے فکر اور اولاد کی طرف سے رنج اور کسی کی موت تمہیں کی چنتا رہتی ہے۔ بلکہ تم [illegible] کو تیار ہوتے ہو۔ مگر ایام گردش میں ہیں۔ کار [illegible] سدھ نہیں ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا دل بے قرار ہے۔

### ا د د

اس شکل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ تم زمانہ کی گردش [illegible] بہت [illegible] کام کرتے [illegible]

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھل ادیش یعنی نیک و بد حالات لاہو گڑھ راسیا لے بابت ماہ اسوج سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار میں ترقی ہوگی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ اولاد کو تکلیف۔ دوستوں سے جھگڑا۔ دل کو فکر۔ صحت خراب ہے۔ اور یاترا میں دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ [illegible] سے نقصان۔ طبیعت رنگ گشت ہو۔ اس ماہ کی ۴-۱۲-۱۸-۲۸ تاریخ خراب ہے

### برکھ



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ سادھو لوگوں سے سکھ ملے۔ راج دربار سے عزت بڑھے۔ عورت سے محبت زیادہ۔ لیکن وہ بیمار رہے۔ والدین سے جھگڑا۔ سفر میں تکلیف۔ دشمن ہانی۔ چوپایہ کا سکھ ہے۔ اس ماہ کی ۲-۱۳-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ سفر میں جانے سے کسی سے جھگڑا فساد ہو جائے۔ عورت سے رنجش۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ دشمن سے ڈر نہیں۔ والدین سکھ گشت۔ بدھی ملین ہے۔ اس ماہ کی ۴-۱۳-۱۷-۲۲ تاریخ خراب ہے

### کرک



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہوگا۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ اولاد سے خوش۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ عورت بیمار رہے گی اور [illegible] ہانی ہونے کا خطرہ ہے۔ اس ماہ کی ۲-۱۳-۲۴-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں لابھ تھوڑا۔ دھن کی ہانی۔ راج دربار سے امید پوری ہو۔ خوش ہو۔ اقارب سے آرام ملے۔ عورت بیمار رہے۔ اولاد کی طرف سے فکر۔ درد سر اور نسا و خون سے تکلیف۔ گلے میں تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۱-۱۲ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ سفر میں جانے سے بیماری۔ نزلہ و زکام سے تکلیف۔ اولاد میں دھن کا خرچ۔ کسی جگہ سے بے عزتی ہو۔ کام چنتا کی بڑھی۔ دشمن ناش۔ دل کو فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ [illegible] دشمنوں سے خوف۔ راج [illegible] دربار میں کامیابی [illegible] سفر [illegible] اولاد سے کلیش [illegible] اس ماہ کی ۲-۹-۱۰-۱۳-۲۷ تاریخ خراب ہے

### برچھک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ دشمن ناش۔ سواری کا سکھ ملے۔ عورت سے محبت زیادہ۔ دل خوش۔ بہت سنگ ہو۔ سیر باغ کا شوق زیادہ۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ صحت اچھی ہے۔ اس ماہ کی ۳-۱۶-۲۰-۲۱-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہو۔ امید دلی میں کامیابی۔ دشمن ناش۔ عورت سے سکھ۔ دوستوں سے ملاپ۔ سفر میں طبیعت خوش ہو۔ آرام ملے۔ مرتبہ میں بلندی۔ خویشوں سے محبت زیادہ ہے۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۱۶-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے

### مکر



کاروبار معمولی۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ عورت سے رنجش۔ دشمنوں کا فکر۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ بدھی ملین۔ راج دربار سے امید پوری ہو۔ بجا خون اور [illegible] سے طبیعت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۲۰-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار مدھم۔ آمدن خرچ برابر ہے۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ عورت بیمار۔ راج دربار سے ہانی۔ سفر میں جانے سے طبیعت خراب۔ دشمن ناش۔ اولاد سے [illegible] بلغمی مرض سے شکایت [illegible] اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۵-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

### مین



تجارتی کاموں میں لابھ۔ دھن کی بڑھتی۔ سفر جانا پڑے۔ عورت بیمار۔ دشمن کا ناش۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ راج دربار میں مان۔ بدھی اور آنکھوں میں روگ ہو۔ اس ماہ کی ۳-۱۳-۱۴-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

ہو۔ اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں سے بھی تکلیف ہے۔ ابھی ایک سال اس طرح سے گذرے گا۔ دیکھو۔ تمہاری مزاج میں تندرستی زیادہ

### ب ا د

اے صاحب فال! دیکھ۔ زمانہ اس قابل نہیں۔ کہ کسی کے بھروسہ پر کام کیا جائے۔ تیری سادہ پنی نے تجھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ رحم دلی نے مخالف پیدا کر دئے۔ مگر خیال رکھ۔ کہ تیرے دل کی چنتا اب دور ہوگی۔ دیکھ۔ تیرے سینہ میں کچھ روگ ہے

### ب ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو عورت کی چنتا زیادہ رہتی ہے۔ سفر جانے میں تمہارا دل بہت چاہتا ہے۔ مگر کام دیری سے ہوگا۔ اور کسی دوست یا عزیز کا خط جلد ملا چاہتا ہے۔ دیکھ۔ تیرے بائیں بازو کے نیچے تل ہے

### ب د د

اے صاحب فال! تیرے ایام گردش کے ہیں جو کچھ دل میں بچارتا ہے۔ اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور تیرے جسم اور دھن کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی دو سال باقی ہیں۔ دیکھو۔ تھوڑے دن گذرے۔ کہ تم کو چوٹ لگی تھی۔

### ج ا د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ جس امر کے بابت تم دریافت کرتے ہو۔ وہ بہت جلد سرانجام ہوگا۔ اور دشمن مغلوب اور دھن کی بڑھتی کا وقت آگیا ہے۔ دیکھو۔ چار یوم سے تمہارے دل کو گھبراہٹ ہے۔

### ج ب د

اے صاحب فال! دیکھ۔ تیری مصیبت اور تکلیف کے دن دور ہو گئے ہیں۔ اور اب وہ وقت آگیا ہے۔ کہ تجھ کو بیوپار سے لابھ۔ حاکم سے فائدہ۔ اور کسی دوست سے مدد ملیگی۔ دیکھو۔ تمہارے جسم میں کچھ تکلیف ہے۔

### ج ج د

یہ شکل بتلاتی ہے۔ کہ تم کو کسی گمی ہوئی چیز کا خیال ہے۔ اور تم کو اقبال کے کام کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہو۔ مگر دن اچھے نہیں۔ اس لئے جلد کام نہیں ہوگا۔ دیکھو۔ چھ یوم ہوئے تم نے بھوگ کیا تھا۔

### ب ج د

یہ شکل بتلاتی ہے۔ کہ دریافت کنندہ کے خیالات منتشر ہیں۔ اور کسی چیز کی چنتا میں صبح و شام رہتا ہے۔ اور حصول ملک و مال کی زیادتی کی خواہش کرتا ہے۔ مگر دیر سے کام سرانجام ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا دل تیرتھ یاترا چاہتا ہے۔

## بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات مع گرہ سپھاٹ بابت ماہ کاتک سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ۔ راج دربار سے مان۔ سفر میں جانے سے فائدہ۔ عورت سے سکھ۔ اولاد کو تکلیف رہے۔ خویشوں سے رنج۔ کوئی کام بگڑے۔ بیماری میں دھن خرچ۔ اس ماہ کی یکم۔ ۱۵-۱۶-۲۳-۲ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار میں نقصان۔ دھن کی ہانی ہو۔ دشمن سے گزند پہنچے۔ راج دربار سے مان۔ عورت سے محبت زیادہ۔ اولاد کو کشٹ۔ خویشوں سے رنج پہنچے۔ سفر میں فائدہ۔ کوئی خوشی کی خبر ملے۔ اس ماہ کی ۹-۲۵-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان عزت بڑھے۔ دشمن پہلے آزار دیں۔ بھائیوں سے جھگڑا۔ عورت سے رنجش۔ چوپایہ کا سکھ۔ اولاد کو کشٹ۔ عورت کی صحت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۲-۱۰-۱۱-۱۲-۱۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



کاروبار میں رکاوٹ۔ آمدن کم خرچ زیادہ رہے۔ اولاد کی طرف سے سکھ ملے۔ عورت سے جھگڑا۔ دشمن مغلوب۔ دوستوں سے رنج۔ سفر میں جھگڑا۔ کوئی چیز گم ہو جاوے۔ پیٹ میں تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۳-۸-۲۳-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن مغلوب۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند۔ دوستوں سے رنج۔ دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ۔ عورت کو تکلیف۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ [illegible] سے صحت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۲-۶-۸-۹-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں تشویش لیکن دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار کے کاموں میں ہانی بے عزتی۔ بھائی بہنوں کی بدی۔ عورت سے سکھ ملے۔ چوری سے نقصان۔ جھگڑے میں ناکامیابی ہو۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۹-۲۰ کی تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار درمیانہ اوسط۔ دھن کا لابھ کم ہو۔ سفر میں جانے سے بیماری۔ صحت کچھ خراب۔ اولاد سے دھن کا لابھ۔ اولاد کی طرف سے فکر و تشویش۔ [illegible] سے طبیعت خراب رہے۔ دل کو فکر ہو۔ اس ماہ کی ۶-۷-۱۰-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



تجارتی کاروبار میں دھن کا لابھ ہو۔ عورت سے محبت۔ دشمنوں کی طرف سے تکلیف۔ والدین کو کشٹ۔ خویشوں سے جھگڑا۔ سفر میں تکلیف۔ اولاد کا سامنا ہو۔ [illegible] میں صحت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۶-۱۹-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ چوپایہ کا سکھ۔ عورت [illegible] دوستوں سے تکلیف۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ امیدوں میں کامیابی۔ دل خوش رہے۔ سیر و تماشا کا شوق زیادہ۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۱۴-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



تشویش کاروبار۔ دھن کا لابھ۔ دشمن مغلوب۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ امیدوں میں کامیابی۔ دوستوں سے فائدہ۔ سفر میں آرام و خوشی۔ خویشوں سے آرام ملے۔ [illegible] اس ماہ کی ۱۰-۱۸-۲۰-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں کم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ عورت [illegible] سے [illegible] راج دربار سے فائدہ [illegible] اس ماہ کی ۷-۱۵-۱۸ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کا لابھ ہو۔ بھائیوں سے [illegible] والدین کو کشٹ۔ رنج [illegible] دشمن [illegible] عورت سے [illegible] پیٹ میں [illegible] اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۲۲-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

## تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

### ج د د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو دادوستد کے معاملات میں نقصان اور رنج۔ دشمن کی طرف زیادہ خیال رہے۔ اور حصول مدعا کے لئے ایک مرد بزرگ سے مدد ملیگی۔ دیکھو۔ ایک ہفتہ ہوا تمہارے شکم میں درد تھی۔

### د ا د

اس شکل کی کیفیت یہ ہے۔ کہ تمہارا دل کسی جیو کی چنتا میں پڑا ہوا ہے۔ اور تم پردیس میں جانا چاہتے ہو۔ صبح و شام اسی خیال میں تم [illegible] تشویش ہوتی رہتی ہے۔ مگر کامیابی مشکل ہے۔ دیکھو۔ تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے۔

### د ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ اے صاحب فال! تیرے دشمن دور ہوں گے۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ کسی جیو سے ملاقات ہوگی۔ اور کسی جگہ سے تم کو فائدہ پہنچیگا۔ دیکھو۔ اس وقت تمہاری جیب بالکل خالی ہے۔

### د ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو عورت اور اولاد کی چنتا رہتی ہے۔ اور دشمن کی [illegible] کے واسطے تم سفر کیا چاہتے ہو۔ مگر [illegible] ایام ہے۔ اس لئے کامیابی مشکل ہے۔ ایک سال کے اندر رنج و تکلیف ہوگی۔ دیکھو تم ایک بیوپار پر مشغول ہو۔

### د د د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ جو کام تم نے دل میں بچارا ہے۔ وہ جلد پورا ہوگا۔ تم کو [illegible] سے کچھ دھن ملے گا۔ اور بیوپار سے لابھ اور دشمن زیر ہوں گے۔ [illegible] کا سکھ ہوگا۔ دیکھو تمہارا دل ایک [illegible] کرتا۔

قرعۂ حروفی
بنا بنایا منگالو
قیمت معہ محصولڈاک ایک روپیہ
پتہ ذیل سے مل سکتا ہے:-
منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

# بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ سپشٹ راسہائے بابت ماہ پھاگن سمت ۱۹۹۳ بکرم

## میکھ



تجارتی کاروبار میں دھن کا لابھ ۔ دشمن ناش ۔ عورت سے محبت ۔ اولاد سے سکھ ملے ۔ بھائیوں سے جھگڑا ۔ دھرم کے کاموں میں خیال ۔ راج دربار میں مرتبہ بلند ۔ بہت دشمنوں کے رنگ سے کشٹ ۔ خرچ ہو ۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے ۔

## برکھ



تجارت میں فائدہ ۔ دھن کا لابھ ہو ۔ شکھوں کی طرف سے فکر و تشویش ۔ کوئی کام بگڑ جائے ۔ عورت کی صحت خراب ۔ اولاد کو کشٹ ۔ سفر میں جانا پڑے ۔ ہمدرد آنکھ میں تکلیف ہو ۔ اس ماہ کی ۲-۳-۲۰-۲۳ تاریخ خراب ہے ۔

## متھن



کاروبار میں ترقی ۔ خرید و فروخت سے دھن کا لابھ ہو ۔ دشمن ناش ۔ راج دربار میں ترقی ۔ عورت سے محبت ۔ لیکن اس کی صحت کچھ خراب رہے ۔ اور اولاد سے سکھ ۔ والدین سے جھگڑا ۔ چند دن کے لئے ایشٹ کی ۸-۹-۱۳-۲۶ تاریخ خراب ہے ۔

## کرک



کاروبار میں فائدہ بدرجہ اوسط ہے ۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو ۔ راج دربار میں مان ۔ دشمن پیدا ہو کر نابود ہو جاویں ۔ عورت سے سکھ ۔ دوستوں سے امداد ملے ۔ بھائیوں سے نقصان پہنچے ۔ اولاد کو کشٹ ۔ اس ماہ کی ۳-۲۱-۲۲-۲۹ تاریخ خراب ہے ۔

## سنگھ



کاروبار میں آمدن کم خرچ زیادہ ہو ۔ سفر میں جانے سے نقصان ۔ عورت بیمار ۔ جھگڑے سے ہی کامیابی ۔ طبیعت اداس رہے ۔ والدین کو کشٹ ۔ بیٹے کا آگ سے بچے صحت خراب رہے ۔ اس ماہ کی ۳-۵-۶-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے ۔

## کنیا



کاروبار میں ترقی ۔ دھن کا لابھ ہو ۔ دشمن مغلوب ہو ۔ راج دربار میں مرتبہ بلند ۔ امیدوں میں کامیابی ۔ عورت بیمار ۔ والدین کو کشٹ ۔ دھرم کے کاموں کی بدھی ۔ دوستوں سے رنجش ۔ صحت اچھی رہے ۔ اس ماہ کی ۲-۳-۱۲-۱۶-۲۰ تاریخ خراب ہے ۔

## تلا



کاروبار میں دھن کی ہانی ۔ دشمنوں سے نقصان ۔ مال و دولت کا فکر ۔ چور اور اگنی سے خطرہ ہو ۔ بھائیوں سے رنجش ۔ دوستوں سے صحت خراب ۔ گلے میں روگ ۔ خون و بواسیر سے تکلیف ۔ خرچ زیادہ ہو ۔ اس ماہ کی ۳-۴-۷-۸ تاریخ خراب ہے ۔

## برچھک



کاروبار میں ترقی ۔ دھن کا لابھ ہو ۔ سفر میں جانے سے بیوپاری ہو جائے ۔ درد سر سے تکلیف ۔ راج دربار سے فائدہ ۔ دل نیکی کے کاموں میں زیادہ لگے ۔ دشمن ناش ۔ عورت سے سکھ ہو ۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۴-۱۵-۱۹ تاریخ خراب ہے ۔

## دھن



کاروبار بدرجہ اوسط ۔ راج دربار میں کامیابی ۔ مایوسی ۔ عزیزوں سے جھگڑا ۔ دوستوں سے ملاپ ۔ آنکھوں میں تکلیف ۔ عورت سے جھگڑا ۔ دھن خرچ ہو ۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۳-۲۰ تاریخ خراب ہے ۔

## مکر



کاروبار میں دھن کا لابھ ۔ دشمن ناش ۔ بیوپار کا سکھ ۔ دوستوں سے ملاپ ۔ سیر باغ کا شوق زیادہ ۔ سفر میں جانے سے دھن کا خرچ ۔ دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ ۔ خویشوں سے رنجش ۔ صحت خراب رہے ۔ اس ماہ کی ۱۵-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے ۔

## کنبھ



کاروبار میں تشویش ۔ دھن کا لابھ ہو ۔ راج دربار میں مان امید پوری ۔ دشمن ناش ہو ۔ رنجش ۔ اولاد کو کشٹ ۔ دوستوں سے ملاپ ۔ صفراوی روگ سے کشٹ ۔ کوئی خوشی کی خبر ملے ۔ اس ماہ کی ۳-۴-۱۰-۲۰ تاریخ خراب ہے ۔

## مین



کاروبار بدرجہ اوسط ۔ دھن کا لابھ کم ہو ۔ دھرم کے کاموں میں دل نہ لگے ۔ عورت بیمار ۔ راج دربار سے امید پوری ۔ سفر میں جانے سے کچھ فائدہ ہو ۔ دل کو فکر و تشویش لگی رہے ۔ اس ماہ کی ۸-۹-۲۰ تاریخ خراب ہے ۔

# منتر ودیا کے کرشمات

## کسی کو محبت میں دیوانہ کرنا

بھنورے کے دونوں پر ۔ طوطے کا گوشت اور اپنے کان کی میل ان تینوں چیزوں کو لیکر اور کچھ تھوڑی سی اپنی انامیکا انگلی کا خون اس میں ملا کر خوب رگڑ کر اس کی گولی باندھ لیں اور بروز شنکر وار اس گولی میں بقدر رتی لیکر پان میں رکھ کر جس عورت کو کھلا دے گا وہ تمام عمر دل و جان سے فریفتہ ہو گی ۔ اور جدائی ہرگز برداشت نہ کرے گی ۔

## حب کا کاجل

(۱) گدھے کی دونوں آنکھیں اور سیاہ الو کی دونوں آنکھیں لیکر انکو روغن سرشف میں رگڑ کر حل کریں اور پھر اس روغن کو چراغ گلی میں ڈالکر اور روئی کی بتی بنا کر اس میں رکھ کر اس کی سیاہی اتار لیں ۔ اور پھر اس میں مکھن ملا کر کاجل تیار کر لیں ۔ اس کاجل کو آنکھوں میں لگا کر جو شخص نزد محبوب جائیگا ۔ وہ اس سے بدرجہ کمال محبت سے پیش آئیگا ۔ اور دیکھتے ہی اس پر موہت ہو جاوے گا ۔

(۲) الو کی دونوں آنکھیں ۔ ... اور ... کو خوب حل کر لیوے ۔ اور روئی میں لپیٹ کر اس کی بتی بنا کر چراغ گلی میں یہ بتی رکھ گائے کا گھی ڈال کر چراغ روشن کرے اور سیاہی اتارے ۔ جب تک چراغ جلے اس کے سامنے بیٹھ کر یہ منتر پڑھتا رہے ۔ (اوم ... سواہا) پھر اس میں مکھن ملا کر آنکھوں میں لگا دے اور محبوب کے سامنے جاوے ۔ تو وہ محبت میں فریفتہ اور دل و جان سے مطیع ہو ۔

## اپنی مرضی سے اولاد پیدا کرنا

(۱) [illegible] کی جڑ کا تعویز بنا کر جو عورت کمر میں باندھ رکھے وہ حاملہ نہ ہو ۔

(۲) سانپ کے دانت باندھ لے تو بھی حاملہ نہ ہو ۔

(۳) [illegible] کی ہڈی کمر میں باندھے تو اس کو ہرگز حمل نہ ٹھہرے

(۴) ہاتھی کی لید لیکر سایہ میں خشک کر کے اس کی ایک [illegible] رکھنا مانع حمل ہے ۔

**(نوٹ)** اگر آپکو اسی قسم کے سینکڑوں منتر بغیر مطلب محبت پیدا کرنے ۔ عداوت ڈالنے اور تاثیرات جو اکثر دنیا میں ہیں کا مفصل بیان ۔ و طلسم کو مطیع و فرمانبردار کرنے کے سینکڑوں چٹکلے کی ضرورت ہو ۔ تو آپ رسالہ موہنی منتر منگوا کر ملاحظہ فرماویں قیمت صرف ۱۲ محصولڈاک ۴ کل ایک روپیہ

ملنے کا پتہ

**منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

## بارہ راشیوں کا باہوری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ اسمائے بابت ماہ پوہ سمت ۱۹۹۳ بکرم

### میکھ



کاروبار بدرجہ اوسط لابھ کم ہو۔ دشمن مغلوب۔ راج دربار سے مان مرتبہ بلند۔ سفر میں آرام دھرم کی ہانی۔ عورت سے جھگڑہ۔ بڑی تکلیف ہو دلی امیدوں میں کامیابی۔ صحت اچھی رہے اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

### برکھ



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ بھائیوں سے رنجش۔ راج دربار سے خوف۔ اولاد کو تکلیف دل کو فکر و تشویش۔ دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ۔ دشمن ناش۔ عارضہ جریان سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۴-۲۳-۲۴-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### متھن



تجارتی کاموں میں لابھ۔ زر ڈال سکے۔ راج دربار میں ترقی۔ مرتبہ بلند۔ والدین کو کشٹ۔ سفر میں تکلیف۔ دوستوں سے بگاڑ۔ عورت بیمار۔ پیٹ میں روگ۔ اولاد بابت میں دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۸-۹-۱۳-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### کرک



تجارت میں فائدہ۔ دھن لابھ ہوگا۔ دشمن پیدا ہوں۔ لیکن خود بخود ناش ہو جائیں۔ بھائیوں سے رنجش۔ اولاد سے سکھ۔ عورت سے محبت زیادہ۔ راج دربار سے لابھ۔ سفر میں فائدہ ہو۔ اس ماہ کی یکم-۳-۲۱-۲۲-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

### سنگھ



کاروبار بدرجہ اوسط۔ آمدنی خرچ برابر رہے۔ دشمنوں کی طرف فکر و اندیشہ لگا رہے۔ اولاد کو تکلیف۔ عورت بیمار۔ اگنی و چوٹ سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ بیماری میں دھن کا خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۳-۵-۷-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

### کنیا



کاروبار میں ترقی نہ ہو۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ والدین کو کشٹ۔ دشمن مغلوب۔ دوستوں سے بگاڑ۔ سفر میں جانے سے جھگڑہ و فساد ہو جاوے۔ چوپایوں کا سکھ۔ عورت کی صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۷-۱۲-۱۶-۸ تاریخ خراب ہے۔

### تلا



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ راج دربار میں مان۔ جھگڑے میں کامیابی۔ امید پوری۔ دشمن ناش۔ والدین کو کشٹ۔ عورت سے سکھ۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی یکم-۳-۵-۱۳-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### برچھک



کاروبار بدرجہ اوسط۔ دھن کا لابھ ہوگا لیکن کسی دشمن کی کارستانی سے کچھ دھن کی ہانی ہوگی۔ چوری و اگنی سے بچے۔ جھگڑا ہو جاوے۔ والدین سے بگاڑ۔ دوستوں سے امداد ملے۔ بھائیوں سے رنجش۔ دردسر تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۸-۱۱-۱۲-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

### دھن



کاروبار میں کشا کش۔ تجارتی کاروبار میں لابھ ہو۔ امیدوں میں کامیابی۔ دشمنوں کا ناش۔ عورت سے کلیش۔ سفر میں جانے سے تکلیف۔ و زیرباری ہو۔ دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ نزلہ و زکام سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۷-۸-۱۰-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

### مکر



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہوگا۔ راج دربار میں ناکامیابی۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ سفر میں جانے سے مایوسی اور دھن ہانی ہو۔ خویشوں سے لڑائی جھگڑہ۔ عورت سے محبت۔ قسمت خراب ہے۔ اس ماہ کی یکم-۱۲-۱۸-۱۹-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

### کنبھ



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کی ہانی ہو۔ خرچ بہت زیادہ لگا رہے جس سے زیر باری ہو جاوے۔ سواری کا سکھ ملے۔ بواسیر سے تکلیف۔ اولاد کی طرف فکر لگا رہے۔ عورت بیمار۔ دشمنوں کا زور۔ اس ماہ کی یکم-۲-۵-۹-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

### مین



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ۔ راج دربار میں مان۔ دشمن ناش ہوں۔ کسی دوست کا ملاپ۔ عورت کی صحت خراب۔ اولاد میں دھن کا خرچ زیادہ۔ امیدوں میں کامیابی ہو۔ سفر میں کشٹ ہو۔ اس ماہ کی ۵-۷-۱۵-۱۷ تاریخ خراب ہے۔

## پیشنگوئی بذریعہ آسمانی علامات

### بارہ مہینوں کا ثمرہ

سلسلہ کیلئے دیکھو مشہور عالم جنتری سال گذشتہ

### ماہ ہاڑ بدی پکھ

اگر ایکم کو ہوا چلے بادل گرجے تو ماہ ساون میں بارش خوب ہو۔ اگر بروز اشٹمی چاند بادلوں میں چھپا رہے تو اس سال میں غلہ ارزاں اور بارش خوب ہو۔ اگر روہنی نچھتر دسمی کے روز ہو تو اس سال میں بارش کثرت سے ہو۔ اگر ایکادشی کو ہو تو فصل اچھا ہو۔ اگر ترودشی کے دن روہنی نچھتر ہو۔ تو آندھیاں کثرت سے آویں۔ طوفان باد سے بہت نقصان ہو۔ اگر چودش کو روہنی نچھتر ہو۔ تو اناج گراں۔ بارش کم۔ لوگوں کو تکلیف ہو۔ اگر اماوش بروز منگلوار ہو تو اس ماہ میں کچھ چھینٹے۔ بارش [illegible] ہو۔

### ماہ ہاڑ سدی پکھ

اگر بروز اشٹمی پچھم کی ہوا چلے یا توس قزح نظر آوے۔ تو غلہ ماہ کارتک میں گراں ہو۔ اگر چھٹے کے روز بجلی چمکے۔ تو اس سال میں فصل خوب ہو۔ اگر سپتمی کو مطلع صاف رہے اور اشٹمی کو بادل ہوں۔ تو ساون میں بارش خوب ہو۔ اگر نومی کے دن مطلع صاف رہے اور شام کو بادل رہیں۔ تو تمام چوماسوں میں بارش بہت کثرت سے ہو۔

اگر پورنماشی کے دن بارش ہو تو غلہ گراں کرے۔ اگر پورنماشی کو پوربی ہوا چلے تو غلہ بڑھے۔ چوماسے چاروں بہت برسیں۔ اگر پچھم کی ہوا چلے تو لوگوں میں خوشی ہو۔ اگر دکھن کی ہوا چلے تو پھل پھول کا ناش کرے۔ اگر اتر کی ہوا چلے۔ تو بارش خوب ہو۔ غلہ ارزاں۔

اگر پورنماشی کو بادل گرجے۔ تو اس سال زراعت کی پیداوار خوب ہو۔ اگر رات کو آسمان صاف رہے۔ تو قحط سالی کی نشانی ہے۔

### نوٹ

اگر آپ کو موسمی علامات کے ذریعہ غیب دانی سیکھنے کا شوق ہو۔ اور ہر قسم کے حالات کی نسبت آئندہ کی پیشنگوئیاں بلا امداد دیگرے کرنا چاہو۔ تو ہماری کتاب [illegible] انتہائی منگوا کر ملاحظہ کریں۔ قیمت فی جلد بارہ آنے محصول ڈاک چار آنے کل قیمت ایک روپیہ

ملنے کا پتہ

**منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

# جوتش کے متعلق روزمرہ کی کارآمد باتیں

## مہورت یاترا یعنے سفر

یہ نہایت ضروری اصول ہے۔ کہ سفر کے وقت وشا شول بھدرا یوگنی کال چکر کو ضرور دیکھ لینا چاہئے۔ تاکہ کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ اگر وقت روانگی وشاشول یا یوگنی یا کال چکر سامنے یا دائیں ہوں۔ تو سخت نقصان اور موجب رنج ہوتے ہیں۔ اور چندرماں کا بوقت روانگی سامنے یا داہنے ہونا دلی مراد کو بر لاتا ہے۔ اور سفر میں فائدہ ہوتا ہے۔ بشرطیکہ چندرماں کی پوشاک کا رنگ ناقص نہ ہو۔ لہذا سب کی جدولیں ذیل میں درج ہیں۔





### نقشہ مقامات بھدرا

| راس | میکھ۔ برکھ | کنیا۔ تلا | سنگھ۔ کنبھ |
|---|---|---|---|
| چندرماں | کرک۔ مکر | دھن۔ بیو | مین۔ برچھک |
| مقام | سورگ لوک | پاتال لوک | مرت لوک |
| نتیجہ | کامیابی | لابھ | حیرانی |



### نقشہ مقامات چندرماں

| چندرماں در راس | میکھ۔ سنگھ۔ دھن | برکھ۔ کنیا۔ مکر | متھن۔ تلا۔ کنبھ | کرک۔ برچھک۔ مین |
|---|---|---|---|---|
| جہات | پورب | دکھن | پچھم | اتر |
| رنگ پوشاک | سرخ | سفید | زرد | سیاہ |
| خواص | اقبال و زر کا حصول | راحت ہو اور فائدہ | پس پشت موت | مرض نقصان جان |

### سفر کے وقت نیک شگون

مندرجہ ذیل شگون سامنے سے آنے نیک ہوتے ہیں۔
گائے۔ گھوڑا۔ ہاتھی۔ سفید بیل۔ آگ۔ دھوبی۔ ہلدی۔ اناج۔ دودھ۔ دہی۔ عورت بچوں کے ہمراہ جس کے ہاتھ میں ہو۔ بھرا ہوا پانی کا برتن۔ گھی۔ شراب۔ آئینہ۔ پانی۔ باجہ۔ خاکروب۔

### سفر کے وقت نحس شگون

مندرجہ ذیل شگون سامنے سے آنے نحس ہوتے ہیں۔
آگ جس سے دھواں نکلتا ہو۔ خالی سانپ۔ تیل بیچنے والا۔ بلی۔ گیروے کپڑے والا۔ لنگڑا۔ بیمار۔ برہنہ آدمی۔ دھوبی۔ غصہ ور آدمی۔ بیوہ عورت۔ حاملہ۔ حیض والی عورت۔

### سفر کے لئے سعد نچھتر

چونکہ ہر ایک سمت کے لئے مندرجہ ذیل نچھتر سعد ہیں۔ اگر کوئی مہورت نہ بنتا ہو تو ان کو دیکھ کر سفر کرو۔

| سمت | نچھتر جو سمت کے لئے سعد ہیں | کیفیت |
|---|---|---|
| مشرق | انورادھا۔ پشیہ۔ مرگشر۔ اسدرا۔ ہست | اگن کون کے لئے بھی سعد ہیں |
| مغرب | روہنی۔ پشیہ۔ مولا۔ پوروا کھاڈ۔ اترا کھاڑ۔ جیشٹا | بایو کون کے لئے بھی سعد ہیں |
| شمال | دھنشٹا۔ ست بھکھا۔ پوروا بھادرپد۔ اترا بھادرپد۔ ریوتی | ایشان کون کے لئے بھی سعد ہیں |
| جنوب | اشلیشا۔ مگھا۔ پوروا پھالگنی۔ اترا پھالگنی۔ سواتی۔ چترا | نرت کون کے لئے بھی سعد ہیں |

# چندرماں کی سواری دیکھنے کا طریقہ

معتقدان علم جوتش وقت سفر چندرماں کی سواری کا لحاظ بھی رکھتے ہیں جس کا کلیہ اصول ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

جس روز سفر کرنا ہو۔ اس روز دیکھو۔ کہ کون نچھتر ہے۔ پس اپنے جنم نچھتر سے یوم نچھتر تک شمار کرو۔ اور مجموعہ شمار کو ۹ پر تقسیم کرکے باقی کو نقشہ ذیل میں دیکھو۔ پس اس کے نیچے جو سواری لکھی ہے۔ اس روز وہی سواری چندرماں کی ہوگی۔ اور اس کا نیک و بد ثمرہ بھی اس کے زیر میں لکھا ہے۔ دیکھ لو۔

| تعداد اعداد | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام سواری | گدھا | گھوڑا | ہاتھی | مینڈھا | گیدڑ | شیر | کوا | مور | ہنس |
| نتیجہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**مثلاً**۔ ایک شخص رام چندر کی تلا راس اور نچھتر سواتی ہے۔ اور بکرمی پربل کو ہست نچھتر میں وہ سفر کو جانا چاہتا ہے۔ اس روز کی سواری راس سے معلوم کرنی ہے پس سواتی نچھتر سے ہست ۲۶ نچھتر ہے۔ اس سے ۲۶ کو ۹ پر تقسیم کیا۔ تو باقی آٹھ رہے۔ نقشہ مندرجہ بالا میں دیکھا۔ تو ۸ کے زیر میں مور کی سواری درج ہے جو شبھ ہے پس اس روز سفر کرنے پر زر و مال کی ترقی اور طبیعت خوش رہے۔

## سفر کے لئے سرہانگ یوگ

جس وقت جانے کا ارادہ ہو۔ اس وقت کی تتھ و یوم و نچھتر اپنے نام کے حروف کو شمار کرکے جمع کرے یعنے تتھ کو پڑکم سے۔ دن کو اتوار سے اور نچھتر کو اشنی سے شمار کرے اور اپنے نام اور یوم کے حروف گن کر سب کو جمع کرکے ۸ پر تقسیم کردے۔ اور باقی کچھ نہ بچے تو جانے کہ یوگ ہے اور پھر کل جمع کو ۳ سے ضرب کرکے ۸ پر تقسیم کرے۔ پھر بار سوم اسی مجموعہ کو ۳ سے ضرب کرکے پھر ۸ پر تقسیم کرے اگر تینوں دفعہ کی تقسیم سے کچھ باقی نہ بچتا ہے تو مبارک۔ اگر کچھ نہ بچے تو حیرانی و پریشانی۔ ارادہ ترک کرے۔

## مہورت چوگھڑیا

### دن کی گھڑیوں کا چوگھڑیا

اگر کوئی مہورت سفر کے لئے نہ بنتا ہو۔ تو اس چوگھڑیا پر عمل کریں۔

| یوم | اول | دوم | سوم | چہارم | پنجم | ششم | ہفتم | ہشتم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار | ادبیگ | چر | لابھ | امرت | کال | شبھ | روگ | ادبیگ |
| سوموار | امرت | کال | شبھ | روگ | ادبیگ | چر | لابھ | امرت |
| منگلوار | روگ | ادبیگ | چر | لابھ | امرت | کال | شبھ | روگ |
| بدھوار | لابھ | امرت | کال | شبھ | روگ | ادبیگ | چر | لابھ |
| ویروار | لابھ | روگ | ادبیگ | چر | لابھ | امرت | کال | شبھ |
| شکروار | چر | لابھ | امرت | کال | شبھ | روگ | ادبیگ | چر |
| سنیچروار | کال | شبھ | روگ | ادبیگ | چر | لابھ | امرت | کال |

### رات کی گھڑیوں کا چوگھڑیا

| شب | اول | دوم | سوم | چہارم | پنجم | ششم | ہفتم | ہشتم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار | شبھ | امرت | چر | روگ | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ |
| سوموار | چر | روگ | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت | چر |
| منگلوار | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت | چر | روگ | کال |
| بدھوار | ادبیگ | شبھ | امرت | چر | روگ | کال | لابھ | ادبیگ |
| ویروار | امرت | چر | روگ | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت |
| شکروار | روگ | کال | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت | چر | روگ |
| سنیچروار | لابھ | ادبیگ | شبھ | امرت | چر | روگ | کال | لابھ |

## شکر و برہسپت کے غروب و بالے بردھ میں کام کرنے ممنوع ہیں

باولی۔ چاہ و تالاب و باغ و مکان بنوانا۔ اور کار افتتاح اور عورتوں کا آنا جانا اور دان کان اور جگ۔ گئو دان کرنا۔ اور شادی۔ مونڈن۔ تیرتھ۔ یاترا۔ جنیو۔ بید خوانی۔ بچوں کا نام رکھنا۔ سنیاس کرم۔ ملاقات۔ ملوک۔ راج تلک۔ مسند نشینی۔ شادی وغیرہ وغیرہ کار افتتاح کرنے منع ہیں۔ اور ماہ لوند میں بھی یہ کام نہیں کرنے چاہئیں۔

## شکر کے مقابل یعنی سنمکھ ہونے کے دوش

شکر تین طرح سے سنمکھ سمجھا جاتا ہے۔ اول جس طرف کا شکر طلوع ہوتا ہے۔ دوم جس راشی میں ہو۔ وہ راس جس جہات سے منسوب ہے۔ وہ طرف بھی سنمکھ سمجھی جاتی ہے۔ میکھ سنگھ۔ دھن پورب اور برکھ۔ کنیا و مکر دکھن۔ متھن۔ تلا۔ کمبھ۔ پچھم اور کرک۔ برچھک و مین اتر سے متعلق ہیں۔ سوم اگر سورج اترائن ہو۔ تو شکر اترائن اور دکشائن ہو تو دکشائن ہو جاتا ہے۔ پس منجملہ ان تین طرح کے زیادہ تر جس طرف شکر ادے ہو جاوے اس طرف جانا درست نہیں۔ بلکہ شکر داہنے ہاتھ میں بھی نہ ہو۔ اور شکر غروب اور بکری ہونے کے وقت بھی سفر نہ کرنا چاہئے۔ مگر شکر ریوتی نچھتر سے کرتکا کے پہلے چرن تک اندھا رہتا ہے۔ اس وقت میں سنمکھ جانے کا کوئی دوش نہیں۔ خصوصاً عورتوں کے لئے شکر کا دوش ضروری ہے۔ پس عورتوں کو سنمکھ داہنے لیکر یاترا ہرگز نہ کرنی چاہئے۔

## پنچک نچھتروں کی خاصیت

پانچ نچھتر یعنی نصف آخر دھنشٹا۔ ست بھکھا۔ پوربا بھادرپد۔ اترا بھادرپد۔ ریوتی پنچک کہلاتے ہیں۔ ان میں مردہ جلانا۔ مکان پر چھت ڈالنا وغیرہ وغیرہ ممنوع ہیں۔ مگر ہندی نجومیوں کا قول ہے۔ اگر پڑوا میں مولا۔ پنچمی میں بھرنی۔ اشٹمی میں کرتکا۔ نومی میں روہنی۔ دسمی میں آشلیکھا نچھتر ہوں۔ جو لڑکا یا لڑکی ان میں پیدا ہو جلد مر جاوے۔ اگر گاؤں آباد ہو۔ تو جلد ویران ہو جاوے۔ اگر بیاہ ہو۔ تو دلہن بیوہ ہو جائے۔ بیمار شفا نہ پاوے۔ سفر سے مراد حاصل نہ ہو۔ ان نچھتروں کو جوالا مکھی کہتے ہیں۔

## تتھوں کے اقسام

تتھوں کے اقسام پانچ ہیں۔ جن کے نام ذیل میں درج ہیں۔

| اقسام | نندا | بھدرا | جیا | رکتا | پورنا |
|---|---|---|---|---|---|
| تتھ | ایکم۔ چھٹھ۔ گیارس | دوج۔ ساتیں۔ دوادشی | تیج۔ اشٹمی۔ تیرس | چوتھ۔ نومی۔ چودس | پنچمی۔ دسمی۔ پورنماشی۔ اماوس |

شکل پکش کی نندا اور رکتا کی تتھیں اشبھ یعنی ناقص ہیں۔ بھدرا اور پورنا مدھم ہیں۔ اور جیا شبھ ہیں۔ کرشن پکش کی نندا اور رکتا شبھ۔ بھدرا اور پورنا مدھم اور جیا اشبھ [illegible] ہر کام کے [illegible] شروع کرتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

## ناقص یوگوں کا چکر

جس روز دن و نچھتر و تتھ اس نقشہ کے مطابق ہو۔ اس روز کوئی شبھ کام نہ کرو

| یوم | اتوار | سوموار | منگلوار | بدھوار | ویروار | شکروار | سنیچروار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نچھتر | بشاکھا<br>بھرنی<br>مگھا<br>دھنشٹا<br>اتراکھاڈ | پورباکھاڈ<br>اتراکھاڈ<br>چترا<br>سواتی<br>بشاکھا | اتراکھاڈ<br>آردرا<br>دھنشٹا<br>ست بھکھا<br>پوربابھادرپد | دھنشٹا<br>بھرنی<br>مولا<br>ریوتی<br>اشونی | ست بھکھا<br>کرتکا<br>روہنی<br>مرگشر<br>آردرا<br>اترا پھاگنی | روہنی<br>جیشٹھا<br>[illegible] | پوربا پھاگنی<br>اتراکھاڈ<br>چترا<br>ہست<br>ریوتی<br>اترا پھاگنی |
| تتھ | ستمی<br>دوادشی<br>[illegible] | چھٹھ<br>اکادشی<br>تیرس | دوج<br>دسمی | ایکم<br>اشٹمی<br>نومی | [illegible]<br>ستمی | دوج<br>[illegible] | چھٹھ<br>ستمی |

## ایام بیماری و حیات و ممات معلوم کرنا

### نچھتر کشٹاولی

ہر ایک نچھتر کے چار چرن (حصہ) ہیں۔ جس روز کوئی آدمی بیمار ہو تو اس روز جنتری میں دیکھیں کہ کون نچھتر ہے۔ پس اس نچھتر کی کل گھڑیاں نکال کر اس کے چار حصہ کرو اور پھر دیکھو کہ کس چرن کا کشٹ ہے۔ صفر سے نشان موت ہے۔ [illegible] اس کا پاٹھ کرا دو۔ پرمیشر شفا دیوے گا۔

| نام نچھتر | تعداد کشٹ<br>چرن اول | چرن دوم | چرن سوم | چرن چہارم | پاٹھ و دان |
|---|---|---|---|---|---|
| اشونی | ۹ | ۰ | ۲ | ۲۱ | [illegible] |
| بھرنی | ۰ | ۴۰ | ۲ | ۲۱ | [illegible] |
| کرتکا | ۶ | ۳۱ | ۷ | ۲۱ | سونا |
| روہنی | ۷ | ۵ | ۱۱ | ۳۰ | گھی |
| مرگشر | ۳ | ۵ | ۳۵ | ۷ | تیل |
| آردرا | ۰ | ۸ | ۰ | ۲ | [illegible] |
| پنربس | ۵ | ۲۱ | ۲ | ۲۷ | تل |
| پکھ | ۷ | ۳۱ | ۲ | ۱۲ | چاول |
| آشلیکھا | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | [illegible] |
| مگھا | ۳۰ | ۱۳ | ۲۷ | ۳۰ | [illegible] |
| پوربا پھاگنی | ۱۰ | ۷ | ۱۴ | ۱۳ | [illegible] |
| اترا پھاگنی | ۱۵ | ۶ | ۱۷ | ۱۳ | [illegible] |
| ہست | ۱۰ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۳ | [illegible] |
| چترا | ۱۵ | ۱۲ | ۷ | ۴۲ | دودھ |
| سواتی | ۶ | ۰ | ۱۴ | ۱۰ | [illegible] |
| بشاکھا | ۱۰ | ۱۵ | ۱۳ | [illegible] | [illegible] |
| انورادھا | ۱۰ | ۲۵ | ۱۳ | ۲۰ | [illegible] |
| جیشٹھا | ۱۵ | ۲۸ | ۱۱ | [illegible] | [illegible] |
| مولا | ۱۰ | ۴۰ | ۲۵ | ۱۳ | [illegible] |
| پورباکھاڈ | ۳۰ | ۲۶ | ۲۵ | ۱۱ | [illegible] |
| اتراکھاڈ | ۲۸ | ۱۶ | ۲۵ | ۱۵ | [illegible] |
| شرون | ۳۰ | ۴۸ | [illegible] | ۱۳ | [illegible] |
| دھنشٹا | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | [illegible] |
| ست بھکھا | ۱۵ | ۱۰ | ۲۵ | [illegible] | [illegible] |
| پوربا بھادرپد | ۱۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۰ | [illegible] |
| اترا بھادرپد | ۰ | ۶ | ۱۵ | ۲۳ | [illegible] |
| ریوتی | ۳۱ | ۳۷ | ۱۵ | ۰ | [illegible] |

### زندگی و موت دیکھنا

اگر کسی بیمار کی زندگی اور موت کا حال دیکھنا ہو تو چاہئے کہ اس کے نام کے اعداد ابجد کے ایک جگہ لکھو اور پھر جس روز بیمار ہوا ہو۔ اس روز سے جتنے ایام اس روز تک گذرے ہوں ان میں جمع کرو۔ اور کل جمع کو ۳۰ پر تقسیم کردو۔ جو باقی رہے اسے لوح حیات و ممات میں دیکھو۔ اگر لوح حیات میں ہوں تو زندہ۔ اگر لوح ممات میں ہوں۔ تو [illegible]

### لوح حیات

| | | |
|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۸ |
| ۱۰ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۹ | ۲۲ | ۲۰ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۹ |

### لوح ممات

| | | |
|---|---|---|
| ۲ | ۴ | ۵ |
| ۷ | [illegible] | ۹ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۸ |
| ۲۱ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۳۰ |

## ناقص گرہ کا اپاؤ

اکثر معتقدان علم جوتش ناقص گرہ کے واسطے نجومیوں سے اپاؤ وغیرہ کے متعلق استفسار فرماتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک گرہ کا دان و جپ اور اس کا منتر ذیل میں مفصل طور پر درج کر دیا گیا ہے۔ پس جو گرہ ناقص ہو۔ اس کا [illegible] تو خود کریں۔ ورنہ کسی [illegible] سے کرا لیں۔

| نام گرہ | تفصیل اشیاء دان | منتر | تعداد جپ |
|---|---|---|---|
| سورج | ہیرا۔ گھی۔ گیہوں۔ سونا۔ تانبا۔ چندن۔ لال پشپ | [illegible] | ۷ ہزار |
| چندرماں | موتی۔ چاندی۔ چاول۔ کپور۔ سفید کپڑا۔ [illegible] | [illegible] | ۱۱ ہزار |
| منگل | مونگا۔ گیہوں۔ مسور۔ سونا۔ تانبا۔ پھول۔ چندن۔ سرخ کپڑا | [illegible] | ۱۰ ہزار |
| بدھ | کانسی۔ مونگ۔ گھی۔ [illegible] | [illegible] | ۹ ہزار |
| برہسپت | [illegible]۔ لڈو۔ گھوڑا | [illegible] | ۱۹ ہزار |
| شکر | ہیرا۔ یاقوت۔ چاندی۔ چاول۔ دودھ۔ [illegible] | [illegible] | ۱۶ ہزار |
| سنیچر | نیلم۔ تیل۔ [illegible]۔ کالی گئو۔ [illegible] | [illegible] | ۲۳ ہزار |
| راہو | [illegible] | [illegible] | ۱۸ ہزار |
| کیت | کستوری۔ [illegible]۔ تیل | [illegible] | ۱۷ ہزار |

# گنڈانت نچھتروں کا بچار

اشونی۔ مگھا، مول ہر سہ نچھتر کے اول کی ۳ گھڑی اور جیشٹا، اشلیکھا اور ریوتی نچھتر کے آخر کی ۳ گھڑی گنڈانت کہلاتی ہیں۔ جو شبھ کاموں میں ناقص ہیں۔ اگر اس میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو۔ تو ناقص ہے۔

# لڑکے کے پیدا ہونے کی خاصیت

اگر مولا نچھتر کے اول چرن میں پیدا ہو تو والد کا۔ دوسرے چرن میں پیدا ہو تو والدہ کا۔ تیسرے چرن میں پیدا ہو۔ تو دولت کا ناش کرتا ہے۔ اگر اشلیکھا کے چرن اول میں پیدا ہو۔ تو مبارک۔ دوسرے میں پیدا ہو۔ تو دولت کا نقصان کرے تیسرے میں والدہ اور چوتھے میں والد کا نقصان کرے +

**لڑکے کے دانت نکلنے کا ثمرہ**۔ اگر پہلے ماہ میں بچے کے دانت نکلیں تو مر جاتا ہے ۲ ماہ میں چھوٹے بھائی کو قہر دے۔ ۳ ماہ میں ہمشیرہ کو ناقص ۴ ماہ میں والدہ کی قیمت غالب ہو۔ ۵ ماہ میں برادران کلاں کو ناقص۔ ۶ ماہ میں عمر بھر خوش گذران رہے۔ ۷ و ۸ ماہ میں والدین کو آرام ملے۔ ۹ ماہ میں بیمار۔ ۱۰ ماہ میں دولتمند ہو (نوٹ) یہ نیچے کے دانت نکلنے کا ہے۔ اگر ان دس مہینوں میں اوپر کے دانت نکلیں۔ تو والدین اور بھائیوں کو ناقص ہے۔

# لڑکی کی پیدائش کی خاصیت

اگر لڑکی مولا نچھتر میں پیدا ہو۔ تو خوش دامن۔ اگر اشلیکھا میں ہو۔ تو خسر اگر جیشٹا میں ہو تو جیٹھ۔ اگر بشاکھا میں ہو۔ تو دیور اس کا مر جاتے۔ مگر بشاکھا کے اول کے ۳ چرنوں اور اشلیکھا کے اول چرن اور مولا کے آخر چرن میں پیدا ہو تو کوئی نہ مرے۔

# نقشہ اندھہ مندہ نچھتر

چوری گئے ہوئے مال کا حال دیکھنے کیلئے

| قسم نچھتر | نام نچھتر | چوری کی طرف گئی | کیفیت |
|---|---|---|---|
| اندھے | روہنی۔ پکھ۔ بشاکھا۔ دھنشٹا۔ ریوتی۔ پوربا کھاڑا۔ اترا پھالگنی | پورب کو | جلد ملے |
| کانے | مرگشرہ۔ اشلیکھا۔ ہست۔ انرادھا۔ ست بکھا۔ اشونی۔ اترا کھاڑا | دکھن کو | ۳ دن کے بعد ملنے کی امید ہے |
| چپٹے | آردرا۔ مگھا۔ چترا۔ جیشٹا۔ بھرنی۔ پوربا بھادرپد | پچھم کو | کوشش کرنے پر ایک ماہ تک مل جائے |
| سچاکھے | پنربس۔ سواتی۔ مولا۔ شروَن۔ کرتکا۔ پوربا پھالگنی۔ اترا بھادرپد | اتر کو | ہرگز نہ ملے |

# تری پشکر یوگ

اگر منگلوار، سنیچروار، اتوار کو دوج، سپتمی یا دوادشی تتھ ہو۔ اور اس روز بشاکھا۔ اترا پھالگنی یا اترا کھاڑا اور پوربا بھادرپد نچھتروں میں سے کوئی نچھتر ہو۔ تو اس روز تری پشکری یوگ ہوتا ہے۔ جو منحوس ہے۔ اسکے بارے میں لکھا ہے کہ ایسے یوگ میں اگر کسی گھر میں موت ہو جاوے۔ تو پھر اس کے بعد جلد ہی اس گھر میں دو موتیں اور ہوں۔ اگر چوری ہو جاوے۔ تو دو مرتبہ پھر چوری ہو۔ غرضیکہ جو مصیبت ایسے وقت میں پیش آوے۔ وہ دو مرتبہ پھر ہو +

# ہر کام میں کامیابی اور ناکامیابی دیکھنے کا طریقہ

روایت ہے کہ بادشاہ سکندر ہر مہم میں اس طریقہ پر عمل کر کے فتح و نصرت پاتا تھا۔ پس لڑائی جھگڑے یا مقدمات میں دیکھنا چاہئے کہ کون غالب اور کون مغلوب ہوگا۔ بلکہ ہر کام میں اس کا دیکھنا ضروری ہے۔

مثلاً عورت و خاوند میں خاوند غالب اور عورت مغلوب ہونی چاہئے پس جو شخص اس قاعدہ پر عمل کر کے اپنے آپ کو غالب اور طرف ثانی کو مغلوب دیکھ کر کام کرے گا۔ وہ ہر مراد میں کامیابی اٹھائیگا۔

طریقہ یہ ہے کہ غالب مغلوب کے نام کے حروف مفرد الگ کر کے بموجب نقشہ ذیل اعداد نکالے۔

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | ب | ج | د | ہ | و | ز | ح | ط | ی | ک | ل | م | ن |
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۵۰ |
| س | ع | ف | ص | ق | ر | ش | ت | ث | خ | ذ | ض | ظ | غ |
| ۶۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ |

ہر ایک نام کے اعداد کو علیحدہ علیحدہ جمع کر کے ہر ایک کو ۹ پر تقسیم کرے۔ اگر دونوں ناموں کے اعداد باقی طاق رہیں۔ تو جس کے اعداد کم ہونگے۔ وہ غالب رہیگا۔ اور اگر ایک آدمی کے طاق اور دوسرے کے جفت رہیں گے تو جس کے اعداد زیادہ ہونگے۔ وہ غالب رہیگا۔ اگر دونوں کے مساوی رہیں گے تو جو عمر میں چھوٹا رہیگا۔ وہ غالب ہوگا۔

## امرت سدھ یوگ ہر کام کو سعد ہے

| نام نچھتر | نام دن |
|---|---|
| ہست | اتوار |
| شروَن | سوموار |
| اشونی | منگلوار |
| انرادھا | بدھوار |
| پکھ | ویروار |
| ریوتی | شکروار |
| روہنی | سنیچروار |

## کولک یوگ ہر کام کو نحس ہے

| نام تتھی | نام دن |
|---|---|
| ستمی | اتوار |
| اشٹمی | سوموار |
| پنچمی | منگلوار |
| پرتھما | بدھوار |
| تیج | ویروار |
| دوج | شکروار |
| [illegible] | سنیچروار |

# سربارتھ سدھ یوگ چکر

ہر کام کے لئے مبارک ہے

| یوم | اتوار | سوموار | منگلوار | بدھوار | ویروار | شکروار | سنیچروار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نچھتر | مولا<br>پکھ<br>اشونی<br>ہست<br>ہر سہ اترا | روہنی<br>مرگشرہ<br>پکھ<br>انرادھا<br>شروَن | اشونی<br>کرتکا<br>اشلیکھا<br>اترا بھادرپد | روہنی<br>ہست<br>کرتکا<br>مرگشرہ<br>انرادھا | ریوتی<br>انرادھا<br>اشونی<br>پنربس<br>پکھ | شروَن<br>انرادھا<br>اشونی<br>پنربس<br>ریوتی<br>پوربا پھالگنی | شروَن<br>سواتی<br>روہنی |

# سفر کے لئے مبارک یوگ

سفر کے وقت دیکھنا چاہئے کہ سورج کس نچھتر پر ہے۔ اور چندرماں کس نچھتر پر ہے۔ پس سورج کے نچھتر سے چندرماں کے نچھتر تک شمار کرو۔ اگر شمار میں چوتھا۔ چھٹا۔ نواں۔ دسواں یا بارھواں ہو۔ تو سفر کیلئے نہایت مبارک ہے۔ ایسے وقت میں جوگنی دشاشول وغیرہ کا کوئی دوش نہیں ہے۔

# گمشدہ چیزوں کا حال دیکھنا

اگر مگھا نچھتر سے اترا پھالگنی تک کوئی چیز گم ہو جاوے۔ تو جلد مل جاوے۔ اگر ہست سے دھنشٹا تک گم ہو۔ تو لینے والا نہ دیوے۔ اگر ست بکھا سے بھرنی تک چلی جاوے۔ تو گھر میں پڑی ہے تلاش کرو۔ اگر کرتکا سے اشلیکھا تک گم ہو تو ہرگز نہ ملے۔

**چوپایہ**۔ سورج سے ۹ نچھتر تک گم ہو تو جنگل میں ہے اگر [illegible] نچھتر تک ہو تو گھر کے اندر [illegible] نچھتر تک گم ہو۔ تو واپس نہ آئے۔ اگر تین نچھتر تک ہو گیا ہو۔ تو مردہ جاننا چاہئے۔

# ہزاروں سوالات کا ایک جواب!

ملک کے ہر حصے میں ہزاروں لاکھوں آدمی ایسے موجود ہیں۔ جو ہمیشہ یہ بات دریافت کرتے رہتے ہیں کہ اس زمانہ میں طاقت مردمی یعنی مردانہ بیماریوں کیلئے عمدہ سے عمدہ اور نہایت زود اثر دوائی کونسی ہے جسکے استعمال سے ایک مرد حقیقی معنوں میں مرد بن جائے۔ لہذا تمام ایسے لوگوں کی واقفیت کیلئے اطلاع دی جاتی ہے کہ آج کل امریکن میڈیسن کمپنی نے ان بیماریوں کیلئے جو عجیب و غریب دوائی ایجاد کی ہے اور جسکا نام **گولڈین** ہے۔ یہ دوائی طاقت مردمی کیلئے ایک ایسی لاجواب دوائی ہے جو کبھی خطا نہیں کرتی اور جس کی نسبت دنیا کی رائے ہے کہ

یہ دوا نہیں بلکہ جادو ہے جو آناً فاناً میں کایا پلٹ کر دیتی ہے۔ اس دوائی کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں

## گولڈین کیا ہے؟

(۱) گولڈین اس زمانہ کی ایک جادو اثر ایجاد ہے۔ اور دنیا بھر میں **طاقت مردمی** یعنی قوت باہ کی لاثانی دوا ثابت ہوئی ہے۔

(۲) اس دوائی کو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے سند یافتہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایک لمبے عرصہ کی چھان بین اور تجربہ کے بعد تجویز کیا ہے اور **امریکن میڈیسن** کمپنی نے اس کی تحقیقات اور تجربہ پر لاکھوں روپیہ خرچ کئے ہیں

(۳) کمپنی نے اس دوائی کو تیار کرنے سے پہلے ہزاروں نسخوں کو جانچا [illegible] اور [illegible] ملک کے سامنے پیش کیا ہے۔

(۴) اس دوائی میں وہ بیش بہا و قیمتی اجزاء شامل کئے گئے ہیں جنکو دنیا کے تمام ڈاکٹر انسانی جسم کیلئے اکسیر اور تریاق مانتے ہیں یعنی اس دوائی میں پہلی چیز **گولڈ کلورائیڈ** یعنی سونے کا انگریزی کشتہ شامل کیا گیا ہے جو دل دماغ جگر اور **اعضائے مردانہ** میں طاقت اور نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز فیرم [illegible] یعنی انگریزی کشتہ فولاد شامل کیا گیا ہے جو جگر کو **قوت** دے کر خون پیدا کرتا ہے **تیسری** چیز [illegible] یعنی **فولاد اور کونین** کا مرکب ہے جو جگر [illegible] اور پٹھوں کو مضبوط کرکے خون پیدا کرتا ہے۔ اور بدن کی عام کمزوری کو دور کرتا ہے۔

چوتھی چیز **یوہمبن** شامل کی گئی ہے جو [illegible] زود اثر دوائی ہے اور سونے سے بھی زیادہ قیمتی اور زیادہ زود اثر ہے۔ پانچویں چیز **مسک** یعنی انگریزی **کستوری** شامل کی گئی ہے جو نہایت مسکن و مقوی ہے چھٹی چیز **فاسفورس** شامل کیا گیا ہے جو سالہا سال کی مردہ رگوں میں بجلی کی سی لہر پیدا کر دیتا ہے ساتویں چیز [illegible] اور آٹھویں چیز [illegible] شامل کئے گئے ہیں جن کو دنیا کے تمام ڈاکٹر قوت مردمی کے واسطے استعمال کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کے علاوہ کئی ایک ایسی زود اثر **طاقت** والی چیزیں ڈالی گئی ہیں جو صرف کمپنی کے مالک ہی کو معلوم ہیں

(۵) اس دوائی یعنے **گولڈین** کے استعمال سے سستی نامردی جریان (یعنے دھات جانا) سرعت (یعنے [illegible]) احتلام (یعنے خواب میں ناپاک ہونا) اور [illegible] تمام مردانہ بیماریاں جڑ سے دور ہو جاتی ہیں۔ بچپن کی بد عادتوں [illegible] کمزوری [illegible] قوت [illegible] پیدا ہو جاتی ہے

(۶) [illegible] استعمال [illegible] طاقت [illegible] بالکل بدل جاتی ہے۔ اس دوائی کی ایک شیشی کی قیمت صرف چار روپیہ

## گولڈین آئل

جو اوپر لگانے کا طلا ہے سٹار [illegible] کمپنی نے خاص [illegible] استعمال کرکے سائنس کے جدید طریقوں سے [illegible] دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر کسی خراب عادت کی وجہ سے یا [illegible] سے [illegible] گولڈین کے ساتھ ہی اس طلا کو بھی استعمال کریں۔ اسکے استعمال سے تمام کمزوریاں [illegible] اور [illegible] اس کی ایک شیشی کی قیمت صرف تین روپیہ (۳ روپے) ہے۔

[illegible] اشتہار بازوں کی [illegible] دوائیں استعمال کرکے اپنی دولت اور زندگی کو برباد نہ کریں [illegible] مذکورہ بالا ہر دو ادویات [illegible] ذیل پتہ سے مل سکتی ہیں۔

سول ایجنٹ۔ **جنرل منیجر سٹار فارمیسی۔ فاروق گنج۔ لاہور**

# اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے!

تو آپ کا فرض ہے کہ [illegible] حسن اور صحت کی حفاظت کریں۔ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عورت کے حسن و صحت کو برباد کر دینے والی وہ خطرناک بیماری ہے جس کو سیلان الرحم کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ عورت کے اندام نہانی سے سفید زرد، یا نیلے رنگ کی رطوبت بہتی رہتی ہے جس سے عورت کی صحت اور حسن و جوانی کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔ سر چکراتا، کمر درد کرتی اور بدن ٹوٹتا رہتا ہے۔ رنگ زرد، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ضعف سے قاعدہ [illegible] کبھی کم اور کبھی زیادہ آتا ہے۔ حمل قرار نہیں پاتا۔ اور اگر قرار پاتا ہے تو قبل از وقت گر جاتا [illegible] اور زیادہ تر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ موذی مرض اندر ہی اندر جسم کو [illegible] گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ اس خطرناک بیماری کے [illegible] نیو الف [illegible] پوشیدہ بیماریوں [illegible] ڈاکٹروں [illegible]

## کیلئے نیو الف سے بہتر کوئی دوا نہیں

[illegible] صرف نیو الف ہی استعمال کیجئے۔ قیمت فی [illegible] روپے

### عورت کا حسن و شباب

اولاد [illegible] عورت کی [illegible] عورت [illegible] زندگی کا [illegible] حسن و شباب [illegible] نہایت [illegible] استعمال [illegible] چھائیاں [illegible] کی طرح [illegible] قیمت [illegible] روپے (عہ)

### ایک خاص تحفہ

ہمارے کارخانہ کی خاص ایجاد ہے جس کا نام [illegible] بالکل [illegible] معلوم ہوتی ہیں [illegible] تعریف نہیں [illegible] زیادہ تشریح خلاف تہذیب ہے۔ قیمت ایک روپیہ

### بال عمر بھر نہ اگنے کی دوا

اس کے استعمال سے [illegible] بال [illegible] تجربہ [illegible] لگانے [illegible] بالوں کو [illegible] ضرورت [illegible] صرف دو [illegible] قیمت فی [illegible] روپے

# جوانی کی بہار

مندرجہ ذیل ادویات کی تمام خوبیاں بغیر تجربہ کرنے کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ زیادہ تشریح خلاف تہذیب ہے

### حبوب جگر بند

تعریف نام سے ظاہر ہے۔ ضرورت سے صرف ایک گھنٹہ پہلے ایک گولی استعمال کیجئے۔ طاقت اس قدر پیدا ہوگی کہ ایک ہی گھنٹہ کے اندر جوانی کی تمام قوتیں زندہ ہو جائیں گی۔ اور احساس اس قدر ہوگا کہ گویا جادو ہو گیا۔ دنیا کی کوئی دوا اس خاص صفت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چند روز کے متواتر استعمال سے مرض سرعت ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتا ہے۔ اور لطف یہ کہ اس میں کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے۔ قیمت فی درجن گولیاں صرف دو روپے (عہ)

### طلائے آسمان سیر

یہ خاص الخاص ملذذ طلاء ہے۔ ضرورت کے وقت استعمال کیجئے۔ میاں بیوی کی محبت عشق کے درجہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک استعمال نہیں کیا۔ تو گویا دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ قیمت فی شیشی جو کئی مرتبہ کے لئے کافی ہے دو روپے ...... (عہ)

### گلزار حسن

عجیب و غریب دوائی چہرے کو گورا اور خوبصورت بنانے کے لئے زمانہ حال کی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ صرف چند مرتبہ چہرے پر ملنے سے سیاہ اور مرجھایا ہوا کرخت چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح ملائم، چمکدار، سرخ و سفید اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چھائیاں، کیل، مہاسے، داغ دھبے دور کر کے بیس برس کی حسین لڑکی کی طرح پیارے پیارے گال کر دیتی ہے۔ خوشبو ایسی [illegible] گویا باغ جنت کی سیر [illegible] اس کی پوری تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک شیشی منگا کر تجربہ کیجئے۔ اگر [illegible] تو ہمارا ذمہ۔ قیمت فی شیشی صرف دو روپے ...... (عہ)

### بال سیاہ کرنے کا تیل

### بلیک آئل

مشہور تجربہ کار ماہرین ڈاکٹروں نے بالوں کی بناوٹ جلد کی ساخت بال سفید ہونے کی تحقیق اور اس کے تمام وجوہات پر غور کر کے سالہا سال کی محنت اور تجربہ کے بعد یہ بال سیاہ کرنے کا تیل ایجاد کیا ہے جس کے بالوں پر لگانے سے سفید بال بالکل اصلی اور قدرتی سیاہ بالوں کی طرح سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور آئندہ [illegible] سیاہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب کسی خضاب کی ضرورت نہ روز روز مہندی وسمہ لگانے کی حاجت۔ قیمت فی شیشی دو روپے (عہ) محصول [illegible]

ملنے کا پتہ: جنرل منیجر سٹار فارمیسی۔ فاروق گنج۔ لاہور

# کون کہتا ہے کہ مجرّب اور آسان نسخہ جات کسی کتاب میں نہیں ملتے

آپ محنت سے کمایا ہوا روپیہ کیوں ڈاکٹروں حکیموں اور ویدوں کی جیبوں میں ڈالتے ہیں ان کی خوشامدیں اور منتیں کرتے ہیں اور کبھی اشتہار بازوں کے پھندے میں آکر اپنا روپیہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام مشکلات سے بچ جائیں تو آج ہی ایک جلد کتاب

## "خیر التجارب"

صفحات ۲۶۴۔ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ
سرورق دیدہ زیب دو رنگ کے بلاک

قیمت سستا ایڈیشن ایک روپیہ آٹھ آنے عمر
اعلیٰ ایڈیشن مجلد دو روپے چار آنے عہ

خرید فرمالیجیے کیونکہ یہ کتاب اُن بازاری کتابوں جیسی نہیں جن کے مصنف اِدھر اُدھر کی مطبوعہ کتابوں سے نسخے [illegible] گھسیٹتے ہیں اور اس کے لئے بڑے بڑے جھوٹے اشتہار دیکر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں بلکہ یہ کتاب خاندان مغلیہ کے نامور ماہر فن شاہی طبیب عالیجناب حکیم خیر اندیش خاں مرحوم کی بیاض خاص ہے جس کا اصل قلمی نسخہ ۵۰۰ روپیہ کی رقم کثیر صرف کرکے خریدا گیا تھا یہ کتاب حکیم صاحب نے صرف اپنے خاندان کے لئے عرصہ ۱۲۵ سال کا ہوا لکھی تھی جسے بخل کی زنجیروں کو توڑ کر محض خدمت خلق کے لئے ہم نے بالکل صحیح چھاپ دیا ہے۔

**ہمارا دعویٰ ہے کہ** ایسے صحیح مجرب۔ زود اثر اور بہت آسان طریق علاج کی کوئی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی اس میں سر سے لیکر پاؤں تک کے جملہ امراض مردانہ و زنانہ کی مختصر اسباب علامات کے علاوہ ہر مرض کے لئے نہایت ہی آسان کم قیمت اکثر جگہ بآسانی مل جانے والے زود اثر مجرب المجرب نسخہ جات دیئے گئے ہیں۔ ایک نسخہ بھی ایسا نہیں جو آزمودہ اور سو فیصدی صحیح نہ ہو اس میں امراض مخصوصہ مثلاً سستی۔ نامردی۔ کجی۔ ضعف باہ کے علاوہ جریان۔ احتلام۔ سوزاک۔ آتشک اور مہلک امراض مثلاً تپ دق سل۔ درد گردہ وغیرہ کے ایسے خاص الخاص نسخے دیئے گئے ہیں کہ آپ اُن کا تجربہ کرکے حیران رہ جائیں گے۔ کتاب کے آخر میں ایسے ایسے نایاب (مقوی) نسخے دیئے گئے ہیں جن کی تلاش میں عام لوگ درکنار آج کل بڑے بڑے نامور وید و حکیم بھی سرگرداں پھرتے ہیں اور ایسے ممسک۔ لذیذ اور مقوی نسخے دیئے گئے ہیں کہ ایک ہفتہ کے استعمال سے ۷۰ ستر سال کا بوڑھا بھی نوجوان ہو جائے اور ایسے بے نظیر طلاء اور مقوی روغن کے نسخے ہیں جو تمام خرابیوں کو چند روز میں دور کر دیں اس مختصر اشتہار میں اس کی مکمل تعریف نہیں ہو سکتی آپ کتاب دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور خود کہیں گے کہ انمول نسخہ جات کا خزانہ کوڑیوں کے عوض مل گیا اصل قلمی بیاض کے دو اوراق کا فوٹو شامل کتاب ہے۔ علاوہ ازیں صفحات ۲۶۴۔ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ سرورق دیدہ زیب محض برائے افادہ عام قیمت بہت کم رکھی ہے تاکہ ہر شخص بآسانی خرید سکے قیمت سستا ایڈیشن عمر ایک روپیہ آٹھ آنے اعلیٰ ایڈیشن مجلد کاغذ سفید اعلیٰ قیمت دو روپے چار آنے عہ علاوہ محصول ڈاک

### بیشمار تصدیقی و تعریفی خطوط میں سے صرف دو خطوط

(۱) لاڑکانہ سے ایک صاحب بنارسی لکھتے ہیں کتاب خیر التجارب ملی اس کے بیشتر نسخہ جات آزمائے خود ہی تیر بہدف نکلے ہیں یہ کتاب [illegible]

(۲) ایڈیٹر صاحب رسالہ حکمت لکھتے ہیں جس قدر نسخے اس کتاب میں پائے جاتے ہیں نہایت عمدہ نہایت عجیب و غریب ہیں کتاب [illegible] اور طب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے بیش قیمت تحفہ ہے"

اگر آپ قلیل سرمایہ سے بے شمار دولت کمانا چاہتے ہیں تو ہماری مشہور و مستند کتاب

## طبیب مرغی خانہ
## تجارتی مرغی خانہ

آج ہی خرید فرما لیجیے

(بالتصویر)

یہ مشہور آفاق کتاب امریکہ کی ایک انگریزی [illegible] ماہرین کی تصنیفات اور پولٹری ایکسپرٹ ایم آئی پی سی ڈائرکٹر [illegible] پولٹری فارم کے ۲۰ سالہ ذاتی تجربات کا نچوڑ ہے [illegible] مرغی خانے کے متعلق ایسی بیش بہا [illegible] درج ہیں اس کی مدد سے بالکل معمولی لکھا پڑھا شخص بھی [illegible] کما سکتا ہے اور کبھی کوئی [illegible] نہیں ہو سکتا اس کتاب کے سامنے تمام بازاری کتابیں ہیچ ہیں [illegible] اس کی بیحد تعریف ہزاروں [illegible] علاوہ ازیں گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ یوپی دربار حیدر آباد کے نامور ماہرین نے [illegible] اور اس کی خریداری [illegible] جناب ڈائرکٹر ایگریکلچر حیدر آباد نے [illegible] صفحات [illegible] لکھائی چھپائی دکاغذ نہایت اعلیٰ قیمت ہر دو حصے یکجا مجلد سنہری جلد تین روپے علاوہ محصولڈاک

## افزائش باہ

[illegible]

ملنے کا پتہ } کامرشیل جنرل سپلائی کمپنی ملتانی سٹریٹ - لاہور (پنجاب)

# غریبوں اور ناداروں کو مالامال بنانیوالی کتابیں

## خفیہ صنعتی بیاض

یہ کتاب جنبلی معنوں میں چاندی کی کٹنے اور جواہرات کا خزانہ ہے۔ کیونکہ اسمیں صنعت و حرفت ہے۔ عجیب عجیب قسم کے انگریزی ولایتی صابن چاندی کیطرح چمکدار صابن۔ بلوری کی طرح شفاف صابن۔ موتی کی مانند آبدار صابن۔ بالی پیدا کرنیوالا صابن۔ کار بالک صابن۔ گلیسرین کے بغیر گلیسرین صابن۔ دو پیسہ کا صابن ٹوٹ اور سنپلیٹ صابن۔ وجاہت صابن۔ جس لاٹ کو مقابلہ کا صابن اور وجاہت کا صابن ایک پیسہ میں آدھ سیر دیسی صابن۔ ایک پیسہ میں ۲۵ سیر دیسی صابن اسکے علاوہ ہر قسم کے تیل عطر۔ روغن۔ وارنش جرمنی رنگ۔ جوتوں کا خضاب۔ ولایتی آتشبازی۔ ولایتی کھلونے۔ ولایتی اسنس یعنی ست۔ لکھنے کی [illegible] [illegible] صنعت سے بالکل ہیں کی تجارت [illegible] [illegible] [illegible] کی خدمت [illegible] صنعت حرفت کی [illegible] نہیں پائی جائیں گی۔

**پہلی خوبی** اسمیں صنعت و حرفت کی تمام کتابوں کی طرح [illegible] نہیں بلکہ ہر نسخہ کئی کئی مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے۔

**دوسری خوبی** اسمیں تمام چیزوں کو بنانے کے ایسے مفصل طریقے درج ہیں کہ [illegible] بغیر استاد کی مدد کے فوراً تیار کی جا سکتی ہے۔

**تیسری خوبی** اسمیں بہت سے [illegible] چیزوں کے نسخے ہیں جو ہر سال کروڑوں روپیہ کی ولایت سے آکر فروخت ہوتی ہیں اور جن کے نسخے ہندوستان میں کسی کو معلوم نہیں ہیں ایسے نسخے سیکڑوں [illegible] تھے اور اگر ان کو بنا کر فروخت کیا جائے۔ تو لاکھوں روپیہ پیدا کئے جا سکتے ہیں۔

**چوتھی خوبی** [illegible] ایک عجیب و غریب مضمون لگایا گیا ہے جسمیں ان چیزوں کو بنا کر کے بازار میں لانے اور ان کی تجارت سے ہزاروں روپیہ ماہوار پیدا کرنے کے وہ خفیہ تجارتی راز اور ڈھنگ بتائے گئے ہیں جو ہزاروں روپیہ کو برباد کرکے حاصل [illegible] کتاب ایسی مکمل ہے کہ [illegible] استاد کی مدد کے خود [illegible] شروع کرکے [illegible] ایک فیکٹری کا مالک بن سکتا ہے اور اس صنعت کی آمدنی [illegible] اس کتاب کی قیمت پچاس روپیہ [illegible] اہل وطن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے فی الحال صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ قیمت رکھی گئی

## بغیر سرمایہ کے روزی کمانیکے طریقے

یہ کتاب زندگی سے تنگ آئے ہوئے غریب نادار اور بے روزگار لوگوں کے لئے امید کی سنہری کرن ہے جس نے کئی بے روزگاروں کو جو خودکشی سے مجبور ہو کر خودکشی پر آمادہ تھے موت کے منہ سے بچا لیا ہے۔ اسمیں صنعتی نسخے نہیں ہیں بلکہ وہ روزگار۔ تجارتیں ہنر اور کاروباری طریقے درج ہیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں اور جن کے ذریعہ ہر شخص خواہ کسی حیثیت یا لیاقت کا ہو بغیر کسی سرمایہ کے باعزت اور باآرام طور پر پچاس روپیہ ماہوار سے تین سو روپیہ ماہوار تک کما سکتا اور چند روز میں تجارت سے دولتمند بن سکتا ہے۔

تمام وہ لوگ جو بیکاری اور بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ گئے ہوں یا معمولی معمولی نوکریوں کے لئے سالہا سال سے جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہوں اس کتاب کا مطالعہ کریں جس میں ہر شخص کی پسند اور مذاق کے مطابق بے شمار سنہری تجویزیں طریقے اور روزگار درج ہیں۔ اور جن میں سے کوئی ایک ہی تجویز آپ کی قسمت کو پلٹ سکتی ہے۔ جو لوگ پہلے کوئی کام کر رہے ہوں وہ بھی اس کتاب کی مدد سے فالتو وقت میں دو گھنٹہ روزانہ کام کرکے اپنی آمدنی کو دوگنا سہ گنا بڑھا سکتے ہیں اگر دو میں اس مضمون پر اس شان کی پہلی کتاب ہے قیمت ایک روپیہ عہ

## اسرار تجارت

یہ کتاب نہیں بلکہ سونے کی کان ہے جس نے تجارتی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اس کتاب میں کسی تجارت کو شروع کرنے کا طریقہ پھر اس کو کامیاب بنا کر عروج و ترقی کی بلند سے بلند چوٹی پر پہنچانے کی بے نظیر تدبیریں اور بالکل معمولی سرمایہ سے آٹھوں روپے کی تجارت چلانے کے بہتر سے بہتر ڈھنگ انگریزی زبان کی اعلیٰ نایاب اور قیمتی تجارتی کتابوں سے اخذ کرکے بیان کئے گئے ہیں نیز اس میں اشتہارات کی طاقت سے اور دوسرے تجارتی ڈھنگوں کے ذریعہ تجارت کو ترقی دینے اور بیلدی دنیا پر جال پھیلا دینے کے عجیب و غریب کم خرچ آسان اور بالکل نئے طریقے بیان کئے گئے ہیں جو ہندوستانیوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہیں اور جن پر نہایت آسانی سے عمل کرکے لاکھوں روپیہ پیدا کیا جا سکتا ہے [illegible] دلچسپ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] اپنے روپے کا مال بیچ لینے کے عجیب و غریب بالکل آسان طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہندوستان کی اسی زبان میں اس قسم کی کوئی کتاب موجود نہیں باوجود ان صفات کے قیمت صرف بارہ آنے

### لوگ کیا کہتے ہیں؟

بابو [illegible] صاحب کو ہاٹ سے لکھتے ہیں میں کنگال تھا۔ آپ کی کتابوں نے مجھے خوشحال کر دیا۔ میرے بچے آپکو دعائیں دیتے ہیں۔

حسن بھائی علی بھائی بمبئی سے تحریر فرماتے ہیں آپ کی کتابیں موتیوں میں تولنے کے قابل ہیں آپ نے غریبوں پر بھاری احسان کیا ہے۔

ملنے کا پتہ **سنٹرل بک ڈپو فاروق گنج۔ لاہور**

نوٹ ان تینوں کتابوں میں سے کوئی کتاب خریدنے کے بعد ناپسند ہو تو بعد واپس کرکے اپنی قیمت منگا لیجئے

## وقتوں کے پیمانے

| ہندی و انگریزی وقت کا مقابلہ | ہندی حساب سے وقت کا پیمانہ |
|---|---|
| ۲½ بپل کا ایک سیکنڈ | ۶۰ اپسل کا ایک سپل |
| ۲½ پل کا ایک منٹ | ۶۰ سپل کا ایک بپل |
| ایک گھڑی کے ۲۴ منٹ | ۶۰ بپل کا ایک پل |
| ۲½ گھڑی کا ایک گھنٹہ | ۶۰ پل کی ایک گھڑی |
| ۶۰ گھڑی کا دن رات | ۶۰ گھڑی کا ایک دن رات |

### انگریزی وقت

۶۰ سیکنڈ کا ایک منٹ ۔ ۶۰ منٹ کا ایک گھنٹہ ۲۴ گھنٹے کا دن رات

## دن رات کی کمی بیشی

دن اور رات ہمیشہ برابر نہیں رہتے۔ بلکہ کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ جن کا حساب اس طرح سے ہے۔ کہ جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ تو دن رات برابر ہوتے ہیں اور قریباً ۲۰ مارچ مطابق ۷ چیت کو ہوتا ہے اس کے بعد دن زیادہ رات کم ہونی شروع ہوتی ہے اور قریباً ۲۲ جون مطابق ۹ اساڑھ تک بڑا دن ۳۳ گھڑی ۲۰ پل یا ۱۳ گھنٹے ۱۰ منٹ کا ہوتا ہے اور رات ۲۶ گھڑی ۴۰ پل یا ۱۰ گھنٹے ۵۰ منٹ کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دن کم ہونا شروع ہوتا ہے اور رات بڑھتی ہے اور قریباً ۲۲ ستمبر یا ۶ اسوج کو دن رات پھر برابر یعنی بارہ بارہ گھنٹے کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دن کم اور رات زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے اور ۲۳ دسمبر مطابق ۹ پوہ کو رات سب سے بڑی یعنی ۱۳ گھنٹے ۱۰ منٹ اور دن ۱۰ گھنٹے ۵۰ منٹ کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور رات کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ۲۱ مارچ مطابق ۹ چیت کو پھر رات دن برابر ہو جاتے ہیں۔ [illegible]

## رفتار سورج کے ذریعہ وقت دریافت کرنا

ایک تنکا ۱۲ انگل کا سیدھا لیکر اس کو کسی ہموار جگہ پر سیدھا کھڑا کر دو کہ اور زمین کا ۹۰ درجہ کا زاویہ ہو۔ پھر اسکے سایہ کو ناپ لو جس قدر انگل اس کا سایہ ہو۔ اس میں ۱۲ عدد اور جمع کرکے مجموعہ ایک جگہ لکھ لو۔ پھر ۷۲ کو اس پر تقسیم کرو۔ جو خارج قسمت ہوگی۔ اگر دوپہر سے پہلے ہو تو اسی قدر گھڑی دن چڑھا جانو اور اگر بعد دوپہر ہو تو اسی قدر گھڑی دن باقی جانو۔

## آفتاب کے طلوع و غروب دیکھنے کا قاعدہ

جتنی گھڑی پل دن مان ہو اس کو ۵ پر تقسیم کرو۔ جو خارج قسمت [illegible]

**طریقہ دوم** [illegible] ۱۲ گھنٹے [illegible] اگر دن بڑا ہے تو اس قدر وقت ۶ بجے سے پہلے آفتاب طلوع ہوگا اور اتنا ہی ۶ بجے کے بعد غروب ہوگا۔ اور اگر دن چھوٹا ہے تو اس قدر ۶ بجے کے بعد طلوع ہوگا۔ اور اتنا ہی ۶ بجے سے پہلے غروب ہو جاوے گا۔

## چندرمان کا طلوع و غروب دیکھنا

کرشن پکھ میں چندرمان کے طلوع اور شکل پکھ میں غروب کے وقت دیکھنا ہو تو اس کا یہ قاعدہ ہے۔ کرشن پکھ کی تتھ کو رات کی گھڑیوں میں ضرب دو۔ اور حاصل ضرب میں سے ۴ عدد کم کرکے باقی کو ۱۵ پر تقسیم کرو۔ جو خارج قسمت ہوگی [illegible] رات کی [illegible]

# بوقت شادی لڑکے لڑکی کی موافقت و ناموافقت دیکھنے کا طریقہ

لڑکے لڑکی کا سمبندھ کرنے سے پیشتر مندرجہ ذیل باتوں کا خیال کر لو۔ تاکہ دونوں میں محبت و الفت [illegible] ہر ایک کی جدولیں ذیل میں درج کرتے ہیں۔

## ورگ چکر

اگر یہ دیکھنا ہو کہ دونوں کے درمیان محبت رہیگی کہ نہیں تو نقشہ مندرجہ ذیل میں دونوں کے نام کے اول حرف سے ورگ دیکھو۔ اگر دونوں میں دوستی ہو تو دوستی اور دشمنی ہو تو دشمنی ہوگی۔

| نمبر شمار | نام کا پہلا حرف | ورگ |
|---|---|---|
| ۱ | ا - ای - او - ایسے - [illegible] | گرڑ |
| ۲ | ک - کھ - گ - گھا - [illegible] | [illegible] |
| ۳ | چا - چھ - ج - جھا - [illegible] | بلا |
| ۴ | ٹ - ٹھ - ڈ - ڈھا - [illegible] | [illegible] |
| ۵ | ت - تھ - د - دھ - ن | کتا |
| ۶ | پ - پھ - ب - بھ - م | [illegible] |
| ۷ | ی - ر - ل - و | چوہا |
| ۸ | ش - س - [illegible] | [illegible] |

نقشہ مندرجہ بالا میں ہر ایک ورگ کی اپنے سے [illegible] ہوگی۔ اس لئے شادی [illegible] نام [illegible]

## گن چکر

| نمبر شمار | نام کا نچھتر | گن |
|---|---|---|
| ۱ | اشنی - مرگشر - ریوتی - [illegible] - پشیہ - [illegible] - انورادھا - شرون - سواتی - | دیوتا |
| ۲ | [illegible] - بھرنی - | منش |
| ۳ | کرتکا - [illegible] - چترا - [illegible] - مولا - | راکشش |

نام کے نچھتر سے گن کو معلوم کرو [illegible]

## ورن چکر

| نمبر شمار | نام راسی | ورن |
|---|---|---|
| ۱ | کرک - برچھک - مین | برہمن |
| ۲ | میکھ - سنگھ - دھن | کھتری |
| ۳ | [illegible] - کنیا - مکر | ویش |
| ۴ | [illegible] | شودر |

لڑکی کا [illegible] ورن [illegible] لڑکی بڑے [illegible]

## ناڑی ویدھ چکر

| نمبر | نام ناڑی | نچھتر |
|---|---|---|
| ۱ | آدی ناڑی | [illegible] |
| ۲ | [illegible] | [illegible] |
| ۳ | انت ناڑی | [illegible] |

نام کے نچھتر سے [illegible] ناڑی ویدھ نہیں ہوتا۔

## راشیوں کا ملان

اول بوقت شادی [illegible]

## یونی چکر

| نمبر | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نچھتر | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| یونی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| دشمن | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| نمبر | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| نچھتر | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| یونی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| دشمن | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

لڑکا لڑکی کا نام کے نچھتر کے یونی دیکھو اور دشمن ہو تو [illegible] سمبندھ کرنا اچھا نہیں۔

## گرہوں کی دوستی دشمنی کا چکر

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| دوست | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| مساوی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

لڑکے لڑکی کی راشی کے [illegible]

## شادی کا ساہا مقرر کرنا

ساہا مقرر کرتے وقت لڑکے [illegible] اور دونوں کیلئے چندرمان [illegible]

## شبھ سورج کا بچار

لڑکے کی [illegible]

## شبھ برہسپتی کا بچار

لڑکی کی [illegible]

## شبھ چندرمان

شادی کے وقت دونوں کو چندرمان [illegible]

## بیاہ کے دوش

[illegible]

**نوٹ:** [illegible]

## ورش پھل بنانے کے لئے برکھ سارنی

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اگر عمر | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| یوم | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ |
| گھڑی | ۱۵ | ۳۱ | ۴۶ | ۲ | ۱۷ | ۳۳ | ۴۸ | ۴ | ۱۹ | ۳۵ | ۵۰ | ۶ | ۲۱ | ۳۷ | ۵۲ | ۷ | ۲۳ | ۳۹ | ۵۴ | ۱۰ |
| پل | ۳۱ | ۲ | ۳۴ | ۶ | ۳۷ | ۹ | ۴۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۱۵ | ۴۶ | ۱۸ | ۴۹ | ۲۱ | ۵۲ | ۲۴ | ۵۵ | ۲۷ | ۵۸ | ۳۰ |
| اگر عمر | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ |
| یوم | ۵ | ۶ | ۷ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱ |
| گھڑی | ۲۶ | ۴۱ | ۵۷ | ۱۲ | ۲۸ | ۴۳ | ۵۹ | ۱۴ | ۳۰ | ۴۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۲ | ۴۷ | ۳ | ۱۸ | ۳۴ | ۴۹ | ۵ | ۲۱ |
| پل | ۱ | ۳۳ | ۴ | ۳۶ | ۷ | ۳۹ | ۱۰ | ۴۲ | ۱۳ | ۴۵ | ۱۶ | ۴۸ | ۱۹ | ۵۱ | ۲۲ | ۵۴ | ۲۵ | ۵۷ | ۲۸ | ۰ |
| اگر عمر | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ |
| یوم | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱ | ۳ | ۴ | ۵ |
| گھڑی | ۳۶ | ۵۲ | ۷ | ۲۳ | ۳۸ | ۵۴ | ۹ | ۲۵ | ۴۰ | ۵۶ | ۱۱ | ۲۷ | ۴۲ | ۵۸ | ۱۳ | ۲۹ | ۴۴ | ۰ | ۱۵ | ۳۱ |
| پل | ۳۰ | ۳ | ۳۴ | ۶ | ۳۷ | ۹ | ۴۰ | ۱۲ | ۴۳ | ۱۵ | ۴۶ | ۱۸ | ۴۹ | ۲۱ | ۵۲ | ۲۴ | ۵۵ | ۲۷ | ۵۸ | ۳۰ |
| اگر عمر | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۰ |
| یوم | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۷ | ۱ | ۲ |
| گھڑی | ۴۷ | ۳ | ۱۸ | ۳۳ | ۴۹ | ۴ | ۲۰ | ۳۵ | ۵۱ | ۶ | ۲۲ | ۳۷ | ۵۲ | ۸ | ۲۴ | ۳۹ | ۵۵ | ۱۰ | ۲۶ | ۴۲ |
| پل | ۱ | ۳۳ | ۴ | ۳۶ | ۷ | ۳۹ | ۱۰ | ۴۲ | ۱۳ | ۴۵ | ۱۶ | ۴۸ | ۱۹ | ۵۱ | ۲۲ | ۵۴ | ۲۵ | ۵۷ | ۲۸ | ۰ |

**برکھ پھل بنانے کا طریقہ۔** جس سال کا ورش پھل بنانا ہو۔ اس سے اپنا جنم سمت کم کردو جو باقی بچے وہ گزشتہ برس ہوں گے ان کو اوپر والی سارنی میں تلاش کرو۔ جہاں ملیں اس کے نیچے جو ہندسے یوم گھڑی پل کے لکھے ہیں وہ لکھ لو اور اس کے نیچے اپنے جنم کا یوم گھڑی پل لکھ کر دونوں کو جمع کر لو۔ حاصل برکھ کے شروع ہونے کا یوم گھڑی پل ہوگا۔ پھر اس وقت کا لگن نکال کر کنڈلی بناؤ۔ اور جنتری واضح الوقت سے گرہ دیکھ کر تمام گھروں میں درج کرو یہ ورش کنڈلی ہے۔ اس کے بعد سال کی سیارگان کی دشا لگا دو۔ جس کا طریقہ یہ ہے۔ کہ اپنے جنم نچھتر کو اشونی سے شمار کرو جس قدر ہو۔ اس میں اپنے گت برس جمع کر کے کل میں سے ۲ عدد کم کر دو۔ اور باقی کو ۹ پر تقسیم کردو۔ جو باقی بچے اس کو نقشہ ذیل میں دیکھو اس کے زیر جس سیارہ کا نام لکھا ہے اس کی دشا اول شروع ہوگی اس کے نیچے اس کی مدت درج ہے۔ اسکے بعد پھر اس سے اگلے سیارہ کی دشا ہوگی۔ اسی طرح سے نو گرہوں کی دشا کا چکر پورا ہو۔

### نقشہ دشا نو گرہ معہ مدت دشا

| باقی عدد | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام گرہ دشا | سورج | چندرما | منگل | راہو | برہسپت | سنیچر | بدھ | کیتو | شکر |
| مدت دشا ماہ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| مدت دشا ایام | ۱۸ | ۰ | ۲۱ | ۲۴ | ۱۸ | ۲۷ | ۲۱ | ۲۱ | ۰ |

ورش پھل بنانے کا قاعدہ اوپر درج کر دیا گیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مفصل حالات بابت ورش پھل اور گرہوں کے پھلادیش اور دشا کے پھلادیش وغیرہ وغیرہ دیکھنے ہوں تو رسالہ جیوتش تقدیر حصہ اول قیمت ۸ منگوالیں۔ اور گرہوں کے یوگوں کے پھل دیکھنے کے لئے حصہ دوم قیمت ۸ منگوا کر دیکھیں۔

## ہندوستان و دیگر ممالک کے مشہور شہروں کے وقت کا تفاوت

چونکہ زمین گول ہے اسلئے سورج ایک ہی وقت میں سب جگہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک شہر کا دوسرے سے ایک درجہ مشرق یا مغرب کو ہونے سے ۴ منٹ کی کمی بیشی ہو جاتی ہے اور ہر ۱۵ درجہ کی تفاوت پر ایک گھنٹہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جنم کنڈلی وغیرہ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھو۔ جس جگہ کا وقت دیا ہوا ہو۔ اس شہر کے جہاں پر لگن نکالنا ہو۔ اس شہر کے تفاوت کو کم و بیش کر کے وقت درست کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے۔ تو لگن میں فرق پڑ جاوے گا۔

مشہور مشہور شہروں کے تفاوت الوقت کا نقشہ از لاہور ۱۲ بجے دوپہر

| نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | | نام شہر | وقت | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاہور | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | سیلون | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | بڑودہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | قسطنطنیہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| اجمیر | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ملتان | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | حیدرآباد | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | کلکتہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | کابل | [illegible] | [illegible] | [illegible] | قندھار | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| انبالہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | بخارا | [illegible] | [illegible] | [illegible] | مکہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| بھوپال | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | پیرس | [illegible] | [illegible] | [illegible] | مدینہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| دہلی | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | آسام | [illegible] | [illegible] | [illegible] | برلن | [illegible] | [illegible] | [illegible] | بغداد | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | بنارس | [illegible] | [illegible] | [illegible] | رنگون | [illegible] | [illegible] | [illegible] | واشنگٹن | [illegible] | [illegible] | [illegible] | فرانسسکو | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | نیپال | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | روم | [illegible] | [illegible] | [illegible] | لندن | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | نیویارک | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

## لگن سپشٹ کرنے کی سارنی

| نام ماہ | بیساکھ | جیٹھ | ہاڑ | ساون | بھادوں | اسوج | کاتک | مگھر | پوہ | ماگھ | پھاگن | چیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لگن | میکھ | برکھ | متھن | کرک | سنگھ | کنیا | تلا | برچھک | دھن | مکر | کنبھ | مین |
| ۰ | ۲<br>۳۰ | ۱<br>۲۲ | ۱۱<br>۸ | ۱۶<br>۴۳ | ۲۲<br>۳۷ | ۲۸<br>۲۷ | ۳۴<br>۱۵ | ۴۰<br>۱۰ | ۴۵<br>۵۹ | ۵۱<br>۱۱ | ۵۵<br>۲۸ | ۵۹<br>۴ |
| ۱ | ۲<br>۳۷ | ۶<br>۳۴ | ۱۱<br>۱۸ | ۱۶<br>۵۳ | ۲۲<br>۴۸ | ۲۸<br>۳۹ | ۳۴<br>۲۵ | ۴۰<br>۲۲ | ۴۶<br>۱۰ | ۵۱<br>۲۱ | ۵۵<br>۳۶ | ۵۹<br>۱۱ |
| ۲ | ۲<br>۴۵ | ۶<br>۳۸ | ۱۱<br>۲۸ | ۱۷<br>۵ | ۲۳<br>۰ | ۲۸<br>۵۰ | ۳۴<br>۳۹ | ۴۰<br>۳۳ | ۴۶<br>۲۲ | ۵۱<br>۳۱ | ۵۵<br>۴۳ | ۵۹<br>۱۸ |
| ۳ | ۲<br>۵۳ | ۶<br>۴۴ | ۱۱<br>۳۸ | ۱۷<br>۱۴ | ۲۳<br>۱۲ | ۲۹<br>۱ | ۳۴<br>۵۰ | ۴۰<br>۴۵ | ۴۶<br>۳۲ | ۵۱<br>۴۱ | ۵۵<br>۵۳ | ۵۹<br>۲۵ |
| ۴ | ۲<br>۵۸ | ۶<br>۵۴ | ۱۱<br>۴۸ | ۱۷<br>۲۸ | ۲۳<br>۲۳ | ۲۹<br>۱۳ | ۳۵<br>۲ | ۴۰<br>۵۷ | ۴۶<br>۴۵ | ۵۱<br>۵۱ | ۵۶<br>۰ | ۵۹<br>۳۲ |
| ۵ | ۳<br>۶ | ۷<br>۲ | ۱۱<br>۵۸ | ۱۷<br>۴۰ | ۲۳<br>۳۴ | ۲۹<br>۲۵ | ۳۵<br>۱۴ | ۴۱<br>۹ | ۴۶<br>۵۷ | ۵۲<br>۱ | ۵۶<br>۸ | ۵۹<br>۳۹ |
| ۶ | ۳<br>۱۴ | ۷<br>۱۰ | ۱۲<br>۸ | ۱۷<br>۵۱ | ۲۳<br>۴۷ | ۲۹<br>۳۶ | ۳۵<br>۲۵ | ۴۱<br>۲۱ | ۴۷<br>۸ | ۵۲<br>۱۱ | ۵۶<br>۱۷ | ۵۹<br>۴۶ |
| ۷ | ۳<br>۱۸ | ۷<br>۱۸ | ۱۲<br>۱۸ | ۱۸<br>۳ | ۲۳<br>۵۸ | ۲۹<br>۴۸ | ۳۵<br>۳۷ | ۴۱<br>۳۳ | ۴۷<br>۲۰ | ۵۲<br>۲۱ | ۵۶<br>۲۵ | ۵۹<br>۵۳ |
| ۸ | ۳<br>۲۶ | ۷<br>۲۸ | ۱۲<br>۲۸ | ۱۸<br>۱۴ | ۲۴<br>۱۰ | ۳۰<br>۰ | ۳۵<br>۴۹ | ۴۱<br>۴۵ | ۴۷<br>۳۱ | ۵۲<br>۳۱ | ۵۶<br>۳۳ | ۶۰<br>۰ |
| ۹ | ۳<br>۳۴ | ۷<br>۳۸ | ۱۲<br>۳۹ | ۱۸<br>۲۴ | ۲۴<br>۲۲ | ۳۰<br>۱۱ | ۳۶<br>۱ | ۴۱<br>۵۶ | ۴۷<br>۴۱ | ۵۲<br>۳۹ | ۵۶<br>۴۰ | ۰<br>۶ |
| ۱۰ | ۳<br>۴۲ | ۷<br>۴۸ | ۱۲<br>۵۰ | ۱۸<br>۳۸ | ۲۴<br>۳۴ | ۳۰<br>۲۲ | ۳۶<br>۱۲ | ۴۲<br>۸ | ۴۷<br>۵۱ | ۵۲<br>۴۷ | ۵۶<br>۴۹ | ۰<br>۱۳ |
| ۱۱ | ۳<br>۵۱ | ۷<br>۵۹ | ۱۳<br>۳ | ۱۸<br>۵۰ | ۲۴<br>۴۵ | ۳۰<br>۳۴ | ۳۶<br>۲۳ | ۴۲<br>۱۹ | ۴۸<br>۱ | ۵۲<br>۵۵ | ۵۶<br>۵۳ | ۰<br>۲۰ |
| ۱۲ | ۳<br>۵۹ | ۸<br>[illegible] | ۱۳<br>۱۳ | ۱۹<br>۲ | ۲۴<br>۵۶ | ۳۰<br>۴۶ | ۳۶<br>۳۴ | ۴۲<br>۳۱ | ۴۸<br>۱۱ | ۵۳<br>۳ | ۵۷<br>۰ | ۰<br>۲۷ |
| ۱۳ | ۴<br>۷ | ۸<br>۱۸ | ۱۳<br>۲۵ | ۱۹<br>۱۳ | ۲۵<br>۱۹ | ۳۰<br>۵۸ | ۳۶<br>۴۸ | ۴۲<br>۴۲ | ۴۸<br>۲۱ | ۵۳<br>۱۱ | ۵۷<br>۶ | ۰<br>۳۴ |
| ۱۴ | ۴<br>۱۵ | ۸<br>۲۸ | ۱۳<br>۳۶ | ۱۹<br>۲۴ | ۲۵<br>۲۰ | ۳۱<br>۹ | ۳۶<br>۵۸ | ۴۲<br>۵۴ | ۴۸<br>۳۱ | ۵۳<br>۱۹ | ۵۷<br>۱۳ | ۰<br>۴۱ |
| ۱۵ | ۴<br>۲۳ | ۸<br>۳۸ | ۱۳<br>۴۸ | ۱۹<br>۳۶ | ۲۵<br>۳۲ | ۳۱<br>۲۱ | ۳۷<br>۱۲ | ۴۳<br>۶ | ۴۸<br>۴۱ | ۵۳<br>۲۷ | ۵۷<br>۲۱ | ۰<br>۴۸ |
| ۱۶ | ۴<br>۳۱ | ۸<br>۴۸ | ۱۴<br>۰ | ۱۹<br>۴۹ | ۲۵<br>۴۳ | ۳۱<br>۳۲ | ۳۷<br>۲۳ | ۴۳<br>۱۷ | ۴۸<br>۵۱ | ۵۳<br>۳۵ | ۵۷<br>۲۸ | ۰<br>۵۵ |
| ۱۷ | ۴<br>۳۹ | ۸<br>۵۸ | ۱۴<br>۱۲ | ۲۰<br>۱ | ۲۵<br>۵۵ | ۳۱<br>۴۳ | ۳۷<br>۳۵ | ۴۳<br>۲۹ | ۴۹<br>۱ | ۵۳<br>۴۳ | ۵۷<br>۳۵ | ۱<br>۲ |
| ۱۸ | ۴<br>۴۷ | ۹<br>۸ | ۱۴<br>۲۳ | ۲۰<br>۱۳ | ۲۶<br>۷ | ۳۱<br>۵۴ | ۳۷<br>۴۶ | ۴۳<br>۴۰ | ۴۹<br>۱۱ | ۵۳<br>۵۲ | ۵۷<br>۴۱ | ۱<br>۸ |
| ۱۹ | ۴<br>۵۵ | ۹<br>۱۸ | ۱۴<br>۳۵ | ۲۰<br>۲۵ | ۲۶<br>۱۸ | ۳۲<br>۸ | ۳۷<br>۵۹ | ۴۳<br>۵۲ | ۴۹<br>۲۱ | ۵۴<br>۰ | ۵۷<br>۴۹ | ۱<br>۱۵ |
| ۲۰ | ۵<br>۳ | ۹<br>۲۸ | ۱۴<br>۴۷ | ۲۰<br>۳۷ | ۲۶<br>۳۰ | ۳۲<br>۱۹ | ۳۸<br>۱۱ | ۴۴<br>۳ | ۴۹<br>۳۱ | ۵۴<br>۷ | ۵۷<br>۵۶ | ۱<br>۲۲ |
| ۲۱ | ۵<br>۱۱ | ۹<br>۳۸ | ۱۴<br>۵۸ | ۲۰<br>۴۹ | ۲۶<br>۴۲ | ۳۲<br>۳۱ | ۳۸<br>۲۳ | ۴۴<br>۱۵ | ۴۹<br>۴۱ | ۵۴<br>۱۵ | ۵۸<br>۳ | ۱<br>۲۹ |
| ۲۲ | ۵<br>۱۹ | ۹<br>۴۸ | ۱۵<br>۹ | ۲۱<br>۱ | ۲۶<br>۵۳ | ۳۲<br>۴۳ | ۳۸<br>۳۵ | ۴۴<br>۲۶ | ۴۹<br>۵۱ | ۵۴<br>۲۳ | ۵۸<br>۹ | ۱<br>۳۶ |
| ۲۳ | ۵<br>۲۷ | ۹<br>۵۸ | ۱۵<br>۲۱ | ۲۱<br>۱۳ | ۲۷<br>۵ | ۳۲<br>۵۴ | ۳۸<br>۴۷ | ۴۴<br>۳۸ | ۵۰<br>۱ | ۵۴<br>۳۲ | ۵۸<br>۱۶ | ۱<br>۴۳ |
| ۲۴ | ۵<br>۳۵ | ۱۰<br>۸ | ۱۵<br>۳۳ | ۲۱<br>۲۴ | ۲۷<br>۱۷ | ۳۳<br>۶ | ۳۸<br>۵۸ | ۴۴<br>۵۰ | ۵۰<br>۱۱ | ۵۴<br>۴۰ | ۵۸<br>۲۳ | ۱<br>۵۰ |
| ۲۵ | ۵<br>۴۳ | ۱۰<br>۱۹ | ۱۵<br>۴۴ | ۲۱<br>۳۶ | ۲۷<br>۲۹ | ۳۳<br>۱۸ | ۳۹<br>[illegible] | ۴۵<br>[illegible] | ۵۰<br>۲۱ | ۵۴<br>۴۸ | ۵۸<br>۳۰ | ۱<br>۵۷ |
| ۲۶ | ۵<br>۵۱ | ۱۰<br>۲۸ | ۱۵<br>۵۶ | ۲۱<br>۴۸ | ۲۷<br>۴۰ | ۳۳<br>۲۹ | ۳۹<br>۲۱ | ۴۵<br>۱۳ | ۵۰<br>۳۱ | ۵۴<br>۵۶ | ۵۸<br>۳۷ | ۲<br>۳ |
| ۲۷ | ۵<br>۵۹ | ۱۰<br>۳۸ | ۱۶<br>۶ | ۲۲<br>۰ | ۲۷<br>۵۲ | ۳۳<br>۴۱ | ۳۹<br>۳۳ | ۴۵<br>۲۳ | ۵۰<br>۴۱ | ۵۵<br>۴ | ۵۸<br>۴۴ | ۲<br>۱۰ |
| ۲۸ | ۶<br>۷ | ۱۰<br>۴۸ | ۱۶<br>۱۹ | ۲۲<br>۱۲ | ۲۸<br>۳ | ۳۳<br>۵۳ | ۳۹<br>۴۴ | ۴۵<br>۳۴ | ۵۰<br>۵۱ | ۵۵<br>۱۲ | ۵۸<br>۵۱ | ۲<br>۱۷ |
| ۲۹ | ۶<br>۱۴ | ۱۰<br>۵۸ | ۱۶<br>۳۰ | ۲۲<br>۲۴ | ۲۸<br>۱۵ | ۳۴<br>۴ | ۳۹<br>۵۶ | ۴۵<br>۴۶ | ۵۱<br>۱ | ۵۵<br>۲۰ | ۵۸<br>۵۷ | ۲<br>۲۳ |

**طریقہ۔** جس مہینہ کی جس تاریخ کو لگن دیکھنا ہو۔ اس کو اوپر کی جدول میں دیکھو۔ اوپر کے سرے سے مہینہ اور دائیں طرف سے تاریخ دیکھو دونو جس خانہ میں ملیں اس میں جو ہندسہ لکھا ہے اس کو لکھ لو اور اس کے نیچے وقت کی گھڑی پل لکھ کر دونوں کو جمع کرو۔ جو حاصل ہو اس کو سارنی میں تلاش کرو۔ جہاں پر ملے اس کے اوپر جو لگن لکھا ہے اس وقت وہ لگن ہوگا۔ اور دائیں طرف جو درج ہے اتنے انش اس کے گذر چکے ہونگے۔ مثلاً ماہ بھادوں کی ۲۰ تاریخ کو ۲۳ گھڑی ۱۵ پل پر دیکھنا ہے کہ اس وقت کون لگن ہے۔ پس اوپر سے ماہ بھادوں اور دائیں تاریخ سے ۲۰ کا خانہ دیکھا تو دونوں کا ملان کیا تو ۲۶-۳۰ ملے۔ ان کے نیچے اپنا وقت ۲۳-۱۵ لکھ کر جمع کیا۔ تو ۴۹-۴۵ ہوا اس کو سارنی میں تلاش کیا تو مکر کے نیچے پہلی سطر میں ملا۔ پس معلوم ہوا کہ اس وقت مکر لگن شروع ہوا ہے۔ پس اسی طرح ہر ایک لگن کو دیکھ لو۔

# خواب اور اس کی تعبیر

| قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ | قسم خواب | نتیجہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انگشتری پہننا | عورت حسین سے وصل ہو | سبز زمین دیکھنا | عمر درازی و نفع ہو | ترکاری سبز دیکھنا | ندامت ہو | جانور پکڑنا | کوئی نیا کام شروع کرے | حج کرنا | حصول مدعا ہو | دروازہ گرتے دیکھنا | خانہ داری کی خرابی |
| آسمان کی طرف اڑنا | سفر دراز ہو | بلبل دیکھنا | حاکم سے میل جول ہو | تیل پینا | مرض شدید ہو | [illegible] | حکومت ملے | حجامت بنوانا | کسی فکر کی دلیل ہے | درخت میوہ دار دیکھنا | [illegible] |
| آسمان سے گرنا | خرابی اور تنزلی ہو | بھینس دیکھنا | کوئی مصیبت پڑے | توپ دیکھنا | دشمن [illegible] | چو کھیلنا | کسی تشویش کار | تلوار کو دیکھنا | نیک لڑکا پیدا ہو | درخت سرسبز دیکھنا | عزت و مرتبہ بڑھے |
| غذا شیریں کھانا | دولت سے مالامال ہو | بٹیر یا دیکھنا | حاکم سے خوف ہو | تل چبانا | کوئی الزام بہتان ہو | بچھونا دیکھنا | بیماری ہو | حرام کرنا | ذلت ہو | دودھ پینا | زر ملے |
| انار کا پانا | زر و مال ہاتھ آئے | بادام کھانا | زر و مال ہاتھ لگے | تیر چلانا | دل مراد بر آئے | چراغ روشن دیکھنا | اولاد صالح پیدا ہو | حلوہ دیکھنا | درازی عمر ہو | دودھ [illegible] | [illegible] |
| اونٹ دیکھنا | دولت کا فائدہ ہو | بادشاہ کو مردہ دیکھنا | لمبی بیماری سے نجات ہو | ابر سیاہ دیکھنا | عمر دراز ہو | چھپکلی [illegible] دیکھنا | رتبہ بلند ہو | عمارت گرتی دیکھنا | حیرانی و پریشانی ہو | دودھ [illegible] پینا | غم اور رنج [illegible] |
| اونٹ پر سوار ہونا | امراض کہنہ کی آمد | بیضہ مرغ کھانا | لڑکا ہو رنج دور ہو | تخت دیکھنا | راحت اور بلندی | چاند دیکھنا | زندگی حاصل ہو | حقہ پینا | حصول دولت ہو | دانت گرتے دیکھنا | درازی عمر کی دلیل |
| آفتاب دیکھنا | کسی امیر کبیر سے ملاقات | بال سر سفید دیکھنا | درازی عمر کی [illegible] | تخت پر بیٹھنا | کامیابی اور ترقی | چاند نکلتے دیکھنا | رنج و تکلیف ہو | حلوہ کھانا | لڑکا کا نقصان ہو | دہی کھانا | سفر پیش آئے |
| آگ میں کچھ پکانا | کاروبار میں نفع | [illegible] دیکھنا | عزت زیادہ ہو | تنبو تنانا | سامان اور ترقی کی دولت | چاند گرہن دیکھنا | کسی گرانی سے [illegible] | حکیم کا دیکھنا | جسمانی تکلیف ہو | دیوانہ کو دیکھنا | نوکری [illegible] ترقی ہو |
| آنکھوں میں سرمہ لگانا | بیماری تکلیف دور ہو | پہاڑ پر چڑھنا | مرتبہ بلند ہو | تھوک دینا | حیرانی و پریشانی ہو | چیل دیکھنا | رنج و فکر ہو | حرم سرا دیکھنا | وصال معشوق ہو | دوائی پینا | صحت بیمار ہو |
| آسمان پر چڑھ دیکھنا | کسی ترقی روزگار ہو | پہاڑ سے گر پڑنا | ترقی جاہ و جلال ہو | تیتر دیکھنا | بندہ اقبال انسانی | چیونٹی دیکھنا | مصیبت پیش آئے | خاک برسنا | زر مال کا فائدہ ہو | دشمن دیکھنا | فرزند پیدا ہو |
| آب رواں دیکھنا | ہر کام میں نیکنامی ہو | پہاڑ ہلتے دیکھنا | ریاست یا بادشاہت | تکیہ پانا | زندگی کی نشانی | [illegible] دیکھنا | رنج و پریشانی | خوشبو کسی [illegible] پانا | سفر [illegible] ہو | دشمن دیکھنا | ترقی کی دلیل ہے |
| آسمان دیکھنا | رتبہ میں ترقی ہو | پاخانہ جسم سے لگے دیکھنا | دولت کا مہیا ہو | تبسم کرنا | مرض پیش آئے | چکی دیکھنا | مصیبت میں پھنسنا | خرما دیکھنا | علم و ہنر حاصل ہو | داڑھی کٹی دیکھنا | عزت کی [illegible] |
| آسمان سیاہ دیکھنا | کسی امیر کبیر سے ملاقات | پاخانہ کھانا | دولت ہاتھ آئے | تار کھینچنا | پریشانی ہو | چادر اوڑھنا | عورت خوبصورت حاصل | خرما کھانا | [illegible] رزق ہو | رات اندھیری دیکھنا | گرفتاری میں مبتلا ہو |
| آگ اٹھا لینا | مفت کا مال ملے علاوہ خرچ ہو جائے | پاؤں زمین پر مارنا | مصیبت [illegible] | تعویذ لینا | مصیبت میں پھنسنا ہو | چاندی دیکھنا | مال [illegible] ملے | خربوزہ دیکھنا | نعمت ملے | روٹی دیکھنا | فراخی کا [illegible] |
| آسمان ابر چھایا دیکھنا | کسی مشکل میں پھنسنا | پتھر کا ستون دیکھنا | پریشانی ہو | تاریک جگہ دیکھنا | مصیبت پیش آئے | چاند [illegible] دیکھنا | غم سے رہائی ہو | خربوزہ کھانا | مال و دولت ملے | دال دیکھنا | عورت سے وصل ہو |
| اسپ سوار دیکھنا | مرتبہ بلند ترقی روزگار | بادل دیکھنا | سفر پیش آئے | تربوز کھانا | رنج و تکلیف پیش آئے | چکور دیکھنا | عورت سے ملاپ ہو | خربوزہ کا کھیت دیکھنا | فرزند [illegible] اقبال ہو | رشتہ دار دیکھنا | [illegible] |
| [illegible] کرنا | رتبہ سے معزول ہو | پائجامہ پہننا | حصول علم سے ترقی | تالاب میں نہانا | عزت بڑھے | چاندی لینا | [illegible] میں رزق ہو | [illegible] پر سوار ہونا | [illegible] | رشوت کھانا | [illegible] کی دلیل |
| آندھی آتا دیکھنا | سفر و رنج پیش آئے | [illegible] کرنا | عورت [illegible] تو مرد کو رنج ہو | جلاد دیکھنا | سفر دور [illegible] آئے | چارپائی پر سونا | [illegible] فائدہ ہو | [illegible] گوشت کھانا | مال حرام ملے | ریچھ دیکھنا | [illegible] |
| آم کھانا | تونگر [illegible] | پھول دیکھنا | عشق محبت میں مبتلا ہو | جھاڑ پر چڑھنا | جگہ تبدیل کرے | [illegible] دیکھنا | [illegible] ہو | [illegible] پینا | حیرانی [illegible] | رسی کو [illegible] دینا | [illegible] |
| آئینہ میں منہ دیکھنا | [illegible] | پنجرہ دیکھنا | [illegible] | جھنڈا سبز دیکھنا | مشکل پیش آئے | چیتا دیکھنا | حکومت ملے | خرگوش پر سوار ہونا | [illegible] | ریت [illegible] | دشمنی [illegible] |
| آگ جلتی ہوئی دیکھنا | [illegible] | پردہ دار دیکھنا | حاکم سے ملاقات ہو | جھنڈا سفید دیکھنا | راستہ باز ہو | [illegible] دیکھنا | [illegible] | خون پینا | مال حرام [illegible] | رانگ دیکھنا | [illegible] |
| انگوٹھی فروخت کرنا | عورت سے جدائی ہو | پستان دیکھنا | عورت [illegible] مرد [illegible] | جنگل سرسبز دیکھنا | خوشی اور راحت ہو | چاول کھانا | رنج دور ہو | خنجر دیکھنا | بلندی مرتبہ ہو | روئی دیکھنا | دولت ملے |
| بلند جگہ سے گرنا | تنزلی و حیرانی ہو | [illegible] | [illegible] | جنگل خشک دیکھنا | حیرانی اور پریشانی ہو | چاہ دیکھنا | فکر و حیرانی ہو | خرگاہ دیکھنا | حصول [illegible] ہو | روٹی کھانا | [illegible] |
| بازو [illegible] دیکھنا | برادر کا انتقال [illegible] | پیاس لگنا | حرص زیادہ ہو | جنگل میں دوڑنا | مصیبت سے رہائی ہو | چاہ میں گرنا | مشکل پیش آئے | خر کی سواری کرنا | رنج [illegible] | رہزن کو دیکھنا | [illegible] |
| باغ سرسبز دیکھنا | خوشحالی و فرحت ہو | پانی پینا | کشائش روزگار ہو | جنازہ دیکھنا | بیماری سے صحت | چھینکیں مارنا | مصیبت پیش آئے | خانہ تاریک دیکھنا | افلاس کی [illegible] | [illegible] دیکھنا | غم و فکر ہو |
| باغ خشک دیکھنا | رنج و فکر کی نشانی | پوری کھانا | طبیعت خوش رہے | جوڑا تنگ پہننا | عورت سے جھگڑا ہو | [illegible] دیکھنا | [illegible] سے وصل | خاک کھانا | ذلیل ہو | رقاص دیکھنا | تجارت میں [illegible] |
| برات دیکھنا | عورت [illegible] مرد [illegible] | [illegible] دیکھنا | عورت خوبصورت [illegible] | جھنڈا سرخ دیکھنا | راحت اور خوشی ہو | حوض دیکھنا | دولت ملے | خطبہ پڑھنا | بزرگی ملے | رعد دیکھنا | حاکم سے نقصان |
| بارش دیکھنا | غلہ ارزاں ہو | [illegible] دیکھنا | دوست سے ملاقات ہو | جونک دیکھنا | بیماری سے نجات ہو | حوض کا پانی پینا | مال و نعمت ہاتھ آئے | خون میں لوٹنا | [illegible] | روشنی دیکھنا | ترقی نسل ہو |
| بال [illegible] دیکھنا | قرضہ سے سبکدوشی | پل پر چلنا | [illegible] | جواہرات دیکھنا | حصول مراد ہو | حوض میں غسل کرنا | رنج و تکلیف ہو | خفا ہونا | خوشی کا [illegible] | رنگ بھرنا | جسم [illegible] |
| برف گرتے دیکھنا | موسم خراب ہو | پان کھانا | کسی [illegible] وصل ہو | [illegible] دیکھنا | حکومت ملے | حمام میں غسل کرنا | رنج و فکر دور ہو | دریا سے پانی پینا | [illegible] | رکابی دیکھنا | [illegible] |
| بانسری بجانا | پریشانی و حیرانی ہو | پانی میں غرق ہونا | [illegible] | جھاڑو دینا | فضول خرچ ہو | حمام بنانا | عیش کی علامت | دریا میں نہانا | [illegible] | [illegible] کرنا | مشکل [illegible] |
| [illegible] دیکھنا | [illegible] پیش آئے | [illegible] کو دیکھنا | رنج و غم پیش آئے | جماع کرنا | زر و مال حاصل ہو | حاکم کو دیکھنا | عزت کی دلیل ہے | دریا سے پار ہونا | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| بیل موٹا دیکھنا | غلہ ارزاں ہو | [illegible] | حیرانی ہو | جماع کرانا | [illegible] | حمام [illegible] دیکھنا | [illegible] | دریا کی لہریں | فکر و تشویش ہو | زمین [illegible] | [illegible] |
| بیل دبلا دیکھنا | غلہ گراں ہو | [illegible] | [illegible] | جنگ کرنا | [illegible] | حمام میں پیشاب کرنا | [illegible] | دریا کو [illegible] دیکھنا | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| بال بچہ [illegible] دیکھنا | زوال [illegible] نقصان | [illegible] | دشمن پر فتح ہو | جنگ میں قتل ہونا | [illegible] | عید دیکھنا | خوشی حاصل ہو | دروازہ دیکھنا | [illegible] | زمین میں [illegible] | [illegible] |
| [illegible] بچہ دیکھنا | عمر [illegible] رنج ہو | [illegible] | [illegible] | جامن کھانا | تکلیف [illegible] ہو | حلوہ کھانا | حصول علم [illegible] | دیوار سے گرنا | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# علم کیرل کے ذریعہ سوالات کے جوابات

## اولاد کیوں نہیں ہوتی

اگر کوئی شخص یہ دریافت کرے کہ فلاں مرد و عورت کے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی اور دونوں میں سے نقص کس میں ہے۔ تو چاہیئے کہ مرد کے نام کے اعداد نکال کر جمع کرے اور مجموعہ کو ۹ پر تقسیم کر دیں۔ اگر باقی طاق عدد بچیں تو عورت میں نقص ہے۔ اور اگر جفت باقی رہیں تو آدمی میں نقص ہے۔ اس سے اس کا علاج کروانا چاہیئے۔

## فتح و شکست کا سوال

اگر کوئی دریافت کرے کہ فلاں مقابلہ کشتی یا لڑائی جھگڑا یا مقدمہ میں کون کامیاب ہوگا۔ تو چاہیئے کہ بروقت سوال یوم۔ تتھ۔ نچھتر کا شمار جمع کرے اور جس قدر گھڑی دن گذر چکا ہو وہ بھی اس میں شامل کرے۔ اور سورج اور چندرماں کے نچھتروں کے باہمی فرق کے عددوں کو بھی اس میں ملائے بعد ازاں کل مجموعہ کو ۷ پر تقسیم کر دے۔ اگر ۱ یا ۳ باقی رہیں۔ تو دریافت کنندہ کامیاب ہوگا۔ اگر ۴ یا ۶ باقی رہیں۔ تو مقابل والا کامیاب ہو۔ اگر ۲ یا ۵ رہیں۔ تو باہمی صلح ہو جاوے۔ اگر کچھ باقی نہ رہے۔ تو کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکلیگا۔

## پردیس گیا ہوا آدمی کب واپس آئیگا؟

اگر کوئی شخص دریافت کرے کہ پردیس گیا ہوا شخص کب واپس آویگا تو چاہیئے کہ وقت دریافت جو تتھ ہو اس کا شمار اور اس روز کے نچھتر کا شمار کر کے دونوں کو جمع کرے۔ اور مجموعہ کو ۷ پر تقسیم کرے۔ اگر ایک بچے تو ابھی وہاں پر ہی مقیم ہے۔ اگر ۲ رہیں۔ تو ایک جگہ اس کا قیام نہیں ہے۔ اگر ۳ رہیں تو راستہ میں ہے۔ اگر ۴ رہیں تو آنے والا ہی ہے۔ اگر ۵ رہیں۔ تو جلد آویگا۔ لیکن قیام نہ کریگا۔ اگر ۶ رہیں تو وہاں بیمار ہے۔ اگر صفر بچے تو ابھی اس کے آنے میں بہت دیری ہے۔

## کیا ملاقات ہوگی؟

اگر کوئی شخص دریافت کرے کہ فلاں شخص سے ملاقات ہوگی۔ تو چاہیئے کہ بروقت دریافت کے تتھ۔ نچھتر و یوگ کا شمار معلوم کر کے سب کو جمع کرے اور اس مجموعہ میں مطلوب کے نام کے حروف کو شمار کر کے اس میں جمع کرے اور اس مجموعہ کو الگ لکھ لے پھر اپنے نام کے حروف کا شمار کرے اور مجموعہ اول کو اس سے تقسیم کرے۔ اگر طاق عدد باقی بچے۔ تو ہرگز ملاقات کی امید مت رکھو اگر جفت بچے تو ملاقات ہوگی۔ پھر خارج قسمت کو ۷ پر تقسیم کرو۔ اگر ایک بچے تو راستہ چلتے چلتے ملاقات ہوگی۔ اگر ۲ بچیں تو جلد باہم گفتگو ہو۔ اگر ۳ رہیں تو وہ شخص خود تم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن کسی کے خوف سے نہیں ملتا۔ اگر ۴ بچیں تو فضول کوشش کرتے ہو ملاقات نہ ہوگی۔ اگر ۵ رہیں تو عنقریب تم کو ملاقات کا پیغام ملیگا۔ اگر ۶ رہیں تو وہ شخص صرف مطلب پرست ہے۔ دلی محبت تم سے نہیں رکھتا اگر کچھ باقی نہ رہے۔ تو خیال چھوڑ دو۔ وہ ہرگز تم سے ملنا نہیں چاہتا۔

**نوٹ**۔ علم کیرل کا مفصل رسالہ جس میں اس علم کے تمام اصول و قواعد درج ہیں۔ قیمت دس آنے (۱۰؍)

مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے مل سکتا ہے۔

# علم جوتش

سلسلہ کے لئے دیکھو مشہور عالم جنتری سنہ ۱۹۳۵ء صفحہ نمبر ۵۲

## کنبھ راشی میں مفرد گرہے کا ثمرہ

اگر سورج پڑا ہو۔ تو جھوٹ کا پتلا سب سے عداوت رکھنے والا فتنہ انگیز میلا پوش ہو

اگر چندرماں پڑا ہو تو آلسی سست الوجود دلدری کم عقل دشمن اس کے ہمیشہ زیر رہیں۔

اگر منگل پڑا ہو تو اولاد سے رنجش۔ شریر روگی۔ خویشوں سے عداوت رکھے۔

اگر بدھ پڑا ہو تو کم عقل نیکی سے کنارہ کش گھر کے لوگوں سے کلیش رکھے۔

اگر برہسپت پڑا ہو۔ تو مفلس بے مروت کھوٹے کرم کرے۔ ہمیشہ بیمار رہے۔

اگر شکر پڑا ہو تو نامرد۔ دلدری سست الوجود میلا پوش نیکی کے کام نہ کرے۔

اگر سنیچر پڑا ہو۔ تو زناہ کار۔ کھوٹے کرم کرنے والا۔ دشمنوں سے نقصان۔ خیالات فاسد رکھے۔

## کنبھ راشی میں مجمل گرہوں کا ثمرہ

(۱) سورج میکھ کا چندرماں برکھ کا اور سنیچر کنبھ کا ہو تو صاحب ملک الملک عالی مرتبہ ہو

(۲) چندرماں اور سورج کنبھ راشی میں ہوں سست الوجود دلدری کم عمر ہو۔

(۳) اگر منگل چندرماں کنبھ میں ہوں۔ تو وہ بھی بے ہمت لوگوں کی بدگوئی کرنے والا ہو۔

(۴) اگر بدھ و شکر کنبھ میں ہوں۔ تو ہمیشہ گھر والوں سے الگ رہے۔ عورت سے محبت نہ ہو۔

(۵) اگر راہو کنبھ میں یا مکر میں اور لگن سے آٹھویں سنگھ راشی کا چندرماں ہو۔ تو اس کا سر پھٹ جاوے۔

## مین راشی میں مفرد گرہے کا ثمرہ

اگر سورج پڑا ہو۔ تو دوستوں سے آرام پاوے تجارت کے کاموں میں نام پاوے

اگر چندرماں پڑا ہو تو بڑا عالم۔ فاضل ہنرمند۔ عورتوں سے پرہیز رکھے۔

اگر منگل پڑا ہو تو بڑا زناہ کار بے رحم فضول عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہے

اگر بدھ پڑا ہو۔ تو دھرم کے کاموں میں دل لگائے۔ اونچی ذات کی عورتوں سے سنگت کرے۔

اگر برہسپت پڑا ہو۔ تو خوش مزاج۔ سخی۔ شہوت پرست حاکم ہو۔

اگر شکر پڑا ہو۔ تو راج دربار میں مرتبہ بلند عیش و عشرت میں سرگرداں۔ دشمن زیر ہوں۔

اگر سنیچر پڑا ہو۔ تو ہنرمند نرم مزاج غافل سب سے محبت کرنے والا اور تاجر ہو۔

## مین راشی میں مجمل گرہوں کا ثمرہ

سورج اور چندرماں دونوں مین راشی میں ہوں تو بڑا پرتابی۔ صاحب اقبال ہو۔ اگر سورج چندرماں مین کے ہوں۔ اور پاپی گرہوں کی ان پر درشٹی ہو۔ تو اس کا والد پانی میں ڈوب کر مرے۔

## نوٹ

اگر جنم کنڈلی دیکھنے کیلئے مفصل اصول و قواعد دیکھنے ہوں۔ تو رسالہ سر رشتہ قسمت قیمتی ۸؍ مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوالو۔ اس رسالہ میں تمام گرہوں کے مفرد و مجمل پھلادیش ہر ایک گھر کے الگ الگ نہایت مفصل و بالتشریح درج کئے گئے ہیں۔

# پچیس ۲۵ سال کی پیشینگوئیاں

### مصنفہ پنڈت گردھاری لعل منجم و جفار سیالکوٹی

یہ نادر و نایاب کتاب پنڈت صاحب نے اپنی زندہ یادگار ۱۹۱۱ء میں تیار کی تھی۔ اور اس میں ۱۹۰۱ء سے لیکر ۱۹۵۰ء تک کی مختصر جنتری اور ہر سال کی مفصل پیشینگوئی درج کرکے اس کا نام پچاس سالہ پیشینگوئیاں رکھا تھا۔ یہ پچاس سالہ پیشینگوئیاں ایسی مقبول عام اور ہر دلعزیز ہوئیں۔ کہ طبع ہونے کے تھوڑے ہی عرصہ میں قدر دانوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیں۔ اور ہزاروں لوگ اس گوہر نایاب کیلئے ترستے رہے۔ روزانہ سینکڑوں فرمائشی خطوط ردی میں ڈالنے پڑے۔ شائقینوں کی بڑھی ہوئی خواہش کو دیکھ کر اب ہم نے دوبارہ اس کو چھپوایا ہے صرف اس میں اس قدر ترمیم کردی ہے۔ کہ بجائے پچاس سال کے پچیس سال چھاپے گئے ہیں۔ یعنی ۱۹۰۱ء سے لیکر ۱۹۲۵ء تک کا حصہ الگ کردیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ سال گزر چکے ہیں۔ اب ۱۹۲۶ء سے لیکر ۱۹۵۰ء تک کا مضمون اس میں درج کیا گیا ہے۔ اس کی تعریف کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ سارا زمانہ اس کا شیدا ہو رہا ہے ہم صرف اس قدر بتلا دیتے ہیں۔ کہ اس میں ہر سال کی عیسوی ہجری فصلی اور بکرمی مہینوں کی تاریخیں ہر روز کی تتھ مع گھڑی پل ہر سال کے تہوار۔ گرہن۔ راجہ۔ منتری وغیرہ کا پھل اور ہر سال کی پیشینگوئیاں ارضی و فلکی بابت ارزانی و گرانی غلہ بارش دنیا کا رنج و راحت ملکی حالات وغیرہ وغیرہ کی مفصل پیشینگوئی ہر سال کی الگ الگ درج ہے۔ پس اس کی ایک جلد منگوا کر آپ ۱۹۵۰ء تک تمام دنیا میں آنیوالے واقعات سے خبردار ہو جائیے۔ قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ

(نہایت خوبصورت کپڑے کی جلد بندھی ہوئی ہے)

# تحفہ نایاب

## طلسم حل المشکلات

طلسمات کے شائقینوں! زمانہ گذشتہ کے حکماؤں کے ایجاد شدہ طلسموں کی خوبیاں سن کر حیرت زدہ ہونا پڑتا ہے۔ گو زمانہ کے انقلاب کے وہ سب نایاب ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ شعاع امید باقی ہے۔ اور ابھی ہندوستان جنت نشان میں ایسے ایسے عامل کامل موجود ہیں۔ جو اپنی روحانی طاقت سے دنیا کو زیر و زبر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عامل کامل کا عطا کردہ طلسمی تعویذ آپ کے پیش نظر ہے۔ جو حسب ہدایت تیار کرکے چاندی کے تعویذ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھیگا۔ اس کی برکت سے اسکی تمام دنیاوی مشکلات حل ہو جاوینگی۔ مقدمات میں فتح ہوگی۔ دشمن بھی دوست ہو جاوینگے حاکم مہربان ہونگے۔ روزگار کشادہ ہوگا۔ دولت کی ترقی ہوگی۔ راج دربار میں عزت بڑھیگی۔ دنیا میں مرتبہ بڑھیگا۔ اس طلسم کی موجودگی میں کسی طرح کا آسیب۔ سایہ جن۔ بھوت۔ شیطان نزدیک نہ آئیگا۔ بچوں کے گلے میں ڈالنے سے ہر طرح کی نظر بد اور امراض مہلکہ سے محفوظ رہینگے مستورات اپنے پاس رکھینگی۔ تو ہر طرح سے محفوظ رہینگی۔ بحالت حمل اس طلسم کے پاس ہونے سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہوگا۔ اس نادر و نایاب طلسم کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ عہ

## بھوتوں کا استاد

یہ ایک پہاڑی بوٹی ہے۔ جو کہ کوہ ہمالیہ کے دشوار گذار علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اگر خاص وقت پر حاصل کیا جاوے تو اس کی یہ تاثیر ہے۔ کہ اس کی دھونی سے سایہ جن و بھوت پریت کوسوں بھاگتے ہیں۔ شیر خوار بچوں کو اس کی دھونی دینے سے وہ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ حاملہ مستورات کی تو محافظ جان ہے۔ دوسرے چوتھے روز اس کی دھونی لیں۔ اور تھوڑی سی پاس رکھیں۔ تو ہر قسم کے خطرات سایہ آسیب سے محفوظ رہینگی ہم نے بڑی کوشش سے یہ بوٹی خاص وقت میں تھوڑی سی مقدار میں حاصل کی ہے۔ اس لئے ضرورت مند اصحاب جلد منگوالیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ فی تولہ ہے۔ جو مدت تک کافی ہے۔

## موہنی دھوپ

یہ دھوپ منتر و دیا کے ذریعہ خاص ادویات۔ خاص وقت پہ ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ اس کی دھونی حسب ترکیب جس عورت یا آدمی کو دوگے وہ تمہاری محبت میں دیوانہ ہوگا۔ اور از حد الفت کریگا۔ وشی کرن کے شوقین جلد منگوالیں + قیمت فی چھٹانک آٹھ آنے (۸؍)

ملنے کا پتہ:- **مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

# علم جوتش کی بےنظیر رمل کی دلپذیر و طلسمات کی پرتاثیر نادر و نایاب کتابیں

## مصنفہ و مرتبہ پنڈت گردھاری لعل صاحب منجم و جفار سیالکوٹی مصنف مشہور عالم جنتری لاہور

مہربان قدردانو! علم راز کے مندرجہ ذیل کتب کو مصنف نے ایسا مدلل اور با تشریح لکھا ہے۔ اور ان اصول سے مخفی اصولوں کو ایسا آسان طور پر حل کرکے دکھلایا ہے کہ جن کے مطالعہ سے ہر شخص علم جوتش و رمل میں کامل مہارت حاصل کرسکتا ہے۔ ان میں کوئی ایسی بات درج نہیں کی گئی۔ جس کے سیکھنے کے لئے آپ دوسروں کے محتاج ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ معزز احباب نے ان کو بہت پسند کیا۔ عوام میں ان کی بڑی بھاری تعریف ہورہی ہے۔ ہندوستان کے مشہور اخبارات نے ان کتابوں پر عمدہ ریمارک لکھے ہیں۔ مبتدیوں کے لئے یہ کتابیں استاد کامل کا کام دیتی ہیں۔ ہزاروں آدمی ان کتابوں کی بدولت علم جوتش وغیرہ سے پورے واقف ہوچکے ہیں۔ ہر ایک کتاب کئی کئی مرتبہ چھپکر فروخت ہوگئی ہے۔ پس اگر آپ کو ان علم کے مطالعہ کا شوق ہے۔ تو فوراً ان کو خرید کر فائدہ اٹھائیں۔ محصول ڈاک وغیرہ سب ذمہ خریدار ہے۔

## علم جوتش کی نادر کتابیں

### علم جوتش کا قاعدہ

ہم نے مبتدیوں کی آسانی کے لئے نہایت محنت و کوشش سے یہ رسالہ تیار کیا ہے۔ اس میں علم جوتش کی تمام ابتدائی موٹی موٹی باتیں درج کی گئی ہیں جس سے معمولی لکھا پڑھا بھی علم جوتش کے ابتدائی مراتب سمجھ جاتا ہے۔ قیمت ۸ر

### علم جوتش کی پہلی کتاب

اس میں تتھیوں۔ نچھتروں کے خواص تمام قسم کے یوگوں کے پھل۔ کنڈلی کے بارہ گھروں کا بیان اور پھلا دیش۔ گرہوں کا جسم انسانی کے ہر حصہ پر اثر تاثیرات اور کئی طرح کے کارآمد مضامین جن کی مبتدیوں کو ضرورت رہتی ہے۔ درج ہیں۔ قیمت صرف دس آنے (۱۰ر)

### سرشتہ قسمت

یہ ہم باستھ رسالہ ہے۔ جس کا مضمون انسانی قسمت کا فوٹو ہے۔ اس رسالہ کے ذریعہ ہر ایک شخص کی جنم کنڈلی یعنے زائچہ پیدائش دیکھ کر اس کی تمام عمر کے حالات معلوم ہوسکتے ہیں۔ اس میں گرہوں کے مفرد و مرکب پھلا دیش اس خوبی سے درج کئے گئے ہیں۔ کہ جس سے ہر ایک شخص جنم کنڈلی کو دیکھ کر انسان کی قسمت کا فوٹو کھینچ سکتا ہے۔ معزز احباب کی فرمائش سے بڑی محنت و کوشش سے یہ رسالہ عام فہم بنایا گیا ہے۔ باایں ہمہ خوبی اسکی قیمت صرف ایک روپیہ [illegible]

### آئینہ حیات حصہ اول و دوم

انسانی عمر یعنی جنم پتری تیار کرنے اور واقعات رنج و راحت دیکھنے کے لئے یہ دو رسالہ جات قابل دید ہیں۔ حصہ اول میں جنم پتری بنانے کا مفصل طریقہ اور حصہ دوم میں گرہوں کی حالتیں جن میں وہ کبھی ناچتے کبھی کھیلتے کبھی سوتے ہیں اسی طرح تمام حالتیں نکالنے کے اصول اور ان کا نیک و بد ثمرہ درج کیا گیا ہے۔ غرضیکہ جنم پتری تیار کرنے کے لئے یہ ہر دو رسالہ جات مکمل ہیں۔

قیمت حصہ اول ۱۲ر حصہ دوم ۱۰ر ہر دو حصہ مجلد عہ

### آئینہ تقدیر حصہ اول

علم جوتش کے معتقدو۔ یہ رسالہ آپ کو جوتشیوں کا استاد بنا سکتا ہے۔ لیجئے۔ آپ کی خاطر جنم کنڈلی سے ورش پھل تیار کرنے کا مفصل رسالہ آپ کی نذر ہے جس کے اصول و قواعد کو پڑھ کر آپ خود بخود اپنا ورش پھل تیار کر لیں گے۔ بلکہ تمام سال کی دشا انتر دشا لکھ کر سال بھر کے حالات رنج و راحت آئینہ کی طرح معلوم کر لیں گے۔ اور جوتشیوں کے سالانہ بلوں سے بچ جائیں گے۔ قیمت آٹھ آنہ ۸ر

**حصہ دوم** اس رسالہ کے حصہ دوم میں ورش کنڈلی کے گرہوں کے پھل یعنے اجتماع قران سیارگان سے سال بھر کے احکام نکالنے کا مفصل بیان درج ہے۔ قیمت آٹھ آنہ ہر دو حصہ اکٹھے مجلد ایک روپیہ (عہ)

### مخبر آسمانی حصہ اول

آسمانی علامات اور گردش کواکب کو دیکھ کر اگر آپ تمام سال کے حالات رنج و راحت۔ ابر و باراں۔ ارزانی و گرانی اجناس و بیماری وغیرہ کی نسبت پیشگوئی کرنا چاہو۔ تو اس رسالہ مخبر آسمانی کو منگالو۔ واقعی یہ رسالہ اسم بامسمی ہے۔ جو کہ آپ کو تمام دنیا کے حالات سے قبل از وقت خبر دیگا۔ قیمت صرف بارہ آنے ۱۲ر

### کلید جوتش

یہ گنت ودیا یعنی علم ریاضی کی بےنظیر کتاب ہے جس کے ذریعہ آپ ہر سال کے تتھ و نچھتر۔ یوگ بمعہ گھڑی و پلوں بلا امداد دیگرے خود بخود نکال سکتے ہیں علاوہ اس کے جنتری بنانے کے متعلق بہت سی باتیں اس میں درج ہیں۔ جن کو ہر ایک شخص بآسانی حل کرسکتا ہے۔ اس کی قیمت صرف آٹھ آنہ ہے۔ (۸ر)

### رسالہ علم کیرل

علم راز کا ایسا بےنظیر رسالہ ہے۔ اس کا عامل دریافت کنندہ سے کسی پھل۔ پھول۔ ندی یا دیوتا کا نام کہلوا کر اس کے نیک و بد حالات اور کارج سدھ یا اسدھ ہونے کی بابت بتلا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوسکتی ہے۔ قیمت صرف دس آنے (۱۰ر)

### لگن رتناگر

لگن یعنی طالع وقت معلوم کرنے کے لئے یہ چھوٹا سا رسالہ قابل دید ہے۔ علاوہ طالع وقت کے مختلف شہروں کا تفاوت وقت دریافت کرنے کا قاعدہ اور تقریباً ۸۰ شہروں کے وقت تفاوت کا نقشہ بھی دکھلایا گیا ہے۔ قیمت صرف چار آنے (۴ر)

### مفتاح الغیب

حقیقت میں یہ غیب دانی کا بےنظیر رسالہ ہے اگر اس کو آئینہ جہاں نما کہیں تو بجا ہے۔ اس میں حاسہ خمسہ کے پانچ جانوروں یعنے شکرا۔ بگلا۔ کوا۔ مرغا۔ مور کے ذریعہ ہر قسم کے سوالات کے جوابات معلوم کرنے کا اصول بتلایا گیا ہے۔ جو قابل دید ہے۔ ہمزاد کو مسخر کرنے اس کے ذریعہ حل مشکلات کے مفصل قواعد اس میں درج ہیں قیمت بارہ آنے (۱۲ر)

### رازدان یعنے زندہ جادوگر

اس میں شک نہیں۔ کہ علم راز کے متعلق ایک رسالے آپ نے دیکھے ہونگے۔ مگر یہ رسالہ بالکل نئے ڈھنگ اور نرالی طرز کا ہے۔ اور ایسے آسان طریقہ سے لکھا گیا ہے۔ کہ جس سے معمولی اردو خوان بھی دل کی پوشیدہ بات حرف بحرف بتلا کر اس کے نیک و بد نتائج قبل از وقت ظاہر کرسکتا ہے۔ یہ رسالہ شائقینوں کو غیب دان بنانے کا آلہ ہے۔ کیونکہ اس میں علم راز کا وہ پوشیدہ اصول بتادیا گیا ہے۔ جس سے دوسرے کے دل کی مخفی بات فوراً معلوم ہوجاتی ہے۔ زیادہ تعریف فضول ہے۔ منگوا دیکھئے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

### نظارہ تقدیر

یہ علم سامدرک کا رسالہ ہے۔ جس کے ذریعہ انسان کی شکل و شباہت۔ رفتار گفتار۔ ہاتھ۔ پاؤں کی بناوٹ اور ہاتھ کی ریکھا یعنے خط و خال دیکھ کر اسکی زندگی کے تمام حالات رنج و راحت ترقی و تنزل وغیرہ وغیرہ معلوم ہوسکتے ہیں۔ قیمت مجلد چھ آنے (۶ر)

ملنے کا پتہ:- مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور

## معجزات آسمانی

یعنی

## پیشینگوئیاں کرنے کا رسالہ

یہ علم جوتش کا وہ چمتکاری رسالہ ہے۔ جس کے مطالعہ سے ہر شخص دنیا میں آیندہ پیش آنے والے واقعات اور موجودات عالم کی ترقی و تنزل کے حالات کی نسبت قبل از وقت پیشگوئی کر سکتا ہے۔ اس میں نظام شمسی کے پوشیدہ نکات اور گردش سیارگان کی تاثیرات سے کرہ ارض کے حادثات۔ زمانہ کے انقلابات۔ بارش کے حالات۔ ارزانی و گرانی غلہ اور مخلوقات رنج و راحت کے واقعات اور دنیا میں پیش آنے والے تغیرات کو جاننے کے طریقے اس خوبی اور وضاحت سے لکھے گئے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہے۔ قیمت عہ

## شادی کا مہورت

اہل ہنود میں سگائی و شادی کے لئے شبھ تیتھ مہورت کا دیکھنا لازمی ہے۔ اس لئے عام لوگوں کی سہولت کیلئے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ جس سے سگائی و شادی کا مہورت دیکھنے کے لئے کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ بلکہ آپ خود بخود شادی کے ساہے سب ودش اس کا لگن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنہ (۸ر)

## جام جمشید

یہ علم مسمریزم کا نادر رسالہ ہے۔ اس میں ان میں مخفی اسراروں کا پردہ کھول دیا گیا ہے جن پر عمل کرنے سے عامل قدرت کے عجیب تماشوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ سنگدل کو موم کرنا اور تمام موجودات عالم کو مسخر کر لینا۔ بیماروں کو اچھا کرنا عامل کیلئے کوئی بڑی بات نہیں۔ قیمت مجلد ایکروپیہ

## رسالہ علم الخواب

کون شخص ہے۔ کہ جس کو رات کو سوتے ہوئے خواب نہ دکھائی دیتا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اگر انسان کا دل تفکرات سے پاک و صاف ہو اور کسی طرح کا اس کے جسم میں مرض نہ ہو۔ تو خواب بمنزلہ ایک الہام کے ہے اور جس کے ذریعہ قدرت کی طرف سے انسان کو آئندہ پیش آنیوالے نیک و بد واقعات سے قبل از وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کے لئے ہم نے اس رسالہ میں ہر قسم کے خواب اور ان کی نیک و بد تاثیر بردیف وار درج کر دی ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہے۔ قیمت آٹھ آنہ ۸ر

## اسرار الطلسمات

طلسمات کا وہ علم ہے جس کا عامل تمام عالم کو اپنا دامن گرفتہ بنا سکتا ہے۔ مصنف نے اس رسالہ میں رموز طلسمات کا پردہ اس خوبی سے اٹھا دیا ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں حل مشکلات کے قواعد۔ محبت و الفت پیدا کرنے۔ تسخیر [illegible] مستطمہ۔ دفعیہ دشمنان۔ مقبولی حاسدان ہر دلعزیزی۔ کشائش رزق و بلندی مرتبہ۔ تنزل بربادان۔ بقائے نسل۔ ترقی مال۔ دفعیہ بیماری وغیرہ کے نہایت بے نظیر مجرب تاثیر طلسم درج کئے گئے ہیں۔ اور قریباً چار سو تصاویر۔ اشکال فلکی و طلسمات کی دکھلائی گئی ہیں۔ درحقیقت یہ رسالہ عاملان علم طلسم کے لئے بے نظیر چیز ہے قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ

## محبوب الطالبین

یہ علم جفر کا بے نظیر رسالہ ہے۔ جس میں علم اعداد کے ذریعہ حصول مطلب و حل مشکلات کی عجیب و غریب ترکیبیں درج ہیں تسخیر مطلوب و بلندی مراتب کے قواعد عمل کرنا چاہو۔ تو اس رسالہ کو منگوا کر دامن امید کو گوہر مقصود سے بھر لو۔ قیمت ۸ر

## فالنامہ حروفی

ناظرین! یہ وہی حروفی فالنامہ ہے۔ جس کا مضمون مشہور عالم جنتری میں کئی سالوں سے درج ہوتا چلا آرہا ہے۔ شائقینوں کی فرمائش سے علیحدہ کتابی صورت میں چھاپ دیا گیا ہے۔ قیمت صرف چار آنے ۴ر

## قرعہ حروفی

حروفی فالنامہ کو دیکھنے کے لئے یہ قرعہ ضروری چیز ہے۔ جو کہ بغرض تخفیف کی خاطر یہ قرعہ وقت پر تیار کرائے گئے ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنے (۸ر)

## علم رمل کا ضروری کارآمد آلہ

یعنی

## قرعہ رمل

علم رمل کے جاننے والوں کیلئے قرعہ رمل ایک نہایت ضروری چیز ہے جس سے زائچہ رمل تیار کیا جاتا ہے پس اگر آپکو علم رمل کا شوق ہے تو کتب رمل کے ہمراہ ایک جوڑی قرعہ رمل جو اوقات معینہ پر دھات کی باقاعدہ ڈھلوائے گئے تیار کئے جاتے ہیں خرید فرماویں جس سے زائچہ تیار کرنے میں آپ کو آسانی رہیگی۔ قیمت فی جوڑی ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

# علم رمل کی نادر کتابیں

## کاتب تقدیر

ہر شخص اپنا ورش پھل یعنے حالات سالانہ معلوم کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جنم پتری موجود ہو وہ بذریعہ علم جوتش اپنا ورش پھل بنوا سکتے ہیں۔ لیکن جن کی جنم پتری موجود نہ ہو۔ ان کے لئے بڑی مشکل ہے۔ پس ایسے لوگوں کی مشکل حل کرنے کیلئے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے اس رسالہ کے طریق و قواعد پر عمل کرکے قرعہ رمل ڈالکر جس شخص کے چاہو سال بھر کے حالات نیک و بد اور ایک ساعت معلوم کر لو۔ علم رمل کے شائقین اس رسالہ کو منگوا کر دیکھیں۔ کہ کس طرح دریا کوزہ میں بند کیا گیا ہے قیمت صرف ۱۲ر

## مخبر تقدیر حصہ اول و دوم

ان ہر دو رسالوں میں علم رمل کے وہ اصول درج ہیں۔ جن پر عمل کرنے سے ہر ایک آدمی کے حالات خیر و شر پوشیدہ احکام اور موجودات عالم کی اصلیت و کیفیت فوراً معلوم ہو جاتی ہے اور ہر شخص کے حالات زمانہ ماضی و مستقبل آئینہ کی طرح سامنے آجاتے ہیں۔ قیمت حصہ اول دس آنے حصہ دوم ہر دو حصہ منگانے والے سے صرف ایک روپیہ

## کلید غیب دانی

یہ علم رمل کا وہ بے نظیر رسالہ ہے۔ جو کہ دوسرے کے دل کی مخفی بات اور اس کے نیک و بد نتائج سے چشم زدن میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اس رسالہ میں اس پوشیدہ راز کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ جس کے ذریعہ اس فن کے لوگ ہزاروں روپیہ کماتے تھے۔ دلی راز [illegible] کیلئے اس رسالہ میں وہ طلسم درج ہیں کہ دیکھنے والے حیران ہیں بیسیوں مرتبہ چھپ چکا ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

## جامع الرمل

علم رمل کے شائقین کی خاطر اس رسالہ کو ایسا آسان لکھا گیا ہے کہ جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے۔ علم رمل کے تمام زائچوں کا لب لباب یعنی ترکیب اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں علم رمل کے تمام زائچہ جنکی تعداد ۶۵۵۳۶ ہے مع احکام یعنی ۱۰ ترکیب اس میں درج کئے گئے ہیں۔ جن کو دیکھ ویسے حیران رہ جائینگے۔ بوقت ضرورت زائچہ رمل بنا کر اس کتاب میں سے نکال لیں۔ اور اپنے سوال کا جواب معلوم کر لیں۔ قیمت ایک روپیہ ۵ آنہ

## مشیر تقدیر

علم رمل کا بے نظیر رسالہ جس میں ۲۵۶ سوالات کے جواب دیکھنے کے قابل دید طریق و قواعد درج ہیں۔ قیمت ۳ر

ملنے کا پتہ:- مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور



# انکھیں کھل گئیں جب چاند نکل آیا





انکھیں دُنیا میں بہت بڑی نعمت ہیں جن کے ذریعہ انسان دُنیا کے نشیب فراز کو جانتا ہے۔ اور نیک و بد کو پہچانتا ہے۔ جب ان میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر دنیا ہیچ اور زندگی وبال جان ہو جاتی ہے۔ آجکل کی آب و ہوا نے بہت سی ایسی بیماریاں پیدا کر دی ہیں جن سے فیصدی پچھتر آدمی ضعف بصارت اور دیگر امراض چشم میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اور آجکل کے نوجوان دماغی محنت کی زیادتی کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کھو کر عینکیں چڑھائے پھرتے ہیں۔ اس لئے ہم جملہ امراض چشم کے مریضوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ کہ پنڈت گردھاری لعل منجم دیجفار سیالکوٹی مصنف مشہور عالم جنتری بہت عرصہ تک رفتار کواکب کی سعادت اور نحوست کے پراثر پراچین منتر یا کے تجربات میں مشغول رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے **چاند رتنز** سے **چندر پربھا سرمہ** تیار کیا جس میں پُرتاثیر جنگلی بوٹیوں کے رسوں کو چندرماں کی سعادت اور وقت کی پابندی سے ڈال کر چندرماں کی روشنی کو حکیمانہ اصول پر جذب کر کے چندر پربھا سرمہ بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ جو جملہ امراض چشم۔ ضعف بصارت۔ دھند۔ جالا۔ غبار۔ پڑبال۔ ناخنہ۔ خارش۔ پھولا۔ سرخی چشم اور آنکھوں سے بدولت پانی جاری رہنا۔ تاریکی چشم اور شب کوری وغیرہ کو دُور کر کے آنکھوں کی روشنی کو چندرماں کی طرح بڑھاتا ہے۔ ہر عمر کے آدمی کو یکساں فائدہ دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے عینک لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ طالب علموں اور دماغی محنت کرنے والوں کے لئے چندر پربھا سرمہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ ایک سال تک حسب ہدایت موجد۔ کارخانہ کے دوست و احباب میں بطور تحفہ تقسیم ہوتا رہا۔ جو اپنی حکمی تاثیر میں بے نظیر ثابت ہوا۔ جس کو اب بغرض فائدہ عام مشتہر کیا جاتا ہے۔ کہ جملہ امراض چشم کے مریضو۔ آؤ۔ چندر پربھا سرمہ امراض چشم سے نجات دلاتا ہے۔ آنکھوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ باایں ہمہ صفت اس کی قیمت بہت ہی قلیل ہے۔

یعنی فی تولہ ایک روپیہ دس آنہ۔ معہ محصول ڈاک ہے (عہ)

۶ ماشہ کے لئے بارہ آنے (۱۲ر) پیکنگ محصول رجسٹری ۶ر کل (عہ) ۶ ماشہ سے کم روانہ نہ ہوگا۔

## سُرمہ لگانیکی سلائی

منتر شاستر کے انسار خاص شبھ وقت پر اور خاص دھاتوں کی ملاوٹ سے یہ سلائی تیار کی گئی ہے۔ اگر اس سلائی سے سُرمہ آنکھوں میں لگایا جاوے۔ تو چوگنا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ سلائی امراض آنکھ کے لئے نہایت مفید ہے۔ قیمت فی سلائی صرف آٹھ آنہ علاوہ محصول ڈاک۔

جو صاحب سُرمہ کی شیشی کے ہمراہ سلائی طلب کریں گے۔ ان سے صرف فی سلائی نصف قیمت یعنی چار آنے (۴ر) لی جاویگی۔

**(نوٹ)** چونکہ یہ سُرمہ خاص وقت پر تیار ہوتا ہے۔ اس لئے بعض وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے باہر سے آئی ہوئی فرمائشیں رُک جاتی ہیں اور تیار ہونے پر روانہ کی جاتی ہیں۔ اس لئے اگر پارسل کی روانگی میں دیر ہو جاوے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں۔ تیار ہونے پر فوراً روانہ کر دیا جاوے گا +

المشتہر:- **مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**



# دھات پُشٹ

یعنی

## طاقت بڑھانے والی بے مثیل دوا

قیمت صرف دو روپیہ

محصولڈاک آٹھ آنہ کُل عہ؍



پرمیشور نے جسم انسانی میں مادۂ تولید ایک ایسا جوہر پیدا کیا ہے۔ جس پر انسان کی زندگی کا کل دارومدار ہے۔ جب اس میں کسی قسم کا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے جسم میں صدہا امراض پیدا ہو جاتے ہیں طبیعت ہر وقت پژمردہ رہتی ہے۔ حوصلہ و بہادری کافور ہو جاتی ہے۔ ذرا سی آواز پر دل دھڑکنے لگ جاتا ہے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ و سستی رہتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی۔ خیالات ہر وقت پراگندہ اور چہرہ زرد بے رونق رہتا ہے۔ سر و کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ خاص کر اولاد سے جو دنیا میں نعمت غیر مترقبہ ہے۔ مایوسی ہو جاتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کو وبال جان خیال کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں۔ کہ ہم نے سالہا سال کی محنت سے تنتر شاستروں کے انوسار اس دھات پُشٹ دوائی کا نسخہ تیار کیا ہے۔ اور بموجب تنتر شاستر گرہوں کی سعادت و نحوست کو مدِنظر رکھ کر خاص خاص سعد وقتوں میں یہ دوائی تیار کی جاتی ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال کرنے سے مندرجہ بالا خرابیاں دور ہو کر تمام مردہ طاقتیں از سر نو زندہ ہو کر انسان کی تمام دلی اُمیدیں پوری ہونگی۔ دل میں سرور۔ چہرے پر بشاشت۔ آنکھوں میں نور اور دل میں جوانی کی اُمنگیں پیدا ہونگی۔ جریان۔ سستی۔ کمزوری وغیرہ کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ پوری تشریح کرنا خلاف تہذیب ہے۔ تندرست آدمی بھی اگر اس کو استعمال کرے۔ تو اس کے تمام اعضائے رئیسہ کو قوت دے کر حافظہ کو بڑھاتی ہے۔ خون صالح بدن میں پیدا کر کے آدمی کو طاقتور پہلوان بنا دیتی ہے۔ چہرہ مانند کُندن کے دمکنے لگتا ہے۔ ہم نے قیمت بھی کم رکھی ہے۔ تاکہ ہر ایک آدمی اس کو خرید کر فائدہ اُٹھا سکے۔

**قیمت فی ڈبی ایک ماہ کی خوراک صرف دو روپیہ۔ علاوہ محصولڈاک ۸ر کُل عہ؍**

**طلاء خاص** بچپن کی جہالت میں پھنس کر اگر آپ نے اپنے ہاتھوں جلق وغیرہ سے اپنی طاقت کو تباہ کر لیا ہو۔ اور اعضائے تناسل کمزور۔ ٹیڑھا اور پتلا پڑ گیا ہو۔ تو دھات پُشٹ کے ساتھ ہی ایک شیشی اس طلاء کی بھی ضرور منگوالیں۔ اس طلاء کی مالش سے عضو تناسل کی تمام خرابیاں دور ہو کر بالکل صحت ہو جاوے گی۔ نامردوں کو مرد اور مردوں کو جوانمرد بنانے کے لئے یہ طلاء اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ قیمت فی شیشی صرف دو روپیہ۔ علاوہ محصولڈاک

**نوٹ**) چونکہ یہ دوائی دھات پُشٹ خاص وقت پر تیار ہوتی ہے۔ اس لئے بعض وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے آئی ہوئی فرمائشیں رکھ لی جاتی ہیں۔ جو تیار ہونے پر روانہ کی جاتی ہیں۔ اس لئے اگر پارسل کی روانگی میں دیر ہو جاوے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں۔ تیار ہونے پر فوراً روانہ کر دی جاتی ہے۔

ملنے کا پتہ:- مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور

# علم الطلسمات

## طلسم برائے ہر دلعزیزی

جس شخص کو شوق ہو کہ میں لوگوں میں ہر دلعزیز ہو جاؤں اور لوگ میری عزت کریں تو چاہئے کہ بروز ۲۰ جولائی سنہ ۱۹۳۶ء کو وقت صبح ایک نگینہ زبرجد پر اس پہ ایک نوجوان آدمی کی برہنہ کھڑے ہوئے کی تصویر بناوے - اور ایک ہاتھ میں اس کے تلوار پکڑی ہو - اور تلوار کی دھار پر حروف طلسم (ط ن ہ ع ا) کندہ کرے - بعد ازاں اس نگینہ کو انگشتری طلائی میں بساعت زہرہ نصب کر کے دست راست میں پہن لیوے پس اس کی تاثیر سے وہ شخص ہر فرد و بشر کے نزدیک ہر دلعزیز ہوگا - اور تمام لوگ اس سے بدرجہ کمال محبت سے پیش آویں گے +



## طلسمی سلائی برائے دفعیہ آشوب چشم

اگر کسی شخص کی بصارت میں کمی ہو جائے یا آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف رہتی ہو تو طلسمی سلائی تیار کر لیوے جس کی کیفیت یہ ہے کہ بصارت تا زندگی قائم رہتی ہے اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی - طریقہ اس کا یہ ہے کہ بروز ۸ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو بوقت صبح سونا اور چاندی برابر وزن لیکر انکو گلا کر ۴ انچ لمبی اور ۲ انچ چوڑی باریک تختی تیار کرے جو کاغذ کی مانند باریک ہو - پھر اس پر لوہے کی قلم سے ایک گائے کی تصویر اس طرح بناوے کہ گھاس کھڑی کھا رہی ہو - اور ایک شخص اسکے گلے کا رسہ پکڑے کھڑا ہو - گائے کی پیٹھ پر حروف طلسم (امن) اور اس آدمی کی دونوں آنکھوں پر اعداد ۵۵ لکھ دیوے پھر ۸ اکتوبر سنہ ۱۹۳۶ء کو جب چاند نکلے تو اس لوح کو چاند کے سامنے رکھ دیوے - جب چاند غروب ہو اس کو اٹھا کر لفافہ میں لپیٹ کر رکھ لیوے - ہر روز اسی طرح کرے جب تک چاند نظر آتا ہے لوح اس کی روشنی میں پڑی رہے - پھر ۳۰ اکتوبر کو جب چاند تمام رات کا ہوگا - اس لوح کو تمام رات چاندنی میں پڑا رہنے دے - اور اگلے روز صبح کو اس لوح کو ٹکڑا کر سلائی کی طرح مثل سلائی کے لپیٹ لیوے - پس ۴ انچ لمبی سلائی تیار ہوگی - اب یہ طلسمی سلائی تیار ہے ہر روز رات کو سوتے وقت اس سلائی کو آنکھوں میں پھیر لیا کرے اس کے ہمیشہ استعمال کرنے سے تمام امراض چشم دور ہوں گی اور بصارت تیز ہوگی +

## طلسم برائے زیادتی قوت مردانگی

اگر کسی آدمی کی قوت مردانگی کم ہو گئی ہو تو چاہئے کہ بروز ۱۳ اپریل سنہ ۱۹۳۶ء کو ایک عدد نگینہ سنگ سرخ بیکروس پر ایک لائن میں آٹھ عدد حروف ح اس طرح کندہ کرے (ح ح ح ح ح ح ح ح) پھر نگینہ کو سرخ کپڑا میں محفوظ کر کے بازوئے راست پر باندھے - پس اس طلسم کی تاثیر سے قوت مردانگی میں زیادتی ہو جاوے گی - لیکن پانی میں اس کو نہ بھیگنے دیوے +

**نوٹ** - اگر آپ اس طرح کے ہر مطلب یعنی عشق و محبت - مغلوبی دشمناں - اور زیادتی زر و مال وغیرہ کے طلسم بنانے کے مفصل اصول و قواعد دیکھنا چاہتے ہیں - تو رسالہ اسرار طلسمات قیمت ۸ منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوالو +

# علم قیافہ

## مستورات کی نیک و بد خصلتوں کی پہچان

**قد و قامت** - جس عورت کا قد درمیانہ ہو وہ خاوند کو نہایت عزیز اور دنیاوی کاروبار کو بوجہ احسن سرانجام دینے والی ہوتی ہے - لمبے قد والی عورت نیک اطوار صاحب عقل و صبر والی ہوتی ہے - کوتاہ قد والی عورت خواہشات دنیاوی میں زیادہ مشغول رہتی ہے - جو عورت بلا ضرورت گھر گھر گھومتی رہے اور اس کی آنکھیں موٹی اور ہمیشہ حرکت میں رہیں - اور خواہ مخواہ فضول باتیں کرے - ایسی عورت مرد کے لئے سخت خطرناک ہوتی ہے - اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہئے - جس عورت کی آنکھیں سوتے ہوئے کھلی رہیں اور منہ سے پانی جاوے - ایسی عورت کبھی شوہر کی وفادار نہیں ہوتی چال چلن اس کا اچھا نہیں ہوتا - جس عورت کے ہنستے وقت گالوں میں گڑھے پڑیں اور آنکھیں پھڑ پھڑا دیں - وہ عورت خاوند سے ہمیشہ دشمنی رکھتی ہے +

**منہ** - جس کا منہ چھوٹا ہو اس سے ہمیشہ رنج پہنچے - لمبے منہ والی خود ہمیشہ رنجیدہ رہے - جس کے چہرہ پر مونچھیں یا داڑھی کے بال ہوں - تو وہ عورت تنگ دست اور بیوہ ہوتی ہے - فاحشہ کام کرتی ہے -

**چشم** - اگر آنکھیں بھوری مائل بہ سرخی ہوں - تو آرام سے زندگی بسر کرے اگر زرد ہوں تو ہمیشہ تکلیف پاوے - اگر برنگ سرخ ہوں تو بڑی شہوت پرست اور فریبی ہو - اگر برنگ سیاہ ہوں اور اس میں سرخ ڈورا ہو - تو عزیز شوہر بھاگوان ہو - متوالی آنکھوں والی بدچلن - ہمیشہ غیر مردوں کی صحبت میں رہے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا - جس کی آنکھوں میں تل ہو - وہ خواہش نفسانی میں زیادہ مبتلا رہے - جس کی آنکھیں چھوٹی ہوں - وہ بدبخت - جو عورت آنکھوں کو زیادہ حرکت دیوے اور بار بار پھیرے وہ زانی ہوتی ہے -

**ناک** - اگر ناک اندازہ سے لمبی ہو - تو بڑی جھگڑالو - تیز مزاج - اگر ناک پست ہو - تو جلد بیوہ ہو جاوے - اگر ناک پہ بال ہوں - تو بدکار ہو - اگر ناک کی نوک نیچے کو جھکی ہو تو دولت مند - اگر نوک چپٹی ہو - تو عزیز شوہر ہو -

**پیشانی** - اگر اونچی ہو تو جلد بیوہ ہو جاوے - اگر پیشانی پر بال برنگ سرخ ہوں - تو کنگال خصلت ہو - اگر پیشانی پر ترشول کا نشان ہو تو بڑی بھاگوان صاحب ثروت ہوتی ہے -

**رخسار** - اگر منہ کھلتے پر رخساروں میں گڑھا پڑے - تو خواہش نفسانی میں ڈوبی رہے - اگر رخسارے ابھرے ہوں - تو عزیز شوہر خوش مزاج - اگر بات کرتے یا ہنستے وقت رخساروں میں گہرا گڑھا پڑے - تو وہ عورت نہایت بدچلن اور فاحشہ ہوتی ہے -

## نوٹ

اگر آپ انسان کے ہر ایک اعضا کی بڑائی چھوٹائی اور خط و خال کو دیکھ کر اس کی عادات و خصلت سے واقف ہونا چاہیں تو علم قیافہ کا مفصل رسالہ **نظارۂ تقدیر** قیمت ۸ منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوا لیں

# مختلف نچھتروں میں سیارگان کی نیک و بد تاثیر

(۱) اگر سورج و منگل آردرا نچھتر پر آجاویں تو ایک ماہ تک غلہ کا نرخ گراں کر دیتے ہیں (۲) اگر سورج و کیتو دونوں بھرنی یا مرگشر نچھتر پر آجاویں۔ تو نمک کو گراں کر دیتے ہیں۔ (۳) اگر سورج ریوتی اور منگل سواتی نچھتر پر ہوں تو راجاؤں میں باہمی تنازعات ترقی پر ہوتے ہیں (۴) اگر سنیچر اترادہا نچھتر پر اور برہسپت جیشٹا نچھتر پر آجاوے۔ تو لوگوں کو کشٹ اور بہت جانیں ضائع ہوں۔ (۵) اگر سنیچر مولا نچھتر پر اور بدھ سواتی نچھتر پر آوے۔ تو اناج گراں کرتے ہیں۔ (۶) جب سنیچر اترا کھاڈ نچھتر پر یا پوربا پھاگنی میں ہو۔ اور سورج اس وقت پنربس نچھتر میں آجاوے تو بارش کی قلت اور بیماری کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ (۷) اگر سنیچر و منگل دھنشٹا نچھتر پر آجاویں۔ تو بارش سے جواب ہوتا ہے۔ غلہ کا نرخ گراں کرتے ہیں۔ (۸) اگر سنیچر و منگل سواتی نچھتر پر ہوں۔ تو آتشزدگی کی وارداتیں بہت ہوں۔ (۹) اگر برہسپت ست بکھا نچھتر پر اور منگل چترا نچھتر پر ہوں۔ تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے۔ (۱۰) اگر برہسپت بشاکھا کا اور سنیچر کرتکا نچھتر کا ہو تو لوگوں میں خوف۔ حیرانی پریشانی اور وحشت پیدا کرتے ہیں۔ (۱۱) اگر سنیچر گھاسے بکری ہو کر اشلیکھا نچھتر میں داخل ہو۔ تو گندم۔ چاول۔ روغن زرد کا نرخ گراں ہوتا ہے۔ اور اگر اترا کھاڈ سے بکری ہو کر پوربا کھاڈ میں آجاوے تو قحط پڑتا ہے۔ (۱۲) اگر روہنی نچھتر پر منگل و برہسپت دونوں اکٹھے ہو جاویں۔ تو ہم ماہ ساون سے کاتک تک بارش نہیں ہوتی۔ (۱۳) اگر سورج ریوتی نچھتر پر اور سنیچر اترا کھاڈ نچھتر پر ہوں تو بارش نہ ہونے سے فصل خشک ہو جاوے۔ (۱۴) اگر سنیچر ہستی نچھتر پر اور سورج ست بکھا نچھتر پر آجاوے۔ تو بارش بر گزشتہ ہو کر فصل تباہ ہو جاوے (۱۵) اگر سنیچر کرتکا نچھتر پر منگل آردرا نچھتر پر اور بدھ پوربا بھادر پد نچھتر پر ہو۔ تو اس ملک میں قحط پڑتا ہے۔ (۱۶) اگر سورج منگل جیشٹا یا آردرا یا مولا یا اشلیکھا نچھتر پر اکٹھے ہوں۔ تو ایک ماہ تک غلہ کا نرخ سخت گراں رکھتے ہیں (۱۷) اشلیکھا نچھتر پر سنیچر کپاس کی پیداوار زیادہ کرتا ہے۔ اور بدھ تل تیل۔ گڑ کا نرخ گراں کرتا ہے۔ اور شکر بارش زیادہ کرتا ہے۔ (۱۸) اگر منگل مولا نچھتر پر ہو۔ تو گوڑ۔ شکر وغیرہ شیریں اشیاء ارزاں رہتی ہیں۔ (۱۹) منگل پوربا کھاڈ نچھتر پر چوپاؤں کا ناش کرتا ہے اور کیتو ہر چیز کو گراں کر دیتا ہے۔ (۲۰) برہسپت اترا کھاڈ نچھتر پر گوڑ۔ شکر کو گراں کرتا ہے (۲۱) برہسپت آردرا یا مرگشر نچھتر پر بارش کم اور غلہ گراں کرتا ہے (۲۲) جب سنیچر۔ مولا۔ ریوتی۔ اشنی یا مگھا نچھتر پر آتا ہے۔ تو ملک میں زلزلے کثرت سے آتے ہیں۔ تو لوگوں کو سخت تکلیف اور ملک میں گھبراہٹ خوف و تشویش پیدا کرتا ہے۔

## نوٹ

اگر آپ تمام سیارگان کی تاثیرات راشیوں۔ نچھتروں۔ یوگوں کے مفصل حالات اور ان کا ثمرہ اور سیارگان کی ایک دوسرے سے ملنے پر جو تاثیر کرہ ارض پر پڑتی ہے۔ ان کے مفصل حالات و نتائج رنج و راحت بارش۔ ارزانی۔ گرانی۔ جنگ و جدل وغیرہ دیکھنا چاہیں۔ تو رسالہ معجزات آسمانی قیمتی عـہ مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگا کر دیکھ لیں ۔

## جنتری تنخواہ و کرایہ قیمیہ یک روپیہ سے یک صد روپیہ ماہوار

| تنخواہ یا کرایہ ماہوار | ۲۸ یوم کا مہینہ | | | ۲۹ یوم کا مہینہ | | | ۳۰ یوم کا مہینہ | | | ۳۱ یوم کا مہینہ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | پائی | آنہ | روپیہ | پائی | آنہ | روپیہ | پائی | آنہ | روپیہ | پائی | آنہ | روپیہ |
| ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۳ | ۸ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱ | ۰ | ۷ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۰ |
| ۴ | ۳ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| ۵ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۹ | ۲ | ۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۲ | ۰ |
| ۶ | ۵ | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| ۷ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۹ | ۳ | ۰ | ۷ | ۳ | ۰ |
| ۸ | ۶ | ۴ | ۰ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳ | ۴ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ |
| ۹ | ۱ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ۴ | ۰ | ۹ | ۴ | ۰ | ۷ | ۴ | ۰ |
| ۱۰ | ۸ | ۵ | ۰ | ۶ | ۵ | ۰ | ۴ | ۵ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ |
| ۲۰ | ۴ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۸ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۰ |
| ۳۰ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱۵ | ۰ |
| ۴۰ | ۹ | ۶ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱ | ۶ | ۴ | ۱ |
| ۵۰ | ۷ | ۱۲ | ۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱ | ۸ | ۱۰ | ۱ | ۹ | ۹ | ۱ |
| ۶۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۱۳ | ۱ |
| ۷۰ | ۱ | ۶ | ۲ | ۶ | ۹ | ۲ | ۴ | ۵ | ۲ | ۹ | ۳ | ۲ |
| ۸۰ | ۰ | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ۸ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۹ | ۲ |
| ۹۰ | ۸ | ۳ | ۳ | ۶ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۴ | ۲ |
| ۱۰۰ | ۱ | ۹ | ۳ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴ | ۵ | ۳ | ۷ | ۳ | ۳ |

## نقشہ کرایہ پارسل بذریعہ سواری گاڑی

| فاصلہ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵ میل تک کے لئے | ۶/ | ۶/ | ۱۲/ | ۹/ | ۹/ | ۹/ | ۶/ | ۹/ |
| ۲۵ میل سے زائد ۵۰ میل تک | ۶/ | ۶/ | ۲/ | ۹/ | ۸/ | ۹/ | ۱۰/ | ۱۴/ |
| ۵۰ ،، ۷۵ ،، | ۶/ | ۶/ | ۳/ | ۱۰/ | ۱۳/ | ۱۵/ | [illegible] | [illegible] |
| ۷۵ ،، ۱۰۰ ،، | ۶/ | ۷/ | ۱۰/ | ۱۴/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۱۰۰ ،، ۱۲۵ ،، | ۷/ | ۸/ | ۱۳/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۱۲۵ ،، ۱۵۰ ،، | ۷/ | ۹/ | ۱۴/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۱۵۰ ،، ۱۷۵ ،، | ۷/ | ۱۰/ | ۱۵/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۱۷۵ ،، ۲۰۰ ،، | ۷/ | ۱۰/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۲۰۰ ،، ۲۲۵ ،، | ۷/ | ۱۱/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۲۲۵ ،، ۲۵۰ ،، | ۷/ | ۱۲/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۲۵۰ ،، ۲۷۵ ،، | ۷/ | ۱۲/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۲۷۵ ،، ۳۰۰ ،، | ۷/ | ۱۳/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۳۰۰ ،، ۳۲۵ ،، | ۸/ | ۱۵/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۳۲۵ ،، ۳۵۰ ،، | ۸/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۳۵۰ ،، ۳۷۵ ،، | ۸/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۳۷۵ ،، ۴۰۰ ،، | ۹/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۴۰۰ ،، ۴۲۵ ،، | ۹/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۴۲۵ ،، ۴۵۰ ،، | ۹/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۴۵۰ ،، ۴۷۵ ،، | ۱۰/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ۴۷۵ ،، ۵۰۰ ،، | ۱۰/ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# فہرست عرسہائے اہل اسلام در سنہ ۱۹۳۶ء

| نمبر شمار | نام عرس | مقام | تاریخ انگریزی |
|---|---|---|---|
| ۱ | عرس میاں وڈا صاحب | لاہور | یکم جنوری و ۲۰ دسمبر |
| ۲ | عرس امام علی شاہ صاحب نقشبندی | مکان شریف | ۹ جنوری و ۲۹ دسمبر |
| ۳ | عرس خواجہ امیر خسرو | دہلی | ۱۳ - جنوری |
| ۴ | عرس حضرت خواجہ محمد ترکمان | نارنول | ۲۶ - جنوری |
| ۵ | عرس مادھو لال حسین صاحب | لاہور | ۸ - فروری |
| ۶ | عرس سخی سرور سلطان | نگاہا | ۱۹ - فروری |
| ۷ | عرس حضرت عبدالخالق | بہاولپور | ۲۲ - فروری |
| ۸ | عرس مخدوم جہانیاں | اوچ شریف | ۵ - مارچ |
| ۹ | عرس حضرت [illegible] شاہ | بٹالہ | ۹ - مارچ |
| ۱۰ | عرس بابا فرید الدین گنجشکر | پاکپتن | ۲۹ - مارچ |
| ۱۱ | عرس حضرت محمد طاہر صاحب | لاہور | ۱۱ - اپریل |
| ۱۲ | عرس سخی سرور سلطان | دھونکل | ۹ - مئی |
| ۱۳ | عرس علی داتا گنج بخش صاحب | لاہور | ۱۳ - مئی |
| ۱۴ | عرس غلام علی شاہ نقشبندی | دہلی | ۱۵ - مئی |
| ۱۵ | عرس حضرت احمد مجدد الف ثانی | سرہند | ۲۲ - مئی |
| ۱۶ | عرس حضرت میاں میر صاحب | لاہور | ۲۶ - مئی |
| ۱۷ | عرس حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب | لاہور | ۲۹ - مئی |
| ۱۸ | عرس حضرت شاہ ہمدان صاحب | کشمیر | ۲۹ - مئی |
| ۱۹ | عرس چوک سخی سرور | لاہور | ۳۰ - مئی |
| ۲۰ | عرس مخدوم علاؤالدین | کلیر | ۳۰ مئی تا ۲ جون |
| ۲۱ | عرس شاہ محمد مقیم صاحب | حجرہ | یکم جون |
| ۲۲ | عرس محمود شاہ صاحب | لاہور | ۲ - جون |
| ۲۳ | عرس خواجہ بختیار کاکی | دہلی | ۵ - جون |
| ۲۴ | عرس حاجی نوشہ گنج بخش صاحب | نوشہرہ | ۶ - جون |
| ۲۵ | عرس شاہ محمد غوث صاحب | لاہور | ۶ - جون |
| ۲۶ | عرس محمد سعید صاحب | شرقپور | ۶ - جون |
| ۲۷ | عرس نظام الدین اولیا دہلوی محبوب الٰہی | دہلی | ۹ - جون |
| ۲۸ | عرس شاہ دولہ دریائی | گجرات | ۹ - جولائی |
| ۲۹ | عرس جناب غوث پاک والے صاحب | راولپنڈی | ۱۹ - جولائی |
| ۳۰ | عرس حضرت عبداللہ صاحب | لاہور | ۲۸ - جولائی |
| ۳۱ | عرس شاہ رضا صاحب قادری | لاہور | یکم اگست |
| ۳۲ | عرس مولانا نصیرالدین صاحب چشتی | دہلی | ۲۵ - اگست |
| ۳۳ | عرس بی بی پاک دامن | لاہور | ۲۵ - اگست |
| ۳۴ | عرس حضرت حامد قادری | لاہور | ۲۶ - اگست |
| ۳۵ | عرس حضرت امام علی صاحب | سیالکوٹ | ۴ - ستمبر |
| ۳۶ | عرس خواجہ معین الدین صاحب چشتی اجمیری | اجمیر شریف | ۲۴ ستمبر تا ۲ - اکتوبر |
| ۳۷ | عرس شاہ صدر دیوان صاحب | لاہور | ۳ - اکتوبر |
| ۳۸ | عرس مخدوم داتا گنج بخش صاحب | لاہور | ۳ - اکتوبر |
| ۳۹ | عرس میراں بادشاہ صاحب | لاہور | ۴ - اکتوبر |
| ۴۰ | عرس شاہ بلاول صاحب | لاہور | ۱۴ - نومبر |
| ۴۱ | عرس بو علی شاہ قلندر | پانی پت | ۲۸ - نومبر |
| ۴۲ | عرس مادھو لال حسین صاحب | لاہور | ۸ - دسمبر |

## جنم اتسو دسوں بادشاہان برائے خالصہ صاحبان

| نمبر شمار | نام | جنم اتسو | تاریخ سورگباشی |
|---|---|---|---|
| ۱ | سری گورو نانک دیو جی | ۲۹ - نومبر | ۱۰ - ستمبر |
| ۲ | سری گورو انگد دیو جی | ۲۲ - اپریل | ۲۹ - مارچ |
| ۳ | سری گورو امر داس جی | ۵ - مئی | یکم ستمبر |
| ۴ | سری گورو رام داس جی | یکم نومبر | ۲۱ - [illegible] |
| ۵ | سری گورو ارجن دیو جی | ۱۴ - اپریل | ۲۲ - مئی |
| ۶ | سری گورو ہرگوبند جی | ۶ - جون | ۲۷ - مارچ |
| ۷ | سری گورو ہر رائے جی | ۷ - فروری | ۸ - نومبر |
| ۸ | سری گورو ہرکرشن جی | ۱۳ - جولائی | ۱۵ - اپریل |
| ۹ | سری گورو تیغ بہادر جی | ۱۲ - اپریل | ۱۸ - دسمبر |
| ۱۰ | سری گورو گوبند سنگھ جی | یکم جنوری | ۱۹ - نومبر |

# قواعد محکمہ تار و ڈاک ہندوستان

**پوسٹ کارڈ** سنگل اور ڈبل یعنی جوابی ہندوستان کے ہر ایک ڈاک خانہ سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک پوسٹ کارڈ کی قیمت ۳ پیسہ اور جوابی کارڈ کی قیمت ڈیڑھ آنہ ہے۔ اگر پوسٹ کارڈ نہ ملے۔ تو پوسٹ کارڈ کی مانند موٹا کاغذ لے کر اس کو کارڈ سائز کے برابر کاٹ کر اور تین پیسہ کا ٹکٹ لگا کر ڈال سکتے ہیں کارڈ سائز ۵½ × ۳½ انچ ہوتا ہے۔ بیرنگ پوسٹ کارڈ روانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس پر تین پیسہ کا ٹکٹ لگا دینا چاہئے۔ ورنہ کارڈ ضائع ہو جائیگا۔ اور مکتوب الیہ کو نہیں ملیگا۔ کارڈ کے ایک طرف اپنا مطلب لکھو اور دوسری طرف آدھے حصے میں مکتوب الیہ کا پتہ اور ٹکٹ لگاؤ۔ اور باقی آدھے حصہ میں اپنا مطلب لکھا جا سکتا ہے۔ پتے والے نصف حصہ میں اپنا نام تاریخ وغیرہ کچھ نہ لکھو۔ ورنہ کارڈ بیرنگ ہو جائیگا۔ اور مکتوب الیہ کو ڈیڑھ آنہ دینا پڑے گا۔

**لفافہ** سرکاری لفافہ جس پر پانچ پیسہ کی مہر چھپی ہوئی ہے۔ ہر ڈاکخانہ سے مل سکتا ہے یا خالی لفافے کو اس پر ایک آنہ ایک پیسہ کا ٹکٹ لگا کر ڈاک میں ڈالا جا سکتا ہے۔ چٹھی کا وزن ۱ ماشہ سے زائد لیکن ۲½ تولہ سے کم ہونا چاہئے۔ اگر زائد ہو جائے۔ تو سوا آنہ کا ٹکٹ اور لگا دو۔ اسی طرح ہر ۲½ تولہ پر سوا آنہ زائد لگاتے جاؤ۔ اگر لفافہ کا وزن ۱ ماشہ سے کم ہو تو ایک آنہ لگاؤ۔

**بک پیکٹ یا نمونہ** تمام چھپا ہوا کاغذات۔ کتابیں۔ خالی کاغذات۔ تصویریں۔ نقشے۔ کاپیاں۔ پروف۔ مسودے اور تمام کاروباری کاغذات خواہ چھپے ہوں یا تحریری بشرطیکہ وہ کاغذات کسی خاص پرائیویٹ خط وکتابت کی نوعیت کے نہ ہوں۔ بذریعہ بک پوسٹ روانہ ہو سکتے ہیں۔ بک پیکٹ میں ملک کے ٹکٹ۔ نوٹ۔ چیک ہنڈی وغیرہ روانہ نہیں کرنے چاہئیں۔ پیکٹ کا سائز ۲ فٹ۔ لمبائی ایک فٹ۔ چوڑائی ایک فٹ اونچائی سے زیادہ نہ ہونا چاہئے۔ اگر پیکٹ گول ہو تو اس کی لمبائی ۲½ فٹ اور قطر ۵ انچ سے زیادہ نہ ہو۔ پیکٹ کے دونوں سرے کھلے رہنے چاہئیں۔ اور ایسے طریقے سے باندھا جانا چاہئے۔ کہ ہر وقت بغیر کاغذ کو پھاڑنے کے کھول کر دیکھا جا سکے۔ ہر پیکٹ پر پہلے ۵ تولہ وزن کے لئے تین پیسہ کا ٹکٹ لگیگا۔ اس کے بعد ہر ۵ تولہ پر دو پیسہ کا ٹکٹ لگاؤ۔ اگر پیکٹ بیرنگ ڈال دے۔ تو اس سے مکتوب الیہ سے دگنا محصول چارج کیا جائیگا۔

**اخبارات** اخبار باقاعدہ ڈاک خانہ میں رجسٹرڈ ہو۔ اس پر رجسٹرڈ نمبر درج ہو۔ اس کا محصول حسب ذیل ہوگا۔ ۸ تولہ وزن تک ایک پیسہ۔ ۸ تولہ سے زائد ۲۰ تولہ سے کم وزن تک دو پیسہ۔ اس سے زائد ہر ۲۰ تولہ یا کم کے لئے دو پیسہ زائد لگاتے جاؤ۔

**پارسل** پارسل میں ہر ایک چیز سوائے اس چیز کے جس کی قانوناً ممانعت ہے روانہ ہو سکتی ہے۔ پارسل کو کسی مضبوط لکڑی یا دھات کے بکس میں بند کر دینا چاہئے۔ اور مندرجہ ذیل شرح سے محصول لگانا چاہئے۔ ۲۰ تولہ وزن تک ۲ آنے ۲۰ سے ۴۰ تولہ تک ۴ آنے ۴۰ سے ۸۰ تولہ تک ۶ آنے ۸۰ تولہ سے اوپر ہر ۴۰ تولہ تک ۴ آنے بڑھاتے جاؤ۔ لیکن پارسل ۴۴۰ تولہ سے زائد وزنی نہ ہو۔ اگر ۴۴۰ تولہ سے زائد وزنی پارسل ہو۔ تو اس کے لئے مندرجہ ذیل شرح ہوگی۔ ۴۴۰ تولہ تک دو روپے۔ ۵۲۰ تولہ تک [illegible]۔ ۶۰۰ تولہ تک [illegible]۔ ۶۸۰ تولہ [illegible]۔ ۷۶۰ تولہ [illegible]۔ ۸۰۰ تولہ [illegible]۔ ۸۰۰ تولہ سے زیادہ وزن کا پارسل روانہ نہیں ہو سکتا۔ ۴۴۰ تولہ سے زائد وزن والے پارسل کو رجسٹری کرانا لازمی ہے۔ جس کے لئے ۳ آنہ کا ٹکٹ اور لگانا چاہئے۔ کوئی پارسل بیرنگ روانہ نہیں ہو سکتا۔

**رجسٹری** ہر ایک لفافہ۔ کارڈ۔ پیکٹ۔ پارسل احتیاط کیلئے رجسٹری کروایا جا سکتا ہے تاکہ کسی اور کو تقسیم نہ ہو جاوے۔ رجسٹری کے علاوہ معمولی محصول ۳ آنے کے ٹکٹ زائد لگانے چاہئیں۔ اور رجسٹری کرنے والی چیز کو ڈاک خانہ میں جا کر اس عہدہ دار کو دینی چاہئے۔ جو اس کام کے لئے مقرر ہو۔ وہ اس چیز کی رسید فرستندہ کو دیگا۔ اگر ڈاکخانہ کی رسید سے زیادہ فرستندہ مکتوب الیہ کی دستخطی رسید لینی ہو تو ۳ آنے کے ٹکٹ لگانے چاہئیں۔

**بیمہ** تمام قیمتی سامان مثلاً زیورات۔ نوٹ۔ ہنڈیاں۔ قیمتی دستاویز۔ سونا۔ چاندی وغیرہ کے پارسل کا بیمہ کرانا لازمی ہے جس پر علاوہ فیس رجسٹری و معمولی وزن کے مندرجہ ذیل شرح سے زائد ٹکٹ لگانے چاہئیں۔ ۵۰ روپے کی مالیت تک ۲ آنے اور ۵۰ روپے سے زائد ہو۔ تو پچاس روپے کی مالیت پر ایک آنہ زائد لگاتے جاؤ۔

**منی آرڈر** دس روپے تک ۲ آنے ۱۰ سے زائد ۲۵ روپیہ تک ۴ آنے ۲۵ روپیہ سے زائد پر ہر دس روپیہ تک ۲ آنے اور ۵۰ روپیہ سے ۱۰۰ روپیہ تک کے ۴ آنے لگاؤ۔ ہر سو یا سو کے حصہ کے لئے ایک روپیہ لگیگا۔ چھ سو سے زائد کا منی آرڈر نہیں ہو سکتا۔

**تار** تاریں دو قسم کی ہیں۔ ایک ضروری۔ دوسری معمولی۔ ان کی فیس روانگی حسب ذیل ہے۔ قسم ضروری ۱۲ الفاظ تک ۱ روپیہ جس میں پتہ وغیرہ شامل ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد ۱۲ سے زیادہ ہو جائے۔ تو فی لفظ ۲ آنہ زائد لئے جائیں گے۔

**قسم معمولی** الفاظ تک ۹ آنہ۔ ۱۲ الفاظ تک ۱۲ آنہ جس میں پتہ وغیرہ شامل ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد ۱۲ سے زائد ہو جائے۔ تو فی لفظ ایک آنہ زائد لیا جائیگا۔

مضمون اشتہار و [illegible]

# یوگ ودیا کے چمتکار

قیمت
صرف [illegible] روپیہ

وہ چلتا ہوا جادو جس کے سامنے دنیا جہان کے جادو کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ کتاب تصنیف جس میں ہر ایک [illegible] علم لدنی پر [illegible] اور مرشدان کامل کی کھوج میں جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ [illegible] مہاتماؤں اور درویشوں کے سینوں کے راز جو باتیں جیتے جی تحریر میں نہیں آ سکتیں یا وہ کہ جن رازوں کو اپنے سینہ میں لیکر ہندوستان کے اکثر کامل لوگ [illegible] گئے۔ انہیں کی نقاب کشائی زبان اردو میں [illegible] یوگ ودیا [illegible] کی پہلی اور آخری کتاب [illegible] پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس سے بہتر کتاب پیش کرنے والے کے لئے ایک ہزار روپیہ نقد کا انعام رکھا گیا ہے۔

[illegible]

کر سکے گی ⑥ کیا ہپناٹزم کے عمل سے عمر پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ⑦ دو تین سو سال تک جوان تندرست رہنے کے اور موت کو ٹالنے کے رکھنے والے راز کا انکشاف ⑧ ہپناٹزم بطور پیشہ کے۔ جو لوگ بالکل بیکار اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور نہیں سوجھتا کہ حصول روزی کیلئے کونسا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ان کی رہنمائی کے لئے نہایت مفید معلومات یعنی ہپناٹزم کو کس طور پر بطور پیشہ سیکھنے کی مکمل واقفیت۔ ہپناٹزم سے نہ صرف لاعلاج بیماریوں کے علاج ہو سکتے ہیں بلکہ اسٹیج پر تماشا دکھا کر کافی روپیہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حاضرین میں سے کسی جاہل اور ان پڑھ شخص کو ہپناٹزم کی نیند سلا کر غیر زبان کی کتاب پڑھوا لینا یا انگریزی زبان میں تقریر کروانا جو ایسی شستہ اور مدلل ہوگی۔ کہ حاضرین [illegible] معمول کو کسی [illegible] معمول کے جسم کو پتھر کی مانند سخت بنا کر کرسی کے سہارے ہوا میں لٹا دینا اور اس پر سینکڑوں من وزنی بوجھ لاد دینا۔ معمول ہر شخص کے جسم کو چھو کر اس کی بیتی ہوئی اور آئندہ زندگی کے حالات بلا کم و کاست بتلا دیگا۔ سائل کے جیب میں پڑی ہوئی سربمہر عبارت کو لفظ بلفظ پڑھ دے گا۔ اور اس کے گھر کے حالات بن دیکھے اس طرح بیان کریگا کہ گویا وہاں برسوں بود و باش رکھ چکا ہے ⑧ نظر بندی کے شعبدے' جانوروں میں سے بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ متاثر کر کے کاٹھ کے الوؤں کی مانند بنا دینا۔ بغیر رسی کے ان کے ہاتھ پیر جکڑ دینا۔ زبان بند کر دینا اور آگے پیچھے کی سمت گرا دینا۔ برف کے ٹکڑے کو آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ بنا دینا اور دہکتے ہوئے کوئلے کو برف کی مانند محسوس کرانا۔ ایک کا ہاتھ برف کے ٹکڑے سے جلنے لگیگا۔ اور دوسرا دہکتے ہوئے کوئلہ کو ہتھیلی پر رکھ کر ٹھنڈک محسوس کریگا۔ ⑨ نظر بندی سے معمول کتے یا بلی کو شیر سمجھ کر خائف ہو جائیں گے اور شیر کو گیدڑ سمجھ کر بے دھڑک اس کی سواری کریں گے۔ رسی پر سانپ کا دھوکہ کھا کر اس سے دور بھاگیں گے مگر سانپ کو رسی جان کر گلے میں ڈالے پھریں گے۔ کچے آٹے کو حلوہ کے بھروسے مزے لے لیکر کھائیں گے اور حلوائے سوہن کو گند سمجھ کر اسکی بدبو سے ناک بھوں چڑھائیں گے۔ الغرض اس قسم کے بیشمار تماشے اسٹیج پر دکھائے جا سکتے ہیں جنکو دیکھ کر لوگ ہنستے ہنستے لوٹن کبوتر بن جائیں گے ⑩ عمل جب اپنی معشوق کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے طریقے۔ پتھر سے زیادہ سخت دل معشوق بھی سات تالے توڑ کر اور سمندر پھاند کر حاضر ہوگا۔ اور عاجزی کریگا ⑪ مسمریزم کے ذریعہ ہر قسم کی پیشگوئی کرنا۔ زمانہ گذشتہ و آئندہ کے حالات معلوم کر لینا۔ دوسرے شخص کے دل کی بات بتا دینا۔ کھوئی ہوئی چیز یا گڑے ہوئے دفینے کا پتہ معلوم کر لینا ⑫ حاکم یا افسر کو اپنے اوپر مہربان یا دشمن کو دوست بنا لینا ⑬ حیوانوں کو متاثر کرنے کی ترکیبیں یہاں تک کہ سانپ بچھو جیسے زہریلے جانور اور شیر چیتے جیسے خونخوار درندے بھی آپ سے خوف کھائیں گے ⑭ اپنے کاروبار کو فروغ دینا۔ گاہکوں یا ان لوگوں سے جن سے روزمرہ واسطہ پڑتا ہے۔ اپنی جانب کشش کر کے حسب منشا کام نکلوا لینا ⑮ بذریعہ روشن ضمیری معمول کو دوسرے مقامات کی سیر کرانا اور وہاں کے حالات معلوم کرنا۔ مہلک اور پیچیدہ امراض کے نسخے تجویز کر لینا وغیرہ وغیرہ ضروری درخواست نوٹ۔ [illegible] کی درخواست خریداری کے ہمراہ راز داری کے علاوہ اس بات کی حلفیہ تحریر آنی چاہیئے کہ انہیں بتلائے گئے عملیات سے آپ ہرگز ہرگز ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں گے ورنہ آرڈر کی تعمیل نہ ہوگی۔ وجہ کیا کہ کتاب مذکور کے عملیات ایسے آسان پیرایہ میں اور اس فصاحت کے ساتھ لکھے گئے ہیں کہ ایک ناواقف شخص بھی اگر ان پر عمل پیرا ہونے کا تہیہ کر لے تو چند دنوں کی مشق کے بعد عامل کامل بن سکتا اور لوگوں سے اپنی پرستش کروا سکتا ہے۔ اندریں صورت ہمارے لئے یہ لازم ہوا کہ ہر ایک خریدار سے نیک نیتی کی حلفیہ تحریر لی جائے۔ کتاب ہذا کو عام بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہوگا جو بالکل بے سروپا اور لغو ہوتی ہیں لیکن اس کتاب کا ہر ایک عمل نہایت آسان سہل الحصول اور لاکھ لاکھ روپیہ کا ہے مجلد اور باتصویر کی قیمت صرف [illegible] مگر پہلے یکصد خریداروں کیلئے [illegible]

## پانچ منٹ میں ہمزاد

کسی ہندوستانی فقیر سے یہ ترکیب ہمیں حاصل ہوئی ہے جس کی بدولت ہر شخص گھر بیٹھے ۵ منٹ میں ہمزاد کو دیکھ سکتا ہے۔ ترکیب مذکور اگر آپ بالکل مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہماری کتاب رموز ہمزاد ایک روپیہ کی وی پی سے طلب کیجئے جس میں تسخیر ہمزاد سے متعلق قدیم ہندو یوگیوں اور مسلمان درویشوں کے سینہ بسینہ منتقل ہونیوالے خفیہ رازوں کا انکشاف ۳۰ اسباق میں کیا گیا ہے۔ جو بالکل عام فہم اور ایسے سہل الحصول ہیں کہ ایک بچہ بھی چاہے تو آسانی سے عمل کر لے۔ کسی قبرستان۔ ندی یا دریا کے کنارے جانے کی ضرورت نہیں گھر میں بیٹھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ ہماری بتلائی ہوئی ترکیب سے آپ ہمزاد کو دیکھ تو پہلے ہی روز لینگے۔ مگر تسخیر ہو کر وہ ہمکلام ۲۱ یوم میں ہوگا۔ ایک صد روپیہ کا انعام اس شخص کیلئے رکھا گیا ہے جو یہ ثابت کر دے کہ تسخیر ہمزاد سے متعلق رموز ہمزاد سے بہتر کتاب کسی زبان اردو میں شائع ہو چکی ہے۔ تسخیر ہمزاد کے فائدے:۔ ۱۔ سات پردوں میں چھپے ہوئے نامہربان اور سنگدل محبوب کو بھی ہمزاد ایکبار کھینچ لائیگا اور آپکے قدموں پر گرا دیگا ۲۔ مہلک اور لاعلاج بیماریوں کے تیر بہدف نسخے تجویز کر دیگا ۳۔ ہزاروں میلوں سے بے موسم کے پھل انواع و اقسام کے تحفے [illegible] پل بھر میں لا دیگا ۴۔ حاکم و افسر کو مہربان بنا کر بڑے بڑے کام نکلوا دیگا ۵۔ گمشدہ کا پتہ دیگا ۶۔ بیتے ہوئے اور آئندہ ہونیوالے واقعات بے کم و کاست بتلا دیگا۔ [illegible] ایسی ایسی ترکیبیں بتلائیگا کہ عامل گنتی کے دنوں میں دولت دنیا سے مالا مال ہو جائیگا۔

[illegible]

نیو پرسنل ٹریڈنگ کمپنی
پوسٹ بکس نمبر ۱۵ - لاہور



قسمت پلٹ المعروف ناقص گرہ توڑ انگشتری شریف

# بگڑی تقدیر بنالو

بنارس کے مشہور عالم جوتشی شری یت پنڈت برہمانند صاحب لوگاچاریہ بھرگو شاستری کی حیرت انگیز ایجاد اب کوئی شخص بدقسمت نہیں رہیگا جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنالو۔ جیوتش سنسار میں معجزہ انگیز انقلاب۔ ستاروں کی گرہ چال کی رو سے "ناقص گرہ توڑ انگشتری" کو غلط ثابت کرنیوالے پنڈت کیلئے ایک ہزار روپیہ نقد انعام

اگر آپ گردش روزگار کے ستائے ہوئے اور بدقسمتی کے ہاتھوں نالاں ہیں، آپکا کوئی کام بن بن کر بگڑ جاتا ہے سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے روزگار کیلئے آپ بہتیرے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں مگر پیسہ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آپ کو اولاد کی چاہ ہے۔ ننھے منے گورے چٹے بچہ کو گود میں کھلانے کی آرزو ہے۔ نرینہ اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی۔ اگر آپ خوبصورت استری کے خواہشمند ہیں پر شادی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ رشتہ بن بن کے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ مقدمہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ روپیہ پانی کی طرح صرف ہو رہا ہے۔ مگر عزت محفوظ رہنے کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ کسی پیچیدہ اور سنگین بیماری میں مبتلا حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کراتے کراتے مایوس ہو چکے ہیں اور بیماری جوں کی توں قائم ہے۔ اگر آپ کسی دشمن کے خوف سے پردیس میں زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ اور دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے۔ کہ وطن جاتے ہی کوئی نیا جھگڑا کھڑا کر دیگا۔ اگر آپ کسی اعلیٰ ملازمت کیلئے سرگرداں ہیں آپ میں علمی لیاقت کی کمی نہیں سند بھی اچھی ہے۔ مگر افسر ہے کہ ہزار کوشش اور سفارش کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ اور یہی گردش آپ کی ساری بہتری خاک میں ملا رہی ہے۔ ہمارے بیان کی صداقت کا امتحان کرنے کیلئے اپنی جنم پتری کسی عالم پنڈت یا جوتشی کو دکھلائیے وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا کہ فلاں گھر میں منگل و فلاں گھر میں سنیچر پڑا ہوا کیتو پڑے ہیں اسی وجہ سے آپ کی تقدیر خراب ہے اور کوئی کام راس نہیں آتا۔

## آپکی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے

اس سائنٹفک اصول کو ہمارے رشی منی تو پہلے ہی سے جانتے تھے۔ مگر اب مغرب والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ سورج۔ چاند۔ راہو۔ برہسپت۔ بدھ۔ سنیچر۔ منگل۔ کیتو اور شکر ایسے سیاروں کی مقامی حالت کا اثر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی آئندہ زندگی پر پڑتا ہے۔ گویا یہ ستارے بہ حیثیت مجموعی انسانی تقدیر کو مختلف سانچوں میں ڈھالتے ہیں۔ انہیں کے اثر سے کبھی راحت و آرام کا زمانہ آتا ہے۔ اور کبھی انسان قسم قسم کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر بنارس کے مشہور عالم جوتشی **پنڈت برہمانند** صاحب بھرگو شاستری نے اپنے تجربہ، مشاہدہ اور برسوں کی تحقیقات کے بعد اس شعبہ میں ایک نئی بات دریافت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ راہو اور کیتو کے علاوہ منگل اور سنیچر دو نہایت طاقتور اور نحوس ستارے ہیں جو مقررہ وقت پر اپنا نحس اثرات سے دوسرے سعد (نیک) ستاروں کے اثر کو بھی زائل کر دیتے ہیں اور انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آلہ بنایا جا

کرنگل سنیچر یا کسی دوسرے منحوس ستارے کا اثر انسانی قسمت پر نہ پڑ سکے۔ تو پھر کسی شخص کا بدقسمت رہنا ناممکن ہو جائیگا۔ چنانچہ اسی اصول کو عملی جامہ پہنانے کیلئے پنڈت صاحب موصوف نے پانڈکرانی میں شانتی اور ایک سو منتروں کا جاپ کر کے مختلف دھاتوں کے مجموعے سے اشٹ گرہ توڑ انگشتری تیار کی ہے جو سو فیصدی حالتوں میں کامیاب رہی ہے اور بڑے بڑے راجے مہاراجے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ دیکھنے میں یہ انگشتری نہایت چمکدار اور خوبصورت ہے۔ بلکہ اس کی بگل نما شاخوں سے آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ جس وقت اشٹ گرہ توڑ انگشتری کسی بدقسمت انسان کی انگلی میں پہنا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سے کسی منحوس ستارے کا اثر بالعموم اور منگل اور سنیچر کا اثر بالخصوص اس شخص کی زندگی پر نہیں بلکہ براہ راست اس طلسمی انگوٹھی پر پڑ کر زمین میں جذب ہونے لگتا ہے اور **پہننے والا منحوس ستاروں کے برے اثرات** سے ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتا ہے۔ **آٹھ دھاتوں کی یہ قسمت پلٹ انگشتری** بچے بڈھے جوان عورت مرد غرضیکہ سب کیلئے یکساں مفید ہے۔ بچوں کے گلے میں پہنانے سے اُن کے دانت آسانی سے نکل آئیں گے۔ آسیب نظر، جادو ٹونہ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اور **چیچک یا دیگر وبائی بیماریوں سے** وہ قطعاً محفوظ رہیں گے عورت پہنے گی تو اس کے حسن اور عزت کو فروغ ہوگا۔ بیماری اور افسردگی دم دبا کر بھاگ جائیں گی اور ہر ایک خواہش کی تکمیل آپ سے آپ ہونے لگیگی۔ مرد کیلئے اس طلسمی انگشتری کو پہننا گویا خوشحالی اور فارغ البالی کو دعوت دینا ہے۔ اس کے برے دن اس طرح غائب ہو جائیں گے **جیسے بادلوں کے ٹکڑے سورج کی کرنوں سے منتشر اور پریشان ہو جاتے ہیں** مفلسی اور بیماری کا نام و نشان نہیں رہیگا منحوس ستاروں کا اثر ٹل جانے پر بہتری کی صورت خود بخود پردۂ غیب سے ظاہر ہو جائیگی۔ اگر آپ ہتھیلی پر سرسوں جمانا یا علم سیارگان کے اس زندہ معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں اگر آپ کی خواہش ہے کہ **جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے** اتنی ہی دیر میں آپ کی تقدیر پلٹا کھا جائے اور برے دن یک قلم دور ہو کر **آپ دنیا کے خوش نصیب انسانوں میں شمار ہونے لگیں** تو دیر نہ کیجئے اور اپنی سب سے پہلی فرصت میں آرڈر بھیج دیجئے کیونکہ اس مرتبہ اشٹ گرہ توڑ انگشتریاں بہت تھوڑی تعداد میں تیار کی گئی ہیں اور منافع اتنا کم رکھا گیا ہے۔ جیسے آٹے میں نمک یعنی قیمت باوجود ان تمام خوبیوں کے صرف عہ فی انگشتری جو اس کی لاگت کے برابر ہے۔ کیونکہ ہر ایک انگشتری کی تیاری پر قریب قریب ایک روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ محصول ڈاک ایک سے تین تک ۸ آنہ۔ اشتہار کے برعکس ثابت ہونے پر بلا تامل قیمت دام واپس کر دیں گے۔ واپسی کیلئے کوئی خاص شرط نہیں آپکو صرف اتنا لکھنا ہوگا **آپ کی ہدایت کے مطابق انگشتری کو پہنے ۲۱ دن ہو چکے مگر میں پرماتما کو ساکشی جان کر کہتا ہوں کہ میری قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں لہذا اپنی انگوٹھی لیکر قیمت دام واپس کر دیجئیگا**۔ اشتہاری دنیا سے بدظن لوگوں کے اطمینان کیلئے اس سے زیادہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص قسمت پلٹ انگشتری کی برکتوں سے محروم رہے تو اس کے نصیب ٭

**[illegible]** (۱) آپ سے دو انگوٹھیاں گرہ توڑ منگوائی تھیں۔ آپ نے جیسی انکی تعریف سنی تھی تجربہ پر ویسی ہی ثابت ہوئیں۔ براہ کرم ایک اور انگوٹھی میری بیوی کیلئے بھیج دیں [illegible] شریمتی [illegible] سندری (۲) میں نہایت خوشی سے آپکو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ آپکی گرہ توڑ انگوٹھی پہننے کے تیرہ دن بعد مجھے ملازمت مل گئی۔ اب [illegible] چار اور انگوٹھیاں حسب ذیل پتہ پر الگ الگ بھیج دیجئے گا ڈاکٹر نرائن اہلکار [illegible] فیض آباد (۳) میں عرصہ ۱۲ سال سے نزلہ و دیگر دماغی امراض سے تنگ آیا ہوا تھا۔ کئی حکیموں و ڈاکٹروں سے علاج کرایا لیکن بیکار۔ آخر پچھلے سال آپکی گرہ توڑ انگشتری کی آزمائش کی اور چند دن کے بعد محسوس کرنے پر میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی کہ بیماری خود بخود گھٹتی جا رہی ہے اور اب [illegible] یہ خط بطور سرٹیفکیٹ آپکو لکھ رہا ہوں۔ بالکل تندرست ہوں میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپکی اس نادر ایجاد کیلئے شکریہ ادا کر سکوں (وید شاستری پنڈت پورن آنند شرما [illegible] ضلع [illegible]) (۴) اپنی حالت میں جب بیماری اور بیکاری کی حالت تھی۔ تب آپ سے گرہ توڑ انگشتری منگوائی تھی۔ انگوٹھی پہننے سے یہ فائدہ ہوا کہ بیماری بھی جاتی رہی اور بیکاری کی بجائے اچانک مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی جب تک انگوٹھی میری انگلی میں رہی مجھے مالی طور پر برابر فائدہ پہنچتا رہا اور نوکری بھی رہی مگر جب سے انگوٹھی ٹوٹ کر کہیں کھو گئی ہے میں پھر سے پریشان ہو گیا ہوں براہ مہربانی دوسری بذریعہ وی۔ پی ارسال فرمائیے (لوکناتھ پرشاد سری واستو جھوسی الٰہ آباد) (۵) میں آپ کی اشٹ گرہ توڑ انگشتری کا اثر دیکھ چکا ہوں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت اسی کی بدولت محکمہ پولیس میں نوکر ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے ایک انگشتری اور میرے پتہ سے بذریعہ وی۔ پی ارسال فرمائیے (جانکی پرشاد کانسٹیبل مظفر گڑھ) وغیرہ وغیرہ ۔ مفصل [illegible] فہرست طلب کر دیکھئے ٭

قیمت
صرف عہ
محصول ڈاک ۸

**یونیورسل ٹریڈنگ کمپنی**
**پوسٹ بکس نمبر ۱۵۰ لاہور**

مضمون اشتہار و ڈیزائن
رجسٹری شدہ

ایک نظر بھر کے جسے دیکھا اُسے رام کیا

# آنکھ کا جادو!

معجون آنکھ سنوار کاجل رجسٹرڈ

[illegible]

یہ وُہ جادو ہے کہ جس کا نہیں ثانی جگ میں

گورا چہرہ بھرے بھرے رخسار ۔ ستواں ناک ۔ ابھری ہوئی پیشانی موٹی موٹی رسیلی اور مدھ بھری آنکھیں لمبے اور پتلے ہونٹ اور اُن کے اندر موتیوں کے سے دانتوں کی دو لڑیاں ۔ یہ سب حسن کے لوازمات قدرت نے جس عورت کو دیے ہیں وہی پدمنی ہے ۔ پدمنی جو انگلی کے اشارے سے سارے عالم کو ایک ہی تال پر نچا بھی سکتی ہے اور نگاہِ قہر سے دیکھ کر تہ و بالا بھی کر سکتی ہے ۔ لیکن اگر لاکھ پری چہرہ اور رشک حور ہونے کے باوجود بھی عورت کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی ہیں تو یوں سمجھو کہ قدرت نے سحر و افسوں کا دروازہ اس پر بند کر دیا ہے ۔ اسمیں کوئی دلکشی کوئی کشش اور کوئی خوشنمائی نہیں ۔ کوئی شخص اس کی طرف آنکھ اُٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے گا ۔ ہمارا "آنکھ سنوار کاجل" رجسٹرڈ نہ صرف آنکھ کے جملہ امراض ضعف بصر، رو ہے، ککرے ۔ موتیا بند ۔ ناخنہ ۔ شبکوری ۔ آشوب چشم ۔ جالا ۔ دھندلا اور پڑبال وغیرہ کو جڑ سے اکھاڑ کر بینائی کو تیز اور عینک کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتا ہے ۔ بلکہ اسکے چالیس یوم تک متواتر استعمال کرنے سے چھوٹی سے چھوٹی آنکھ موٹی، چمکدار، خوبصورت اور رسیلی بن جاتی ہے ہلکے ہلکے گلابی رنگ سے جو بالکل قدرتی معلوم ہوتا ہے آنکھوں میں کچھ اس قسم کی دلکشی اور دلربائی پیدا ہو جاتی ہے کہ بے اختیار دیکھے جاؤ اور طبیعت سیر نہ ہو کیونکہ آنکھوں کو ہلکی گلابی رنگت دیکر موٹی موٹی گول گول کٹیلی ابھری ہوئی خوبصورت اور دلکش بنا دینا ہمارے آنکھ سنوار کاجل کا خاص وصف ہے ۔ ننھے منے بچے جن کی آنکھیں پیدائش کے وقت سے خراب یا چھوٹی چھوٹی اور عموماً دکھتی رہتی ہیں ۔ انکے لئے ہمارا آنکھ سنوار کاجل ایک نعمت عظمےٰ ثابت ہوگا اور چند یوم کے استعمال سے آنکھ کی کوئی شکایت باقی نہ رہیگی ۔ بلکہ آنکھیں ایسی خوبصورت معلوم ہونے لگینگی کہ گویا ہزار تندرست بچوں کی آنکھوں کی خوبصورتی انہیں دو آنکھوں میں آکر جمع ہو گئی ہے ۔ چیچک (جس کا وحشیانہ شکار یہی معصوم ہستیاں ہوتی ہیں) کا حملہ اکثر آنکھ پر ہو کر آنکھ کو بالکل ضائع کر دیتا ہے ۔ اور تب وہ پیاری پیاری شکلیں نفرت اور حقارت کا ایک نمونہ بن کر رہ جاتی ہیں ۔ آنکھ سنوار کاجل کے دائمی استعمال سے آنکھیں برف کی طرح ٹھنڈی اور فولاد کی طرح محفوظ رہتی ہیں ، اور چیچک یا کسی بیرونی بیماری کا اثر آنکھ پر نہیں پڑتا ۔ گویا آنکھ کا بیمہ ہو جاتا ہے اور ننھے بڑے بوڑھے ہرگز کبھی آنکھ کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے ۔ غرضیکہ آنکھ سنوار کاجل رجسٹرڈ بیسویں صدی کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے ۔ اور اس کا استعمال ہر گھر میں ہونا چاہئے ۔ قیمت باوجود ان خوبیوں کے شیشی کلاں لعہ شیشی خورد ۱۲ر محصولڈاک ایک سے تین شیشی تک صرف ۸ر

## آنکھوں کی کسرتیں بالتصویر!

اس نام کی کتاب امریکہ کے ایک نامی گرامی ڈاکٹر نے لکھی ہے جو اس جدید طریقہ علاج کا موجد ہے ۔ انوکھی چیز ہونے کے باعث یہ کتاب اِن لاکھوں کی تعداد میں ہاتھوں ہاتھ بک چکی ہے ۔ اسمیں ڈاکٹر صاحب موصوف نے آنکھوں کی بینائی اور درستی کیلئے انگلوں کی مالش اور آنکھوں کے غسل کے طریق کے علاوہ کچھ کسرتیں حوالہ قلم کی ہیں جن کو دس پندرہ منٹ روزانہ کرنے سے بارہ پندرہ سال کی بگڑی ہوئی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں ۔ اور پھر عینک لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی ۔ امریکہ کے ہزاروں لاکھوں آنکھ کے مریضوں نے ان کسرتوں سے فائدہ اُٹھایا ہے ، اور عینکیں اُتار اُتار کر پھینک دی ہیں ۔ بڑھاپا یا کسی بیماری کے باعث آنکھیں چاہے کیسی خراب ہو گئی ہوں آنکھوں سے پانی بہتا ہو ۔ آنکھیں چندھیا جاتی ہوں یا کسی وجہ سے آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہو تو ان کسرتوں سے ایک ہفتہ میں غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے یہ کسرتیں نہایت ہی آسان ہیں اور ان کو اندر باہر ہر جگہ ہر عمر کا آدمی کر سکتا ہے ۔ کتاب کے اردو ترجمہ کی قیمت صرف تین روپئے ۔ لیکن آنکھ سنوار کاجل کے خریدار کو مفت دی جائیگی ۔

## چہرہ بدلنے کی مشین!

خوبصورت اور بھرا بھرا چہرہ عورت کی سب سے بڑی دولت ہے ۔ اگر یہ دولت قبل از وقت چھن گئی تو یوں سمجھو کہ عورت کی دنیا تاریک ہو گئی ۔ ہماری دوائی "حسن خوباں" رجسٹرڈ کے استعمال سے بڑی بوڑھی عورتوں کے بے رونق اور بے آب چہرے بھی ایک بار شباب کی رعنائی اور شگفتگی حاصل کر لیتے ہیں ۔ جھریاں اور داغ زردی اور بدنما لکیریں ایکدم غائب ہو کر چہرہ کی سردی ۔ سوکھا پن اور بے رونقی شباب کی سُرخی و شگفتگی میں بدل جاتے ہیں اور ۴۰ ۔ ۴۵ سال کی عورت ۱۴ ۔ ۱۵ برس کی حسین دوشیزہ معلوم ہونے لگتی ہے ۔ آپ نے خوبصورتی پیدا کرنے والی بیسیوں دوائیاں استعمال کی ہونگی مگر تجربہ کر کے دیکھئے کہ حسن خوباں کے مقابلہ میں سب ہیچ معلوم ہونگی ۔ قیمت باوجود ان خوبیوں کے صرف ایک روپیہ فی [illegible]

**نوٹ** ۔ حسن خوباں تمام جلدی امراض مثلاً خارش داد ۔ چھائیں ، مہاسے ، چنبل ، کھجلی ، ہاتھ پیر اور ہونٹوں کے پھٹنے ، پھوڑے ۔ نیز ہر قسم کے ورم کو بے حد مفید ہے ۔

عورتوں کی ڈھلکی ہوئی چھاتیوں کیلئے بے نظیر و لاثانی دوا

## جوبن بہار

رجسٹرڈ

جس کی بدولت چالیس سالہ عورت چودہ سالہ دوشیزہ کے مطابق ہو سکتی ہے ۔ جس طرح مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو دیتا ہے ویسے ہی عورت بھی اپنی ڈھلکی ہوئی اور بدصورت چھاتی دیکھ کر رو دیتی ہے مگر اسے اتنا خیال نہیں آتا کہ زمانہ حال کی نو ایجاد دوائی "جوبن بہار" رجسٹرڈ منگا کر استعمال کرے ۔ اس بے صفت موصوف دوائی کے استعمال سے ڈھلکی ہوئی بدنما چھاتیاں چند روز میں چودہ سالہ کنواری لڑکی کی مانند ہو جاتی ہیں جس عمر کے لئے ہر شخص متلاشی نظر آتا ہے ۔ بقول ؎ باقی نہ دل میں کوئی بھی یارب ہوس رہے ۔ چودہ برس کے سِن میں وہ لاکھوں برس رہے ۔ یہ تیل عورتوں کی گری ہوئی چھاتیوں کو اصلی حالت پر لانے کے لئے حیرت انگیز کام کرتا ہے ۔ افسوس ہے کہ جو عورتیں قبل از شادی خوبصورت چھاتیاں رکھنے کا دعویٰ رکھتی ہیں ۔ ایک دو بچہ ہوتے ہی اس خوبصورتی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں ۔ ان کے لئے یہ بات باعث مسرت ہے کہ ہم نے یہ روغن ایجاد کر کے ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے ۔ اسکے استعمال سے ہر عورت جس کو اپنی کھوئی ہوئی دولت کی تمنا ہے یقینی طور پر حاصل کر سکتی ہے اور اپنے شجر ہستی پر جوانی کے کھوئے ہوئے ثمر پھر ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے ۔ زیادہ تعریف کی قانون اجازت نہیں دیتا ۔

ملنے کا پتہ

**ڈاکٹر پرتھی سنگھ اینڈ سنز ۔ ڈاکٹر پرتھی سنگھ بلڈنگ نمبر ۱۵۰ ۔ لاہور**

قیمت فی شیشی
ایک روپیہ (عہ)

# ملاپ کی پہلی رات

با تصویر

پہلی شب جبکہ ہر دو فریق کا امتحان ہوتا ہے
پہلے "ملاپ کی پہلی رات" کا مطالعہ آپ کیلئے
ازبس ضروری ہے ورنہ عدم واقفیت کے باعث
اگر کہیں خدانخواستہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے
تو عمر بھر بیوی کی نظروں میں ذلیل و خوار رہیں گے
اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادو بھی آپ کے
کھوئے ہوئے وقار کو واپس نہ لا سکے گا۔

یعنی مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کی وہ شب [illegible] ملاپ کی پہلی رات گویا دولہا اور دلہن کے امتحان کی رات ہوتی ہے۔ ادھر تو نئی دلہن سولہ سنگار سے آراستہ ہو کر [illegible] کے دل میں چھپائے [illegible] ہے [illegible] کے لئے اسے اپنا [illegible] ادھر مرد اپنی مردانگی محبت اور ایثار کے جوہر دکھا کر بیوی کو حلقہ بگوش بنانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں اور ہار دوسرے کی ہو۔ اگر آپ اس نازک امتحان میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر کے اپنے گرہستی جیون کو سورگ [illegible] بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عورت کی فطرت۔ عورت کے پوشیدہ جذبات کیا ہیں؟ دلہن کیا چاہتی ہے؟ باغ حسن کی گلچینی کرنے کے باوجود دلہن کے حسن و جمال کے جوبن کو کس طرح قائم اور برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے بیچ خلا اور دوری [illegible] کون کون سے ہیں۔ تو دو سو صفحہ کی باتصویر کتاب "ملاپ کی پہلی رات" سب سے پہلی فرصت میں طلب کیجئے۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اس کتاب میں شادی شدہ جوڑے کے لئے تین سو سے زائد پوشیدہ ہدایتیں اور [illegible] راز کی باتیں درج کی گئی ہیں غرضیکہ وہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے جو ایک نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو گرہستی زندگی اختیار کرنے سے پہلے جان لینا چاہئے۔ پھر لطف یہ کہ زبان ایسی سلیس [illegible] عورتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ملاپ کی پہلی رات کے الف بے تے کو جو مرد نہیں جانتے وہ جوانی کے عالم میں بڑھے ہو کر عورت کی نظر میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ یہ کتاب مرد و عورت دونوں کے لئے سچے رہنما کا کام دیگی اور وہ سو سال کی عمر تک طاقتور جوان اور خوبصورت رہ کر زندگی کی بہار لوٹتے اور حسب پسند اولاد پیدا کرنے کے قابل بنے رہیں گے۔ قیمت بارہ آنے (۱۲) محصولڈاک ۵ (ر)

---

[illegible]

## کیا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں

اور وہ آپ کی جانب التفات نہیں کرتا ہے۔ تو محبت کے خطوط کا مطالعہ کیجئے۔ [illegible] کی [illegible] کتاب میں عاشق و معشوق اور میاں بیوی کی پوشیدہ خط و کتابت [illegible] محبت [illegible] ہیں [illegible] خطوط [illegible] میں [illegible] کشش اور جادو [illegible] دل کو موم کی ناک کی مانند بنایا جا سکتا ہے [illegible] محبت [illegible] قیمت صرف [illegible] آنے علاوہ محصولڈاک۔

---

## بڈھے بھی جوان ہونے لگے

[illegible]

---

بالکل سچے مجرب [illegible] آزمودہ عملیات کا خزانہ

## قدیم مصری جادو نامہ

[illegible] جادو [illegible] دنیا کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہو۔ [illegible] ہمزاد کا عمل اور جنات کی تسخیر [illegible] ہزار سال پہلے کی [illegible] مصری کتاب [illegible] اردو ترجمہ [illegible] مصری جادوگروں [illegible] ہمزاد کا عمل [illegible] تسخیر [illegible] عملیات [illegible] محبت [illegible] کتاب کی قیمت صرف [illegible] ایک ہزار روپیہ کا [illegible] عملیات کی اس سے بہتر کتاب اردو میں پیش کر سکے

---

[illegible] پانی کا صحیح طریق استعمال سیکھ کر [illegible] علاج آبی [illegible] صرف سادہ پانی سے [illegible] روپیہ ماہوار کی آمدنی پیدا کر سکتا ہے

[illegible] قیمت [illegible] آنہ

---

## آپکے ہاتھ کی لکیریں

[illegible] ہاتھ کی لکیروں [illegible] زندگی کو [illegible] اس کتاب کو پڑھ کر [illegible] قیمت فی جلد [illegible] آنے [illegible]

[illegible] اقبال [illegible] نمبر ۱۲۳ لاہور

مضمون
اشتہار و ڈیزائن
رجسٹری شدہ

# کھوئی ہوئی جوانی پھر واپس آسکتی ہے

قیمت فی شیشی
دو روپیہ چار آنہ
محصول ڈاک [illegible]

بڈھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی طاقت کی بےنظیر دوائی دیکھ لینا! **فاسفرول** کے استعمال سے آپ کبھی نوجوان بڈھا نہیں ہونے پائیگا بلکہ گئے گذرے بڈھے بھی نئے سرے موٹے تازے ہٹے کٹے اور گبھرو جوان بنکر نوجوانوں کی صف میں بھی شامل ہونے لگینگے سچ مچ انکی جوانی واپس لوٹ آئیگی دنیا کی ہر نعمت انہیں پھر حسین اور خوبصورت معلوم ہونے لگیگی زندگی کی تمام خوشیاں انہیں حاصل ہو جائینگی فاسفرول سپین ہی کی وہ حیرت انگیز ایجاد ہے جس نے یورپ اور ایشیا کی طبی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے

**فاسفرول** رجسٹرڈ
کا
استعمال کرو

**فاسفرول** تمام ہندوستان میں مشہور ہے ہر قصبہ اور گاؤں میں اس کی تعریف کرنے والے موجود ہیں **فاسفرول** ہر قسم کی دماغی کمزوری کیلئے اکسیر اور ہر عمر اور ہر موسم میں کھانے کے لائق ہے **فاسفرول** کے سامنے سونے چاندی کے کشتے نیز سینکڑوں قسم کی قیمتی دوائیاں بیکار ہیں **فاسفرول** کے استعمال سے بھوک اس قدر لگتی ہے کہ سیروں دودھ اور چھٹانکوں گھی ہضم کر جاؤ **فاسفرول** دماغی قوا کیلئے اتنی مفید ہے کہ برسوں کی بھولی ہوئی باتیں خود بخود یاد آنے لگیں گی- **فاسفرول** کا ایک ایک قطرہ آب حیات کا ایک گھونٹ ہے یہ عورتوں کیلئے ویسی ہی مفید ہے جیسی مردوں کیلئے اکسیر صفت ہے **فاسفرول** کے استعمال سے پہلے اپنا وزن کر لو اور پھر استعمال کرنے کے بعد اپنا وزن کرو- ایک بکس چار سیر خون بڑھا دیگا **فاسفرول** کے استعمال سے ۱۸ گھنٹہ روزانہ کام کرو گے تو بھی تکان معلوم نہ ہوگی **فاسفرول** جریان احتلام اور سرعت انزال کو جڑ سے اکھیڑ دیگی- دنیا میں جس قدر طاقت کی دوائیاں ہیں- ان کی تاثیر عموماً گرم خشک ہوتی ہے نیز وہ قبض کی شکایت پیدا کرکے اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچاتی ہیں مگر **فاسفرول** تاثیر میں گرم تر اور قبض کشا ہے یہ جگر کے فعل کو درست کرکے قبض کی شکایت ہمیشہ کے لئے رفع کر دیگی **فاسفرول** چہرہ کو گلاب کے پھول کی طرح شاداب اور کندن کی طرح شگفتہ بنا دیگی **فاسفرول** کے ایک ایک قطرہ میں دنیا جہان کی لذتیں حل کی گئی ہیں **فاسفرول** کوئی نئی چیز نہیں سینکڑوں نامراد اس کی بدولت بامراد بن چکے ہیں **فاسفرول** کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حد درجہ کی مقوی ہے امساک اس قدر بڑھاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے جو شخص ایک شادی کرکے بھی پشیمان اور ناکام ہو- اس ناکام شخص کو اس کی آرزو سے ۵ حصہ زیادہ قوت حاصل ہوگی- المختصر جوہرات تحریر میں نہیں آسکتے اس کو عملی طور پر تجربہ کرکے دیکھ لیجئے اس سے بہتر طاقت بڑھانے کیلئے اور کوئی دوائی نہیں ملیگی- ایک بکس کی قیمت جس میں مہینہ بھر کی خوراک بند رہتی ہے- صرف دو روپے چار آنہ ( [illegible] )

**ایک ہزار روپیہ نقد انعام**

اس شخص کو دیا جاویگا جو مندرجہ ذیل سندات میں کسی ایک کو فرضی ثابت کرے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک زبان ہو کر کیا کہتے ہیں

① فاسفرول بےشک آب حیات ہے ایک شیشی اور بھیج دیجئے منشی بخش سنگھ سیتاپور ② فاسفرول نے واقعی جادو کر دیا- میں نے اپنی زندگی میں طاقت کی ایسی زبردست دوائی کبھی نہ دیکھی تھی ایک شیشی اور بھیج دیجئے بھولا ناتھ مقام مہوبہ یو-پی ③ تین شیشی اور ارسال فرمائیے کیونکہ آپ کی دوائی سے مریض کو بہت فائدہ ہوا ہے- محمد حسین منی پور آسام ④ فاسفرول کے استعمال سے میری بیوی کو بہت فائدہ ہوا ایک شیشی اور بھیج دیجئے- [illegible] قلب [illegible] ⑤ فاسفرول کی شیشی پچھلے مہینہ منگوائی تھی بہت فائدہ حاصل ہوا دو ماہ کی خوراک اور بھیج دیجئے- کاہن سنگھ فرخ آباد ⑥ فاسفرول نے میری مایوسی کو خوشی سے بدل دیا- ایک شیشی اور بھیج دیجئے- گھبیر نواب خان سرونج مالوہ ⑦ فاسفرول کی ایک شیشی استعمال کر چکا ہوں غیر معمولی فائدہ ہوا ہے ایک اور بھیج دیجئے- خوشدل لاری اہلکار گورکھپور ⑧ فاسفرول کو میرے چند احباب اور میں نے خود بھی چند قطرے استعمال کئے- توقع سے زیادہ مفید پایا حقیقی معنوں میں آب حیات ہے- اگر چند دنوں اس کا مسلسل استعمال کیا جائے تو غیر معمولی فائدہ ہوگا- فصاحت حسین ہیڈ کلرک کلکٹری گورکھپور ⑨ آپ کے کارخانہ سے فاسفرول کی جو شیشیاں استعمال کیں بلا مبالغہ ویسا ہی اثر پایا جیسا کہ اشتہار میں دیکھا تھا- اب میری جسمانی صحت اور تندرستی بہت عمدہ ہوگئی ہے- پرم رام شرما ٹھکر سہارنپور ⑩ فاسفرول دماغی کمزوری کے لئے واقعی اکسیر ثابت ہوئی ہے دو شیشی اور بھجوا دیجئے- ایک میں خود استعمال کرونگا اور دوسری تحصیلدار صاحب کے واسطے منگوائی جا رہی ہے- پنڈت ہر دت نائب تحصیلدار بھرت پور ⑪ فاسفرول کی دو شیشیاں مل گئیں حقیقت میں آپ کی دوائی میرے لئے از بس مفید اور زود اثر ثابت ہوئی ہے ایک شیشی اور خط دیکھتے ہی وی پی سے بھجوا دیجئے- چودھری حبیب الرحمان خان تحصیل علی گڈھ ⑫ میں جگر کی خرابی کے باعث عرصہ سے بیمار تھا- کوئی دوائی کارگر نہ ہوتی تھی- کھانا دیکھ کر جی متلانے لگتا تھا- مگر فاسفرول کی پہلی خوراک نے گویا جادو کا اثر کیا- بھوک خوب لگنے لگی- دائمی قبض کی شکایت جاتی رہی ہے اور رات کو میٹھی نیند کے مزے لیتا ہوں- ایک شیشی بذریعہ وی پی اور بھجوا دیجئے- عبدالکریم ہیڈ کانسٹیبل قطب سہارنپور ⑬ فاسفرول کی ایک شیشی نے میرے سات سال کے پرانے جریان احتلام کو جڑ سے اکھیڑ دیا- میرے بھائی کے لئے ایک شیشی اور بھیج دیجئے- جلال الدین شیروالہ فیروزپور شہر

⑭ فاسفرول میرے دوست کے مرض سوزاک میں مفید ثابت ہوئی ہے- ایک شیشی اور بھیج دیجئے- غلام مصطفےٰ گوالیار

⑮ فاسفرول کی دو شیشیاں آپ کے یہاں سے منگوائی تھیں وہ واقعی لاثانی ہے- ایک بکس اور بذریعہ وی پی بھیج دیجئے- رام پرشاد ڈلہوزی

[illegible] لاہور

# معشوق عاشق ہوجائیگا

## پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

**کام روپ کا جادو** المعروف تسخیر حسن باتصویر مکمل چار حصوں میں جادو کے فوراً اثر دکھانیوالے جنتر منتر تنتر نیز خفیہ عملیات اس کتاب میں درج کئے گئے ہیں ایسے جن کی سدھی کے لئے کوئی محنت کوئی جپ یا چلہ کشی نہیں کرنا پڑتے۔ آپ آنکھ جھپکتے کے ساتھ ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر سینکڑوں روپیہ ماہوار کی آمدنی پیدا کرسکتے ہیں اس نادر کتاب کی موجودگی میں بھی اگر آپ عملیات کی بازاری کتابوں پر پیسہ برباد کریں تو آپکے نصیب!!...... کام روپ دیس کی عورتیں پردیسیوں کو جادو کے ذریعہ کتا بلی یا بکرا بنا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ اور حسب ضرورت دوبارہ آدمی بنا کر شریک صحبت کرتی ہیں۔ یہ سنکر مصنف کتاب اصل حال دریافت کرنے کیلئے کام روپ دیس میں گیا۔ اور وہاں دس سال رہکر اسنے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سیکھا۔ وہ سب اس کتاب میں لکھدیا گیا ہے **مختصر فہرست** مضامین ملاحظہ ہو **پہلا حصہ** یعنی پر سرعت تاثیر یعنی فوراً اثر دکھانیوالے جادو کے نادر چٹکلے **محبت کا پان محبت کی سپاری محبت کی الائچی محبت کا پھول اور محبت کا عطر** وغیرہ تیار کرنے کی جادو اثر ترکیبیں یعنی ادھر محبوب کو کھلایا۔ یا سونگھایا اور ادھر اسکے خیالات نے پلٹا کھایا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے علیحدہ نہ کرسکیگی۔ اسکے علاوہ حصول روزگار دولت۔ اولاد۔ بلندی مراتب بربادی دشمن۔ مقدمات میں فتح۔ قید و چھٹکارا نیز عوام میں ہردلعزیزی حاصل کرنے کیلئے وہ وہ خفیہ عملیات۔ چٹکلے اور دوائیں درج کی گئی ہیں جن کو کام روپ کے فقیر جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے ان کو گھر بیٹھے سیکھئے پھر دنیا آپکے پیچھے ہوگی اور آپ جہاں جائینگے عزت پائینگے **دوسرا حصہ** جادو کے عجیب و غریب شعبدے جن کی عوام میں نمائش کرکے ہزاروں روپیہ پیدا کئے جاسکتے ہیں (۱) لیمو نچوڑنے سے فوراً خون ٹپکنے لگے (۲) انگوٹھی خودبخود ہوا میں ناچنے لگے (۳) سادہ پانی کا دودھ بنا کر دکھا دینا (۴) غیب سے خودبخود پھولوں کی بارش ہو (۵) منہ سے آگ نکال کر کھیر پکانا (۶) بغیر آگ کے چاول پیدا ہو جانا (۷) جوتے کا کبوتر بنا دینا (۸) صندوق میں لڑکے کو بند کرکے غائب کردینا (۹) جادو کا ایک بادشاہ کا ہاتھی بنانا جسکے پیٹ سے ہزاروں [illegible] نکلنے پر بھی خالی نہ ہوگا (۱۰) انگوٹھی غائب کرکے ناریل سے برآمد کرنا (۱۱) [illegible] (۱۲) کٹا ہوا سر [illegible] (۱۳) حقہ اپنے آپ چلے (۱۴) انگلی سے پانی نہ گرے (۱۵) ہتھیلی پر سرسوں اگانا وغیرہ وغیرہ **تیسرا حصہ** (۱) پانی پینے کی ترکیب (۲) [illegible] دودھ یا دودھ کی شراب بنا دینا (۳) گھڑے میں پانی باندھنا (۴) گھڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے صحیح سالم بنا دینا (۵) مرا ہوا کبوتر [illegible] (۶) [illegible] عجیب و غریب کھیل مثلاً دوسرے شخص کے دل کا سوچا ہوا پتہ بتا دینا وغیرہ (۷) شیشے کو روئی کی طرح چبانے کا جادو (۸) پانی پر پتھر کو تیرانے کا شعبدہ **چوتھا حصہ** (۱) کایا پلٹ یعنی اپنی روح کو جسم سے باہر نکال کر دوسرے جسم میں داخل کرنا اور پھر واپس جسم میں آنا (۲) چنگے بھلے آدمی کو کتا۔ بندر مینڈھا۔ طوطا۔ بکرا۔ یا سور بنا دینا (۳) موچھوں والا آدمی چوٹی والی عورت دکھائی دینے لگے۔ وغیرہ وغیرہ مکمل چاروں حصوں کی قیمت صرف دو روپے آٹھ آنے محصولڈاک کوئی بات خلاف اشتہار ثابت ہو تو آپ [illegible] اپنے دام واپس لے سکتے ہیں۔ جلدی کیجئے ورنہ چند دن میں شاید یہ کتاب کسی قیمت پر بھی آپکو نہ مل سکے **نوٹ** اس کتاب میں اہل ہنود اور اہل اسلام کیلئے [illegible] عملیات درج کئے گئے ہیں جن کو بار ہا آزمائش کی کسوٹی پر پرکھا جاچکا ہے۔ سرٹیفکیٹ بیشمار ہیں مگر جگہ کی تنگی کے باعث صرف ایک ملاحظہ ہو [illegible] آپ کی کتاب بالکل سچی ہے [illegible] رحیم بخش [illegible]

## محبت کے مارے ہوئے

جو حضرات [illegible] اپنے دل کی مراد کو حاصل کر [illegible] ایک سیلانی فقیر [illegible] آزمودہ اور [illegible] ہیں [illegible]

[illegible]

# دنیا میں سب سے بڑا جادو

[illegible]



آوارہ مزاج شوہروں کی توجہ کیلئے انتہائی عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں [illegible] حسن [illegible] شوہر کے دل پر حکومت [illegible]

[illegible]

# ڈھول میں جواہرات یعنی سینہ بسینہ سربستہ راز

[illegible]

## ایک جاہل آدمی [illegible] میں [illegible] بن گیا

[illegible]

# گھر کا ڈاکٹر یعنی خزینہ حکمت

ڈاکٹروں اور حکیموں کی [illegible] ہمیشہ کے لئے [illegible] اردو زبان [illegible] کتاب

[illegible]

پتہ: [illegible] پوسٹ بکس نمبر ۱۵ لاہور

# رسالہ مست قلندر لاہور

اردو رسالوں کا بادشاہ [illegible]

اس لئے کہ ① اردو کا سب سے سستا سب سے زیادہ دلچسپ مکمل عام اور ہر دلعزیز باتصویر رسالہ ہے اس لئے کہ ② اس میں ہر مہینے دنیا بھر کے سینکڑوں دلچسپ [illegible] اور کارآمد اخباروں و رسالوں کے چیدہ چیدہ مضامین کا انتخاب شائع کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ③ اس میں ہر مذاق اور ہر عمر کے آدمیوں کے دل بہلاؤ و تفریح ہنسی مذاق اور دل لگی کے لئے گوناگوں دلچسپیوں کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ④ اس میں [illegible] کارٹون چھوٹے چھوٹے دلگداز افسانے [illegible] خوبصورت آرٹسٹک اچھوتی تصویروں کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں اس لئے کہ ⑤ [illegible] روپیہ پیدا کرنے کے سینکڑوں آسان [illegible] اس لئے کہ ⑥ اس میں [illegible]

[illegible]

[illegible]

رسالہ مست قلندر لاہور



# جو مانگو گے مل جائیگا

آپ جو چاہیں کرسکتے ہیں۔ آپ جو چاہیں گے ہو جایا کریگا یا کم معلوم ہو جائیگے محبوب عاشق ہو جائیگا غریبی امیری میں بدل جائیگی۔ الجھن میں شدید مسرت ہوجائیگی گمشدہ واپس آجائینگے مقدموں میں کامیاب ہو گے [illegible] جسے آپ چاہتے تھے اسے پالیں گے۔ یہ سب کچھ کتاب **گائتری شکتی** کے مطالعے سے حاصل ہو سکتا ہے

[illegible]

**گائتری شکتی** [illegible]

[illegible]

بہترین لکھائی چھپائی ولایتی کاغذ [illegible] خوبصورت سنہری جلد [illegible] کے مطابق [illegible] قیمت [illegible]

اردو میں فن جادو پر اس سے بہتر کتاب پیش کرنیوالے کو ایک ہزار روپیہ انعام

[illegible]

## تماشائے [illegible]

نہ کوئی دوائی کھانا نہ کسی قسم کی ورزش کرنا

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] The Lemon cure [illegible]

[illegible]

# مرے ہوئے عزیزوں سے ملاقات بلکہ بات چیت کر لو

## ان کو اسی روپ میں ان آنکھوں سے دیکھ لو جس روپ میں کہ وہ اس دنیا میں رہتے تھے

### اسپرٹس موبی ٹیبل

یہ انسانی عقل کا ایک نہایت ہی عجیب وغریب آلہ ہے جس کے سامنے [illegible] ایک برقی قوت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ جس طرح اژدہا آنکھوں کی مقناطیسی کشش سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور وہ خود بخود کھنچے ہوئے اس کے منہ میں آ جاتے ہیں بعینہ اس کی برقی قوت کی کشش سے روحیں آپ سے آپ آلہ مذکور پر آ جاتی ہیں۔ اس کے دو پاؤں اور ایک تیسرا ہاتھ کے مقام پر پنسل لگی ہوئی ہے اور وہی ہاتھ کا کام دیتی ہے۔ تختہ کاغذ پر رکھ کر حسب ہدایت عمل کرنے سے چند منٹوں میں ہی متحرک ہو جاتا ہے گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس روح کو بلایا گیا تھا وہ آلہ مذکور پر آ موجود ہوئی ہے اور ابھی ابھی پنسل کی مدد سے دریافت طلب سوالوں کے جواب لکھنا شروع کر دیگی۔ بچھڑے ہوئے عزیز جن کا وجود اب اس دنیا میں نہیں ہے یا جو قضا ہو چکے ہیں ان سے ملاقات بات چیت بلکہ ہر قسم کی امداد حاصل کرکے عامل کو ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جامہ میں پھولا نہیں سماتا۔

اسپرٹس موبی ٹیبل عورت۔ مرد۔ بچہ۔ بوڑھا سب کیلئے یکساں مفید و کارآمد ہے کیونکہ ہر ایک شخص بلا کسی خطرہ کے استعمال کرکے اس کا عامل بن سکتا ہے الغرض یہ کام کی چیز ہے اور اس قابل ہے کہ ہر گھر میں موجود رہے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف [illegible] ترکیب استعمال مع مکمل کورس "مردہ روحوں سے بات چیت" ہر حصہ کے ہمراہ پارسل روانہ کیا جائیگا۔ نوٹ چند روز کی مشق سے [illegible]

### آلہ اسپرٹس موبی ٹیبل کی مدد سے کون کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں

**خاص بات** سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ معمولی پڑھا لکھا ہر شخص بغیر کسی کی مدد کے [illegible] ایک قسم کے شاندار نتائج حاصل کر سکتا ہے [illegible] جوں جوں ترقی ہوتی جائیگی روحیں [illegible] باتیں کریں گی۔

**فوائد بے شمار ہیں مگر یہاں مختصر درج کئے جاتے ہیں۔**

(۱) [illegible] زندگی کے حالات جان لینا (۲) [illegible] (۳) گمشدہ اشخاص اشیاء کا پتہ لگانا (۴) ہزاروں میل بیٹھے ہوئے عزیز یا معشوق کو اپنی [illegible] (۵) [illegible] ترقی رزق [illegible] حاصل ہو جائیگا (۷) [illegible] آئندہ [illegible] حالات کے [illegible] آپ کا ہر مشکل کام [illegible] روحانی طور پر [illegible] عجیب اور حیرت انگیز [illegible]

---

### آلہ مذکور کے خریدنے پر مردہ روحوں سے بات چیت کرنے کا مکمل کورس آپ کو مفت ملے گا۔

نیویارک کی اسپرچوال سوسائٹی [illegible]

**کورس اول کی فہرست** ① روحانی حلقے قائم کرنے کی مختلف ترکیبیں ② [illegible] ③ [illegible] ④ [illegible] اوقات ⑤ [illegible] ⑥ [illegible] ⑦ [illegible] ⑧ [illegible]

**کورس دوم کی فہرست** ① [illegible] ② [illegible] ③ [illegible] ④ [illegible] ⑤ [illegible] ⑥ [illegible] ⑦ روحوں کی طلبی ⑧ طریقہ نشست ⑨ [illegible] ⑩ مشق کی کیفیت ⑪ [illegible] ⑫ روحوں کی جانب سے وصول شدہ پیغامات کے [illegible] ⑬ [illegible] ⑭ [illegible] ⑮ [illegible] ⑯ [illegible] ⑰ [illegible]

[illegible]

[illegible]

آخر مسٹر [illegible] نے ثابت کر دیا [illegible] ایک عجیب بات [illegible]

[illegible]

## طب جدید کی کتابیں

[illegible]

**دستور [illegible]** [illegible]

**ناخن کی [illegible]** [illegible]

[illegible]

**سہاگ کی رات** [illegible]

**خواص نوشادر** [illegible]

[illegible] بک ڈپو پوسٹ بکس نمبر ۱۵ [illegible]

موہنی منتر کا سمندر فن تسخیر و رحب کے متلاشیوں کیلئے ایک بالکل نئی چیز یعنی

# تنتر شاستر با تصویر

تنتر ودیا پر اس سے بہتر یا اس جیسا مجرّب تصنیف پیش کرنیوالے کو ایک ہزار روپیہ انعام

مضمون اشتہار رجسٹرڈ

## تیاگی سادھوؤں تارک الدنیا فقیروں اور جٹا دھاری سنیاسیوں کی تحقیقات اور تجربوں کا نچوڑ گاگر میں ساگر یا دریا در کوزہ کا بہترین نمونہ

آجکل کچھ بیکار لوگوں نے بے معنی منتروں اور رحب کے تعویذوں کی آڑ میں چکنے چپڑے اشتہاروں سے غریب پبلک کو بری طرح لوٹنا شروع کر دیا ہے میری عمر اسوقت ۵۰ سال کی ہے دنیاداری سے کوسوں دور ہوں عمر کا بیشتر حصہ ہمالیہ پربت پر جٹا دھاری سادھو سنیاسی اور تیاگی پرشوں کی سیوا میں بسر کیا ہے میں نے جو کچھ سیکھا اسکو پبلک میں لانے سے ہمیشہ محترز رہا ہوں لیکن بھولے بھالے بھائیوں کو دن دہاڑے لٹتے دیکھ کر اب مجھ سے نہیں رہا جاتا اس لئے تنتر شاستر کے نام سے جواہرات کے اس انمول بھنڈار کو پہلی مرتبہ پبلک میں پیش کرتا ہوں مجھے روپیہ کا لالچ یا اپنی محنت کے صلہ کی خواہش نہیں سچائی کا بھوکا ہوں سچائی ہی کیلئے جی رہا ہوں اور ایک دن سچائی پر ہی جان دیدوں گا۔ تنتر شاستر کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی اور ذلیل سی چیزوں میں عجیب غریب تاثیریں بھری ہوئی ہیں جن کے راز سے واقف ہوکر اڑتی چڑیا کو زمین پر گرا دینا۔ راہ چلتے آدمی کو آناً فاناً تسخیر کر کے اپنا ہم خیال بنا لینا۔ سات پردوں میں چھپے ہوئے معشوق کو کھینچ منگوانا اور بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بیمار کو پھونک مار کر چنگا کر دینا بالکل معمولی باتیں ہیں۔ سب کے سب تنتر نہایت آسان اور سینکڑوں بار کے آزمودہ ہیں جن کی موجودگی میں بے معنی منتروں کی بھول بھلیوں میں پھنس کر آپ کو اپنے وقت اور روپیہ کا ستیاناس کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی شمشان دیو استھان یا بھیانک جنگل میں چلہ کر کے جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی حاجت ہے۔ تنتر شاستر چار حصوں میں لکھا جا رہا ہے مختصر **فہرست مضامین** ملاحظہ ہو ① جب محبوب / معشوقہ تک رسائی نہ ہو۔ ماتھے پر تلک لگا کر تسخیر کرنے کا تنتر ② جب محبوب کے گھر آنا جانا ہو آنکھوں سے آنکھیں لڑا کر یا پھول سونگھا کر تسخیر کرنے کا تنتر ③ محبوب کو پان الائچی یا کوئی اور چیز کھلا کر فوراً تسخیر کرنے کا تنتر ہتھیلی پر سرسوں جما کر دیکھ لو ④ صرف جسم کو مس کرنے سے محبوبہ تسخیر ہوگی۔ ایک عجیب غریب طلسماتی تنتر ⑤ محبوب کے پاؤں کی مٹی کی تاثیر وہ خود بخود بیتاب ہوکر چلی آئے گی ⑥ چاول کا ایک دانہ کھلا کر موہ لینے کا تنتر ⑦ محبوبہ کے جسم سے چھوئے ہوئے کپڑے کا تنتر جو کبھی خطا نہیں کرتا ⑧ محبوبہ کے سر کے بالوں کا تنتر جو بجلی کی مانند اثر کرتا ہے ⑨ لعاب دہن کا تنتر جس کی بدولت بیوی خاوند پر دل و جان سے فریفتہ ہو جاتی ہے ⑩ مور کے پر کا تنتر جو مغرور ترین عورت کو بھی پل بھر میں زیر کر سکتا ہے ⑪ عورتوں کو تسخیر کرنے کیلئے بیشمار سنیاسی چٹکلے ⑫ مردوں کو تسخیر کرنے کے تنتر ⑬ حاکم یا افسر کو مہربان بنانے والے تنتر ⑭ دھن دولت اور روزگار پراپتی کے تنتر ⑮ پتر دانا تنتر ⑯ روگ ناشک یعنی بیماریاں دور کرنے کے تنتر ⑰ شترو ناشک یعنی دفعیہ دشمن کے تنتر ⑱ سرودھا تنتر ⑲ پشو پنچھی تنتر ⑳ بناسپتی یعنی جڑی بوٹیوں کے تنتر ㉑ ترن تارن تنتر وغیرہ وغیرہ پہلا حصہ چھپ کر تیار ہے۔ نابالغ اور غیر شادی شدہ ہرگز نہ منگائیں۔ رازداری اور اس بات کی حلفیہ تحریر آنی چاہیئے کہ شاستر ہذا کے کسی تنتر سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا ورنہ آرڈر کی تعمیل کسی صورت نہ ہوگی۔ شوقین مزاج اور تماشبین حضرات یک صد روپیہ خرچ کر کے بھی تنتر شاستر کو حاصل نہیں کر سکتے لیکن جن کے دل میں کوئی پاپ نہیں۔ ان سے پہلے حصہ کے صرف ایک روپیہ آٹھ آنے لئے جاویں گے۔ تنتر شاستر کے چھپنے پر بھی اگر کوئی محبت کا مارا ہوا ناکام تمنا رہ جائے تو اس کے نصیب۔ **نوٹ:۔** یاد رہے کہ اس مد کی تمام آمدنی اشتہاری خرچ نکال کر مستحق لوگوں میں تقسیم کی جائیگی۔ میں ہر اس شخص کا سیوک بننے کو تیار ہوں جو میرے کسی تنتر کو غلط ثابت کرے۔ تنتر شاستر میں جڑی بوٹیوں کی اصلی اور رنگین تصویریں دی گئی ہیں۔ نیز یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کون سی بوٹی کس جگہ اور کس موسم میں آسانی سے مل سکتی ہیں تاکہ کسی تنتر کی تیاری میں خواہشمند کو ذرا بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو معمولی گاؤں میں بھی پنساریوں کے یہاں مل سکتی ہیں الغرض بڑے کام کی چیز ہے جس طرح کسی کو کوہ نور ہیرا مل جائے۔ اور وہ مارے خوشی کے جامے میں پھولا نہیں سماتا۔ اسی طرح تنتر شاستر کو لیکر آپ سمجھنے لگیں گے کہ گویا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا آپ کے ہاتھ لگ گیا۔ تنتر شاستر کی موجودگی میں آپ کو کوئی کتاب اچھی نہ لگے گی۔ دل میں ایک زبردست لہر اٹھے گی کہ جب کے متعلق جتنے تنتر آجتک پڑھے ہیں وہ سب دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ ہائے پہلے یہ کیوں نہ ملا اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے مارتے عمر کا آدھا حصہ بیکار گیا وغیرہ وغیرہ تنتر شاستر کو لیکر نہال ہو جائیں گے اسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھیں گے اور بڑی سے بڑی قیمت کے معاوضہ میں بھی اسے اپنے سے جدا نہ کر سکیں گے۔ ایک سال میں پانچ ایڈیشن چھپ کر پانچواں ایڈیشن شائع ہو رہا ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ محصول ڈاک پانچ آنہ

**مسیت قلندر بک ڈپو پوسٹ بکس نمبر ۱۵ لاہور**

# دولت آپکو تلاش کر رہی ہے

اگر آپ غریب اور بیکار ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے

کیونکہ اگر آپکو روپیہ پیدا کرنے کے صحیح اصول [illegible] تو دولت آپکے گھر کی لونڈی اور روپیہ آپکا ادنیٰ غلام ہوتا۔ موجودہ پریشانی کا سبب [illegible] آپ نے [illegible] کوشش ہی نہیں کی۔ ملک کی بڑھتی ہوئی بیکاری کو دیکھ کر [illegible]

[illegible]

تجارت بذریعہ ڈاک [illegible] روپیہ پیدا [illegible]

[illegible]

[illegible] صابن سازی [illegible]

[illegible] حصہ اول و دوم [illegible]

[illegible] کی تکمیل نہ ہو سکے گی۔

[illegible] شباب [illegible]

[illegible] شبابی [illegible] کا استعمال کیجئے [illegible]

[illegible]

# زندہ جادوگری کے کرشمے

پُرانی ورکتاب جس کی دُنیا والوں کو تلاش تھی! وہ جس میں کا ایک ایک راز لاکھ لاکھ روپیہ کو بھی سستا ہے کیونکہ اس میں ہندوستان قدیم کے رشی منی جوگی سنتی جوگی اور سنیاسیوں کے فوراً اثر کرنیوالے جادو اثر ٹوٹکوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ساری کتاب میں منتر جنتر اور سدھیوں کا جھگڑا آپکو کہیں نہیں ملیگا۔ صرف ٹوٹکے ہی ٹوٹکے ایسے جن کو وہ لوگ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کتاب ہذا کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ پانچواں ایڈیشن جبکہ فروخت ہو رہا ہے۔ مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو۔ ۱ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بیمار کو صرف سانس کی تبدیلی سے راضی کر دینا اسکی ترکیب ۲۔ اپنے یا دوسرے شخص کی موت کا حال قبل از وقت جان لینا (ٹوٹکہ) ۳۔ آنجانے محبت بھی حسینوں کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی نہایت آسان آسان ترکیبیں ۵ بغیر دوائی کے قدرتی امساک حاصل کر کے سوال تک جوان اور تندرست رہنے کا راز (ترکیب) ۶۔ بیوی کو اپنی محبت میں اسیر کر کے اسقدر متوالا بنا دینا کہ سوائے تمہارے اور سب طرف تاریکی دکھائی دینے لگے (ترکیب) ۷۔ حسب منشا بچہ پیدا کرنا اور خوبصورت اور تندرست لڑکا پیدا کرنا (ٹوٹکہ) ۸۔ ہر کام میں کامیابی حاصل کرنیکا راز ۹۔ حاکم کے روبرو جانے سے پہلے ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ مقدمہ میں فتح حاصل ہو۔ ۱۰۔ دشمنوں پر ہمیشہ فتحیاب رہنے کا راز (ٹوٹکہ) ۱۱۔ آنیوالی بیماری یا مصیبت کا قبل از وقت پتہ لگا کر اس کے حملہ سے اپنے آپکو محفوظ کر لینا (ترکیب) ۱۲۔ ایک ایسا ٹوٹکہ جس کی بدولت ہر محفل میں عزت نصیب ہو مرتبہ بلند ہو۔ ۱۳۔ گھڑ دوڑ یا لاٹری یا کسی اور انعامی مقابلہ میں پہلا انعام حاصل کرنے کا راز (ترکیب) ۱۴۔ ماضی کی یادداشت میں تبدیلی کر کے کسی شخص کے بیتے ہوئے اور آئندہ ہونیوالے واقعات کو قبل از وقت جان لینا۔ قدیم ہندو لوگ کس طرح سے پیشگوئی کیا کرتے تھے۔ سائل کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کے مختلف طریقے ذریعہ روزگار بنا کر معقول آمدنی پیدا کی جاسکتی ہے۔ ۱۵۔ بانجھ عورت کس طرح اولاد پیدا کرسکتی ہے [illegible] (ترکیب) ۱۶۔ [illegible]

[illegible]

[illegible] اور جسم [illegible] ہتھیلیوں [illegible]

[illegible] ترقی۔ تبادلہ۔ مقدمہ میں ہار جیت۔ روزگار۔ شادی [illegible]

[illegible]

نوٹ۔ زندہ جادوگری [illegible]

ولایت [illegible]

[illegible]

مضمون اشتہار و ذریعہ حق رجسٹری شدہ ہے

# قوت مردمی کا زبردست طوفان

## بذریعہ سائنٹفک آلات

سے گذرے نامرد کو فی الفور مکمل مرد بنا دینے کا زندہ معجزہ

**آلہ نامردی**

[illegible] Rejuvinator [illegible]

[illegible] آپ نامرد سے قابل فخر مرد، جوانمرد، شیر مرد بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بن جائیں گے [illegible]

[illegible] آلہ شباب اور [illegible]

[illegible]

**اصلاح آلہ کی بدولت ہر شخص کیلئے ممکن ہو گیا ہے**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

سائنٹفک نامردی کمپنی [illegible]

# بیسویں صدی کا کوک شاستر

مجلد باتصویر

لے لو بکتا ہے گوہر مقصود ❀ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

اس کے مطالعہ سے عورتوں کے متعلق آپکو ایسی عجیب و غریب واقفیت حاصل ہوگی کہ تمام اشتہاری کوک شاستروں کو بھول جائیں گے لدھیانہ اور کانپور کی بنائی ہوئی نقلی اور بھدی تصویریں تو آپ کئی مرتبہ دیکھ چکے۔ آیئے اب ہم پیرس کے باکمال مصوروں کی کاریگری کا بہترین نمونہ ہاف ٹون بلاکس کی رنگین اور بولتی تصویروں کی شکل میں دکھائیں۔ عورت کی مختلف حالتوں کا نقشہ آپ کے ذہن نشین کرائیں جو باتیں تحریر میں نہیں آسکتیں جن کو جاننے کے لئے آپ نے سینکڑوں روپے اشتہاری کوک شاستروں پر پانی کی طرح بہا دیئے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہی باتیں آپ کو ہماری نادر کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہونگی مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو (۱) عورت کی پہچان عورت کیا چیز ہے؟ جس عورت کا بھید سنتے ہیں کہ برہما بھی بیان نہ کر سکا۔ اس کے متعلق مغرب کے ۲۰ چوٹی کے ماہرین علم النساء نے اپنی تمام عمریں صرف کر کے کیا دریافت کیا (۲) کیا عورت پاکباز اور باعصمت ہے اس کی پہچان کرنے کا طریق (۳) عورت کی خوبصورتی بڑھانے کے مختلف طریقے۔ صرف غذاؤں کی تبدیلی سے حسن و خوبصورتی بڑھانے کا راز (۴) چہرہ کے داغ دھبے جھائیں کیل چھیپ کے نشان دور کر کے جلد کو ملائم اور خوبصورت بنانے کے آسان ترین طریقے (۵) چھوٹے قد کی عورت بغیر کسی دوائی کی مدد کے کیسے بلند قامت ہو سکتی ہے (۶) بغیر کسی تیل یا دوائی کی مدد کے بال گھنگھریالے اور گھنے بنانے کی ترکیب (۷) ہاتھوں کی سختی اور کھردرا پن کیسے دور ہو سکتا ہے (۸) بوسہ دہن یعنی منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو دور کرنے کی ترکیب (۹) عورت کی ڈھیلی اور گری ہوئی چھاتیوں کو سخت بنانے اور ان کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کا طریق (۱۰) کیا عورت کا جسم بدل سکتا ہے؟ بیوی کیسی ہو [illegible] (۱۱) عورت کا جسم اس کے جسم کی ساخت و خفیہ مقامات کی تشریح تصویروں کے ساتھ (۱۲) حمل کس طرح قرار پاتا ہے (۱۳) مواصلت کے فوراً بعد پہچان کا طریق کہ حمل قرار پا گیا ہے یا نہیں (۱۴) خود بخود اولاد پیدا کرنے کا راز یعنی جب چاہو بچہ پیدا ہو نہ چاہو نہ ہو (۱۵) بانجھ عورت کس طرح اولاد کے قابل ہو سکتی ہے (۱۶) مواصلت کے مختلف طریقے (۱۷) کن حالتوں میں مواصلت کرنا مضر صحت اور نقصان دہ ہے؟ یہی وہ راز ہے جس کے نہ جاننے سے کئی مرد جوانی میں بوڑھے ہو گئے اور اپنے لئے سر دھنتے ہیں (۱۸) جسم پر مالش کرنے کے فوائد مالش کرنے کی ایک ایسی ترکیب جس کی بدولت بڈھے بھی جوان ہو سکتے ہیں (۱۹) دافع الضعف اور قوت باہ کے لئے اشتہاری دواؤں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرنے والے بھولے بھالے انسانوں کے لئے کئی مجرب اور سہل الحصول نسخے جن کے اجزا ہر جگہ چند پیسوں کی لاگت سے بآسانی دستیاب ہو سکتے ہیں جو ہر قسم [illegible] کے لائق ہیں اور جن کے متواتر استعمال سے تھوڑے دنوں میں ان کی کایا پلٹ جائیگی (۲۰) سو سال کی عمر تک جوان اور تندرست رہنے کا راز وغیرہ وغیرہ غرضیکہ ساری کتاب ایسی ہی اس قسم کی [illegible] خیالات [illegible] کتاب [illegible] قیمتی خزانہ۔ وہ ہے جس پر فرانس کے ڈاکٹروں نے اپنی ساری [illegible] اور ساری طاقت صرف کر کے ذیل سوال کا حل کیا ہے کیا کوئی ایسی ترکیب ہے کہ باوجود بچے جننے کے بھی عورت کی خوبصورتی اور جوانی مدت دراز تک جوں کی توں قائم رہے یعنی ۴۰-۵۰ سال کی عمر میں بھی وہ ۱۸-۲۰ سال کی جوان معلوم ہو۔ اس کی ...... چہرہ کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ اور کندن کی طرح دمکتا رہے۔ یہی وہ راز ہے جس کو ہر ایک دنیا دار بڑی سے بڑی قیمت دے کر بھی سیکھنے کے لئے بیتاب ہے [illegible] قیمت اگر ہزار روپیہ ہوتی تو کم تھی [illegible] معاوضہ کے آپ کو [illegible] اشتہار کے خلاف ایک بھی بات ثابت ہو تو ہم دوچند قیمت واپس دینے کو تیار ہیں۔ اس لئے آج ہی آرڈر دے [illegible]

**حصہ دوم کے مضامین کی مختصر فہرست** ملاحظہ (۱) بیسویں صدی کی [illegible] (۲) نیک بد عورتوں کی شناخت کرنے کی مخصوص علامات (۳) نیک و بد مردوں کی شناخت کرنے کی مخصوص علامات (۴) محض شکل دیکھ کر پہچان لینے کا راز کہ فلاں مرد و عورت کی چال چلن کیسا ہے (۵) دولہا دلہن کا انتخاب یعنی کس قسم کے مرد کو کس قسم کی عورت کے ساتھ شادی کرنا باعث [illegible] (۶) [illegible] چاندنی ناخنوں کا اثر (۷) عورتوں کی خوبصورتی اور جوانی قائم رکھنے کے زریں اصول (۸) [illegible] (۹) [illegible] (۱۰) [illegible] (۱۱) [illegible] (۱۲) [illegible] (۱۳) [illegible] (۱۴) [illegible] (۱۵) [illegible] (۱۶) بیوی کے [illegible] (۱۷) [illegible] (۱۸) [illegible] بازاری [illegible] وغیرہ وغیرہ الغرض ساری کتاب [illegible]

## لوگ کیا کہتے ہیں؟

(۱) آپ کا کوک شاستر [illegible] (۲) [illegible] جناب حکیم عاشق انصاری بنارس (۳) [illegible] اجودھیا پرشاد [illegible] (۴) آپ کے کوک شاستر میں جو تصویریں دی گئی ہیں [illegible] ہندوستان بھر میں [illegible] کوک شاستر نہیں ہیں [illegible]

مینیجر رسالہ کامل پوسٹ بکس ۱۳۲ - لاہور

مضمون اشتہار رجسٹرڈ ہے

رجسٹری شدہ ہے

# دسترخوان کی لذتیں

رجسٹرڈ

اس کتاب میں سینکڑوں قسم کے لذیذ اور دلپسند کھانے انواع و اقسام کی ترکاریاں، دالیں، پکوان، میٹھے و نمکین پلاؤ، حلوے، موہن بھوگ، چٹنیاں، اچار، مربے، رائتے اور ہر قسم کی مٹھائیاں بنانے کی ترکیبیں کچھ ایسے سیدھے سادے ڈھنگ سے عام فہم اردو میں لکھی گئی ہیں کہ کم لیاقت کی عورت بھی بغیر کسی دوسرے کی مدد کے ہر ایک چیز کو اپنے آپ تیار کر سکتی ہے۔ جس عورت کے پاس یہ کتاب ہوگی اس کو میکے اور سسرال والے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ شوہر اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کے بغیر دوسرے کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام سمجھے گا اور ہمیشہ اس کا مطیع اور حلقہ بگوش ہو کر رہیگا۔ اس کتاب کو ایک رکابدار نے لکھا ہے۔ اس لئے یہ کوئی عام بازاری کتاب نہیں بلکہ نئی نئی قسم کے کھانے جو بادشاہی محلوں میں پکتے ہیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ تین سو سے زائد کھانوں میں سے صرف چند ایک کی فہرست بطور نمونہ ملاحظہ ہو۔ ① ہر قسم کے سالن، سبزیوں، اناجوں، پھلوں اور چوپایوں کے دودھ کے خواص، کس چیز کی کیا تاثیر ہے یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ② کیا عورت کا دودھ اکسیر حیات ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر کی بالکل نئی دریافت۔ اسی سال کا بڈھا بیوی کا دودھ پی کر کس طرح گبھرو جوان بن گیا ③ آلو کا بھرتہ بنانے کی ترکیب۔ ایک نئی بیاہی بیوی نے اپنے شوہر کو کسی کے ہاتھ سے کس طرح نجات دلائی۔ آلو کے بھرتہ نے بازاری عورت کا دل بھی موہ لیا ④ خربوزہ، ککڑی، پپیتا، شکرقندی، سنگھاڑا، امرود، بانس اور ببول کی پھلیوں کی ترکاری بنانے کی ترکیبیں۔ اتنی لذیذ کہ جو ایک بار چکھے گا عمر بھر یاد رکھیگا ⑤ [illegible] دال بنانے کی ترکیب ⑥ دلپسند چاول بغیر پانی کے بنانے کی ترکیب۔ ارہر کی کھچڑی، جہانگیری کھچڑی اور آلو کی کھچڑی بنانے کی ترکیبیں ⑦ مختلف قسم کی لذیذ روٹیاں بنانے کی پچاس ترکیبیں مثلاً ڈبل روٹی، خشخاش روٹی، خمیری روٹی، روغنی روٹی اور اپھوتی روٹی وغیرہ وغیرہ ⑧ دلپذیر چٹنیاں بنانے کے بیسیوں طریقے مثلاً دہی اور ادرک کی چٹنی، آلو بخارا کی چٹنی، امرود کی چٹنی، املتاس کی چٹنی، ٹماٹر کی چٹنی وغیرہ ⑨ انواع و اقسام کے رائتے بنانے کی ترکیبیں مثلاً کھیرے کا رائتہ، گاجر کا رائتہ، گلابی رائتہ، خربوزے کا رائتہ وغیرہ ⑩ ہر قسم کے اچار بنانے کی ترکیبیں یعنی ادرک کا اچار، کریلے کا مسالہ دار اچار، منقہ کا اچار، نارنگی کا اچار، ادرک کے پتوں کا اچار وغیرہ ⑪ دلپذیر مربے۔ ادرک کا مربہ، کیلے کا مربہ، بہی کا مربہ، آلو کا مربہ وغیرہ ⑫ دودھ سے بھانت بھانت کی نعمتیں تیار کرنا یعنی امرت دہی بنانا جس کو روزانہ استعمال سے انسان ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ کر سو سال تک جوانی اور تندرستی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ انجیر، ناریل اور آلو کی کھیر پکانے کی ترکیبیں وغیرہ ⑬ موہن بھوگ حلوے۔ چنے کی دال کا حلوہ، ادرک کا حلوہ، پپیتے کا حلوہ، انڈے کا حلوہ، انار کا حلوہ، پپیتے کا حلوہ وغیرہ ⑭ بیدار بڑیاں، پاپڑ، کچوری، مولی کی بڑی، دہی کی بڑی، آلو کی بڑی، مسالہ دار پاپڑ، میٹھے پاپڑ، خربوزہ کی کچوری، کریلے کی کچوری، گوار کی پھلی کی کچوری وغیرہ ⑮ بیسیوں قسم کی موہن بھوگ مٹھائیاں مثلاً نارنگی کی برفی، پپیتے، آم کی برفی، چنے کی دال کی برفی، آلو کی برفی، ملائی کی پوڑی بنانا، دہی کی پوڑی بنانا، چم چم بنانا، رس گلے، پھلوں کا گلاب جامن، سندیش، پھلوں کے رس کی امرتی بنانا وغیرہ ⑯ منہ میں پانی بھر لانے والی نمکین سوادی چاٹیں۔ اروی کی چاٹ، ککڑی کی چاٹ، امرود کی چاٹ، ناشپاتی کی چاٹ، شکرقند کی چاٹ اور املتاس کی چاٹیں وغیرہ۔ الغرض کتاب کیا ہے ہندوستانی کھانوں کا بھنڈار ہے اور آپکے نعمت خانہ [illegible] ہر ایک گھر میں اس کی موجودگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دال بھاجی میں نمک کی۔ اگر آپ [illegible] ایک ہی قسم کی دال بھاجی کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں اور قدرت کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے پوری پوری لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپکی خواہش ہے کہ آپ [illegible] شگفتہ اور ہشاش بشاش رہے اور جسمانی صحت کے ساتھ دماغی صحت بھی بحال ہو جائے تو اس کتاب کو منگا لیجئے۔ قیمت فی جلد ۱۲ علاوہ محصولڈاک ۵/

## [illegible]

آپ کی قسمت کا ستارہ [illegible] مشکل سے حاصل کیا ہے اور [illegible] قسمت [illegible] ہندوستان بھر کے بیماروں [illegible] اور [illegible] حضرت [illegible] خوشحالی اور فارغ البالی ان کے [illegible]

## [illegible] کا راز

گھر بیٹھے مل سکتی ہے۔ بڑی بڑی فلم کمپنیوں کے مالک آپ سے ملاقات کرنا اعزاز خیال کریں گے دیکھیے رہنمائے فلم ایکٹنگ رجسٹرڈ کا مطالعہ کیجئے معلوم کیجئے کہ آپ کی [illegible] سینکڑوں روپیہ ماہوار کما رہے ہیں۔ پہلے بالکل معمولی آدمی تھے انہوں نے ایکدم کیسے ترقی کر لی؟ ہر [illegible] کا آدمی کس طرح کامیاب ایکٹر بن سکتا ہے۔ فن اداکاری کی باقاعدہ تعلیم کہاں ملتی ہے؟ بمبئی اور کلکتہ کے ایکٹروں کے اندرونی حالات، فلم کمپنیاں کس قسم کے مرد و عورتوں کو بطور ایکٹر منتخب کرتی ہیں یہ اور اس قسم کی سینکڑوں باتیں گھر بیٹھے جان کر اور فلمی زندگی اختیار کر کے آپ ہزاروں روپیہ ماہوار کی آمدنی پیدا کرنے کے علاوہ ہندوستان کے کونے کونے میں مشہور ہو جانا چاہتے ہیں تو [illegible] کے ٹکٹ بھیج کر کتاب مذکور منگا لیجئے۔ فی زمانہ جبکہ روزگار کے تقریباً تمام راستے بند ہو چکے ہیں فلمی لائن ایک نہایت ہی کامیاب اور منافع بخش لائن ہے اور اسکو اختیار کرنے کیلئے کسی خاص محنت اور لیاقت کی بھی ضرورت نہیں۔ دہلی کے [illegible] آفس کا ایک معمولی کلرک فلم ایکٹر بنکر [illegible] روپیہ ماہوار تنخواہ حاصل کر رہا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ فلمی دنیا میں کامیاب نہ ہوں۔ یہ کتاب آپ کی [illegible] روشن کر دیگی

قیمت [illegible] علاوہ محصولڈاک

[illegible] لاہور

# ہندوستان کے سنیاسیوں کی کراماتیں

جڑی بوٹیوں کی عجیب و غریب تاثیریں مُردے زندہ ہوگئے

زندگی میں ایسا موقع اُن حضرات کو اکثر ملا ہوگا جن کا کوئی عزیز کسی سنگین اور پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہوا اور رائج الوقت حکیموں ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کے باوجود بھی صحت حاصل نہ ہو سکی۔ مگر پھر خوش قسمتی سے کسی سادھو مہاتما سے انکی مڈبھیڑ ہو گئی۔ اس نے مریض کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر ترس کھایا اور اپنی جھولی سے ایک جڑی نکال کر دی جس کے کھلانے سے مریض کو آناً فاناً شفاءِ کلی حاصل ہو گئی اور وہ بھلا چنگا ہو کر اُٹھ بیٹھا۔ سادھو سنیاسیوں کی جڑی بوٹیوں میں سچ مچ ایسی ہی تاثیریں ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ اس قسم کے فقیروں کی خدمت میں گزرا ہے اور جڑی بوٹی کے جس ماہر سنیاسی سے میری بھینٹ ہوئی اس نے پتہ نہیں میرے ستارہ قسمت کے زیر اثر یا کیوں اپنی عمر بھر کی کمائی کو اپنے سینے کے راز کو کمال کشادہ دلی کے ساتھ میرے حوالہ کر دیا۔ میں بھی خدا رسیدہ بزرگوں کی ان قیمتی امانتوں سے ناجائز فائدہ اُٹھانا نہیں چاہتا۔ صرف خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں اور یہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائیگا۔ جب لاد چلیگا بنجارہ۔ اگر میرے ذریعہ سے کسی دم توڑتے ہوئے بدقسمت انسان کی زندگی بچ گئی تو میں اپنی کمائی اور اپنی زندگی کو کامیاب سمجھونگا۔ اس لئے اے لوگو! جو اس لفظ بلفظ سچے اشتہار کو پڑھو پہنچا دو اس خبر کو گھر گھر میں مستحق اور حاجتمند بیماروں کے پاس کہ انکے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اب بھی کچھ نہیں بگڑا جب تک سانس تب تک آس جڑی بوٹی کے سنیاسانہ علاج سے انکی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں اور وہ پرماتما کی کرپا سے ایکبار پھر زندگی اور جوانی کی بے انتہا نعمتوں سے لطف حاصل کر سکتے ہیں میرے پاس ایک **بوٹی دافع بخار** کی ہے بخار چاہے کس قسم کا اور کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو اس جڑی کی چھ سلائیاں تین تین دن کے وقفہ کے بعد آنکھ میں لگانے سے رفع ہو جاتا ہے ایک **بواسیر** کی جڑی ہے اسکے اوپر چاندی کا خول بشکل انگوٹھی چڑھا کر انگلی میں پہنایا جاتا ہے۔ اور چند یوم میں بواسیر کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ایک اور نادر چیز ہے جو کم و بیش ستر بیماریوں کے دفعیہ میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے کیسی عجیب بات ہے کہ وہ چیز دست آور ہے اور دست بند بھی کرتی ہے صرف اس کے استعمال کا طریقہ ہر مرض کیلئے جدا جدا ہے۔ نامردی کیلئے ایک بوٹی کے رس میں گولیاں تیار کی جاتی ہیں۔ انکی تاثیر یہ ہے کہ چالیس یوم میں بالکل گئے گزرے اور ناکارہ مرد کو قابل فخر مرد بلکہ شیر مرد بنا دیتی ہیں اس کے جذبات جوانی میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور دل میں ولولہ شباب کی امنگیں سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح ٹھاٹھیں مارنے لگتی ہیں۔ علاوہ ازیں جریان، احتلام، آتشک، سوزاک، دمہ کہنہ، تپ دق، ذیابیطس یعنی پیشاب میں شکر کا آنا۔ ہسٹریا (عورتوں میں غشی کے دورے) اور پاگل پن وغیرہ وغیرہ کے دفعیہ کی درجنوں بوٹیاں میرے پاس موجود ہیں اور ہر شخص اپنے مرض کی پوری کیفیت لکھ کر مشورہ اور تین دن کی دوائی مفت حاصل کر سکتا ہے۔ جڑی بوٹی کے علاج میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بالکل بےضرر ہے اور اسمیں نقصان کا کوئی شائبہ نہیں۔ مشورہ کیلئے ایک ٹکٹ برائے جواب اور دوائی منگانے کی صورت میں ۵ ٹکٹ برائے محصول ڈاک آنا ضروری ہیں امیر لوگ جو اپنے اپنے شہر میں خیراتی ہسپتال کھولکر زندگی بھر مفت دوائی تقسیم کرنے کا عہد کریں۔ اُن کو نسخے بتلانے میں بھی مجھے عار نہ ہوگا۔

پتہ — **ایڈیٹر رسالہ صحت قلندر لاہور**

## کسی کی مخمور آنکھوں میں

یارب یہ کس کا جلوہ؟ ان انکھڑیوں میں چھپ چھپ کے کون جھانکتا ہے؟ حسن، خوبصورتی کیسے پیارے لفظ ہیں! اور حسین اور خوبصورت چہرے دیکھ کر دل کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ اگر آپ کو حسن پرستی کا شوق ہے؟ اور آپ اپنی فرصت کے اداس اور غمگین گھنٹوں کو "نظارہ بازی" میں گذار کر زندہ دلی کی مستی اور روحانی حظ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی خواہش ہے۔ کہ آپ کی طبیعت ہمیشہ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ رہے اور غم بیماری یا موت آپ سے کوسوں دور رہے تو آج ہی خط لکھ کر یکصد حسین ترین عورتوں کا مجلد اور لاجواب البم صرف عہ کے وی۔ پی سے منگائیں۔ اس البم میں دنیا بھر کے مقابلہ حسن میں منتخب شدہ عورتوں کی منہ بولتی تصویریں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی حسین و جمیل فلم ایکٹرسوں کے اصلی اور رنگین فوٹو بھی ہیں جنکو آپ کئی مرتبہ اسٹیج پر دیکھ چکے ہیں مگر حسن جمال کی ان پیاری پیاری اور بھولی بھالی صورتوں کو عالم تنہائی میں دیکھنے کی حسرت ابھی آپکے دل میں باقی ہے۔ مزید لطف یہ کہ ہر ایک پری جمال فلم ایکٹرس کی تصویر کے ساتھ ساتھ انکے حالات زندگی خود انہی سے لکھوا کر چھاپ دیئے گئے ہیں۔ نیز اس سے ملاقات کرنے یا خط لکھنے کے لئے اسکا مکمل پتہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ فوٹو بلاک کی یہ خوبصورت اور رنگین تصویریں اتنی جاذب نظر اور صاف ہیں کہ آپکو ایک نظر دیکھنے پر اصل کا دھوکا ہوگا۔ آپ معاً کہہ دیں گے کہ بس جان ڈالنے کی کسر رہ گئی ہے یہ ارزانی نہیں سراسر لوٹ ہے کہ صرف عہ میں سو حسین عورتوں کا البم گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ پھر بھی آپ ناخوش رہیں تو سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ

ان شوخ حسینوں پہ جو مائل نہیں ہوتا ❖ کچھ اور بلا ہوتی ہے وہ دل نہیں ہوتا

[illegible] طوائف کی سرگذشت۔ اسرار لندن عہ ایک حسین آرٹسٹ عورت کی سرگذشت

## فن بوسہ بازی کے اسرار

(اُردو میں پہلی مرتبہ) اس کتاب کو ایک امریکن سیاح نے تین صد حسین و جمیل عورتوں سے کورٹ شپ کرنے کے بعد اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر لکھا ہے۔ بوسہ بازی ایک باقاعدہ آرٹ ہے اور ایسے دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپکو معلوم ہوگا کہ صنف لطیف کی تسخیر کے لئے بوسہ ایک بے پناہ ہتھیار ہے۔ تیر تلوار کا اثر خالی جا سکتا ہے یہ ممکن ہے مگر ایک کامل فن استاد کا مہذب بوسہ زندہ قیامت سے کم نہیں اس کتاب میں بوسہ کے ذریعہ تالیف قلوب اور تسخیر کے سائنٹیفک طریقے لکھے گئے ہیں۔ اور بتلایا گیا ہے کہ شوہر کس طرح اپنی بیوی کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ نیز ① بوسہ کی قسمیں ② محبت کی کشیدگی میں کس قسم کا بوسہ پتھر سے زیادہ سخت دل بیوی کو موم کی طرح نرم بنا سکتا ہے ③ بوسہ کس طریق سے لینا چاہئے۔ ④ کیا بوسہ لینے سے صحت میں ترقی ہوتی ہے ⑤ کیا نسوانی حسن و خوبصورتی کی افزائش کے لئے بوسہ ایک ضروری چیز ہے؟ ⑥ کامیاب بوسہ کسے کہتے ہیں؟ ⑦ انگلستان، فرانس اور امریکہ میں بوسہ بازی کے کلب اور انکے پوست کندہ حالات وغیرہ قیمت عہ

**عامل کامل بک ڈپو [illegible] لاہور**

رجسٹری شدہ

کوئی شخص محبت کے امتحان میں کبھی فیل نہ ہوگا

# کالا علم

یا

الموسوم

# الو کے معجزے

[illegible] مصری ایک قلمی کتاب کا اردو ترجمہ جس کے تمام منتر اور [illegible] چیدہ چیدہ مسلمان درویشوں کے سینہ بسینہ [illegible] مدفون خزانوں کا پتہ [illegible] اس میں کوئی مبالغہ نہیں [illegible] ایک واقف کار شخص [illegible] آپ اپنی [illegible] ظاہر کر دی گئی [illegible] کرنے کی طاقت ہے [illegible]

ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں ۱۹۳۵ء مع رسالہ موج زندگی بالتصویر یعنی پورے حالات بتانے والا فالنامہ مفت دیا جائیگا

دیگر
نقلی
کتابوں
سے بچو

وہ لاثانی کتاب جس کے سامنے دنیا بھر کے تنتر منتر جنتر شاستر کچھ حقیقت نہیں رکھتے

# تسخیر ہمزاد خفیہ المعروف طلسم خورشید

وہ نادر و نایاب کتاب جس میں امریکہ۔ فرانس۔ یورپ۔ عرب۔ ایران۔ توران۔ یونان اور ہندوستان کے طلسمی شعبدوں۔ منتروں۔ جنتروں۔ تعویذوں۔ مسمریزم ہپناٹزم۔ منتر تنتر جنتر۔ ودیا۔ کالا علم۔ علم تسخیر۔ علم قیافہ۔ علم سامدرک یعنی ہاتھ دیکھ کے قسمت بتانا۔ علم سرودھا۔ ناقص گرہ کے اپائے وغیرہ وغیرہ۔ لاکھوں روپے خرچ کرکے بھی نہ حاصل ہونے والے۔ زمانہ قدیم کے یوگیوں۔ تیاگی سادھوؤں۔ جٹادھاری سنیاسیوں۔ کراماتی فقیروں اور درویشوں کے سینہ بسینہ چلے آنے والے خفیہ راز و عملیات کا انمول خزانہ بھرا پڑا ہے۔ جسے پڑھکر ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی ان عملوں کو سدھ کرکے دنیا بھر کی دولت کا مالک بن سکتا ہے۔ منہ مانگی مراد دے سکتا ہے۔ جو چاہے بنا سکتا ہے۔ ہزاروں مریضوں کو پل بھر میں تندرست کر سکتا ہے۔ دشمن سے اکیلے مقابلہ کرکے مطیع کرنا۔ تمام خلق کو دیکھنا اور خود نظر نہ آنا۔ کئی آدمیوں کی خوراک ایک ہی برتن میں میسر کرنا۔ آدمی کا گھوڑا۔ بلی۔ کتا۔ شیر۔ گیدڑ وغیرہ نظر آنا۔ جس عورت کو حمل نہ ٹھہرے اسے حمل کا ٹھہرنا۔ جن یا بھوت دور کرنا وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے عجیب راز درج ہیں جو ہزاروں روپے خرچ کرکے بھی نہیں مل سکتے اور جن سے ہر مذہب کا آدمی پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یقیناً ایسی مفید اور کارآمد کتاب دنیا بھر کے کسی کتب خانہ میں نہیں چھپی۔ ہماری اس کتاب کو حاصل کرکے آپ دوسری اس قسم کی کتابوں کو دھوکہ کی ٹٹی بتا دیں گے۔ اس کتاب کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ چھٹی بار چھاپ کر بیچ رہے ہیں۔ آج ہی منگوا لو ورنہ ساتویں بار کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چھپائی نہایت صاف مع جلد بندھی ہوئی۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ [illegible] محصولڈاک وغیرہ [illegible] الگ۔

**منگوانے کا پتہ۔ مینیجر اقبال ہند بک ڈپو و اقبال عالم جنتری (۳۶ جی) رام گلی۔ لاہور (پنجاب)**

---

افسوس! اکہ میری جوانی تباہ ہو رہی ہے

پیارے اپنا جسم تباہ کرکے [illegible]

# سر جیون بوٹی طلسمی رس

رجسٹرڈ

جسم میں از سر نو روح پھونک کر انسان کو بامراد بنا دیتی ہے

اسکے چند دن کے استعمال سے ہی جوانی عود کر آتی ہے۔

اگر قوت باہ کی کمزوری۔ نامردی۔ جریان۔ احتلام کی شکایات ہیں یا غلط کاریوں [illegible] کی طاقت نہیں ہے۔ بیوی کے پاس جاکر شرمندگی سے لاجواب ہونا پڑتا ہے اور عورت [illegible] تو آج ہی اصلی سر جیون بوٹی طلسمی رس منگوا کر استعمال کریں۔ اسکے استعمال سے تمام شکایتیں [illegible] مراد پوری ہوگی۔ [illegible] ایک دو بوند روزانہ استعمال [illegible] اسکے استعمال میں کسی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں۔ صرف [illegible] خدا کی قدرت کا تماشہ نظر آتا ہے۔ پوری صحت والے انسان [illegible] قیمت [illegible] صرف ۱۲ [illegible] محصولڈاک [illegible]

**منگوانے کا پتہ۔ مینیجر کارخانہ اصلی سر جیون بوٹی طلسمی رس (۳۶ جی) راما سٹریٹ لاہور**

---

# یہ تینوں گھڑیاں مفت

انڈیپنڈنٹ قلم

تین شیشی عطر گلاب فی شیشی۔ خضاب تین ڈبیاں اصلی داد کی دوائی جو 12 گھنٹے میں داد کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ ایک شیشی روغن طلا جو ہر قسم کی نامردی کو دور کرتا ہے۔ ایک شیشی حب مراد جو جریان احتلام وغیرہ نامراد امراض کو ۲۰ دن میں کاٹتی ہے۔ اور ایک عدد اصلی انڈیپنڈنٹ قلم۔ ان تمام اشیاء کی قیمت صرف تین روپیہ ۔/3 ہر ایک چیز کا پرچہ ترکیب استعمال ساتھ ملیگا محصولڈاک وغیرہ کچھ نہیں اور ساتھ میں تین عدد سنہری یا سفید کیس کی خوبصورت [illegible] رسٹ واچ [illegible] ٹوٹنے اور خوبصورتی کی گارنٹی کے ساتھ مفت دی جائینگی۔ ایسا سستا مال کہیں نہ ملے گا۔ [illegible] خالی کرنا مقصود ہے

**ملنے کا پتہ رائل سٹور [illegible] روڈ۔ لاہور۔ پنجاب**

---

# جشن سلور جوبلی ملک معظم شہنشاہ جارج پنجم کی تقریب کی خوشی میں عظیم الشان رعایتی اعلان و انعام



نصف قیمت

اعلیٰ نمونہ کی قابل دید

## سنہری گولڈن دستی گھڑی

نصف قیمت

[illegible] گولڈن دستی گھڑی [illegible]

یہ گھڑی [illegible] سائز کی نہایت خوبصورت اور [illegible] ڈیزائن کی ہے۔ امیر غریب۔ مرد عورت۔ دولہا دولہن سب کو یکساں پسند ہے۔ دیکھنے میں [illegible] روپے سے کم کی نہیں۔ ٹائم بالکل صحیح مشین پختہ اور پائیدار۔ [illegible] کبھی نہ خراب ہونے والا نہایت چمکدار اور [illegible] چابی ۳۰ گھنٹہ کی ہے۔ [illegible] اسکی اصلی قیمت بارہ روپے ہے۔ لیکن سلور جوبلی کی خوشی میں رعایتی نصف قیمت صرف چھ روپے -/6 [illegible] انعام میں مفت ہمراہ دیا جاویگا۔ محصولڈاک بذمہ خریدار [illegible]

**منگوانے کا پتہ اقبال سوس واچ کمپنی (۳۶ جی) پارسن روڈ۔ لاہور (پنجاب)**

[illegible]

ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں ۱۹۳۶ء مع رسالہ عروج زندگی باتصویر اور سچے حالات بتانے والا فالنامہ تحفت دیا جائیگا۔



# جنگ کا فیصلہ اور گھڑیوں کا پھر رعایتی اعلان

دوستو! ہم نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ دو سال کی جنگ کے بعد قاعدہ شرائط پر گھڑیوں کی بھاری تعداد لینے سے قیمتوں میں بھاری کمی کرائی گئی ہے۔ جو کمی کرائی گئی وہ سب کی سب خریداروں کو گھڑیوں کی قیمتوں پر رعایت کر دی گئی تھی۔ جس سے ۱۹۳۵ء میں ہمارے بیشمار مہربانوں نے ہم سے گھڑیاں منگوا کر بے حد نفع حاصل کیا تھا۔ چونکہ ولایت والے گھڑیوں کی قیمت سونے کے سکہ میں لیتے ہیں اور آجکل سونے کی قیمت ڈیوڑھی سے بھی زیادہ ہے اس لئے ولایتی کارخانہ داروں نے گھڑیوں کی قیمتیں ڈیوڑھی بڑھا دی تھیں۔ اس حالت میں بڑھی ہوئی قیمتوں پر گھڑیاں خریدنا خریداروں کو بہت دشوار تھا۔ اس لئے ہم نے خریداروں کی اس تکلیف کو محسوس کرکے جھگڑوں کے ولایتی کارخانہ داروں سے قیمتوں میں کمی کرانے کے لئے پھر جنگ شروع کر دی تھی۔ پورے ایک سال کے جھگڑے کا نتیجہ نکلا کہ سونے کا نرخ بڑھ جانے سے قیمتوں کا جو اضافہ ہوا تھا ایک بہت بڑی تعداد گھڑیوں کی منگوانے کی شرط پر وہ سب کا سب چھوڑا لیا گیا ہے۔ گویا کہ اسوقت ہم کو سابقہ قیمتوں پر ہی گھڑیاں پڑ رہی ہیں۔ چونکہ کم منافع پر زیادہ مال بیچ کر اپنی تجارت کو بڑھانا ہمارا اصول اول ہے۔ لہذا پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل بہار جھلک دینے والی اعلیٰ درجہ کی مشینری اور جواہرات کی طرح چمکنے والے پرزوں سے آراستہ۔ نہایت ہی عمدہ خوبصورت مضبوط اصلی گھڑیاں جو سوائے ہمارے کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتیں۔ ذیل کے کم کئے ہوئے تقریباً لاگت کے داموں پر دی جا رہی ہیں۔ جن صاحبوں نے تجارت کے لئے یا خود استعمال کے لئے گھڑیاں منگوانی ہوں اپنے آرڈر جلد بھیج دیں۔

کئی صاحب جنہوں نے پچھلے سال ایک بار ہم سے مال منگوایا تھا بوجہ عمدگی مال فوراً فروخت ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کیونکہ سستی اور عمدہ گھڑیاں ہونے کی وجہ سے ہمارے گودام سے ایکدم بک گئی تھیں۔ اور دوبارہ طلب کرنے پر ہم نہیں بھیج سکے تھے۔ اس لئے اب کی بار زیادہ سے زیادہ جسقدر منگوا سکیں منگوا لیویں تاکہ پھر مایوس نہ ہونا پڑے۔

ہر ایک گھڑی پورا پورا امتحان اور اطمینان کر لینے کے بعد مع دستخطی گارنٹی پرچہ کے روانہ کی جاتی ہے۔ ناپسندیدگی کی صورت میں بغیر استعمال کئے واپس کر لینے پر نقد قیمت واپس کر دی جاتی ہے۔ (نوٹ) ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری اصلی گھڑیاں سوائے ہمارے دوسری جگہ ہرگز ہرگز نہیں مل سکتیں۔ دوسرے اشتہاروں کی چکنی چپڑی عبارت پڑھکر اپنا روپیہ مت ضائع کریں ← اور پیچھے پچھتانے پر آرڈر بھیجکر اصلی مال منگوا کر فائدہ اٹھائیں۔

ہر ایک پاکٹ یا رسٹ واچ کے ہمراہ [illegible] مفت

ایک دم تین گھڑیاں خریدنے سے چوتھی گھڑی بلا قیمت [illegible] مفت انعام

ہر ایک گھڑی کے ہمراہ نفیس چین رسمہ اور [illegible] مفت دیا جاویگا

[illegible]

اصلی رسکوپ سسٹم پاکٹ لیور واچ۔ [illegible] چاندی کا کیس اول [illegible] گارنٹی ۵ سال

انگلش فلیشن رسٹ واچ۔ نہایت نفیس۔ ہمارے اکثر معزز خریداروں کو مضبوط فلیشن ایبل اور کم قیمت گھڑی کی تلاش رہا کرتی تھی۔ [illegible] گارنٹی ۱۰ سال

نمبر ۳۱۰ گارنٹی ۵ سال۔ سنہری کیس پائدار مضبوط مشین قیمت صرف ۵/۰

نمبر ۳۱۱ گارنٹی ۵ سال۔ نکل کیس ریڈیم ڈائل [illegible] پائدار قیمت صرف ۵/۸

نمبر ۳۱۲ گارنٹی ۶ سال۔ [illegible] مع سیکنڈ مضبوط قابل دید قیمت صرف ۵/۸/۰

نمبر ۳۱۳ گارنٹی ۶ سال۔ [illegible] پائدار مشین مع سیکنڈ [illegible] قیمت صرف

نمبر ۳۱۴ گارنٹی ۸ سال۔ قابل دید مضبوطی اور نفاست میں [illegible] قیمت ۵/۸

نمبر ۳۱۵ گارنٹی ۱۰ سال۔ سیکنڈ ریڈیم ڈائل ہوتے شیشے والی نہایت لاجواب قیمت ۵/۸

اصلی ریگولیٹر لیور واچ۔ [illegible] گارنٹی ۲ سال

انجن مارکہ [illegible]

ٹولڈ چاندی۔ نہایت خوشنما [illegible] گارنٹی ۲۲ سال

نو ایجاد چیننگ پائلٹ لیور واچ۔ [illegible] گارنٹی ۱۸ سال

آٹھ روزہ چابی کی پاکٹ واچ۔ [illegible] گارنٹی ۱۵ سال

نمبر ۲۲۵ لیور۔ مشین [illegible] نکل سکور [illegible] گارنٹی ۱۰ سال

نمبر ۲۵۰ گارنٹی ۱۰ سال۔ [illegible]

نو ایجاد چیننگ رسٹ واچ۔ گارنٹی ۱۵ سال۔ [illegible]

سنہری ریڈیم ڈائل انگلش جڑاؤ رسٹ واچ۔ [illegible] گارنٹی ۱۵ سال

منگوانے کا پتہ:- محمد نداس اہوجہ اینڈ سنز ہول سیل اینڈ ریٹیل واچ مرچنٹس۔ اہوجہ بلڈنگس ۳۴/۱ جی، لاہور (پنجاب)

نفیس چین - [illegible] گھڑی کے ہمراہ مفت

ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں ۱۹۳۶ء اور رسالہ موج زندگی با تصویر اور [illegible] فالنامہ مفت دیا جائے گا۔

## نیو پیٹنٹ رسٹلٹ واچیں
## کلائی کی نفیس اور نایاب گھڑی



جاپانی [illegible] گارنٹی [illegible] سال

گنڈے دار رسٹلٹ

گھڑیوں کے ایجاد ہوتے ہی جو کامیابی اور ناموری اس گھڑی کو نصیب ہوئی ہے اُسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر چند جنٹلمین گھڑیاں لٹکائے موجود ہوں تو غالباً دو کی جیب میں تو جیبی گھڑیاں ہونگی اور باقی سب کے ہاتھوں میں یہ خوبصورت باریک تسمے والی نیو فیشن رسٹلٹ گھڑیاں ہی زیب دیتی ہونگی۔ کیونکہ اس گھڑی کی خوبصورتی اور دلکش شیپ نے پبلک کے دلوں پر ایسا اثر کیا ہے کہ جنٹلمین تو اس گھڑی کی موجودگی میں دوسرے نمونہ کی گھڑی کو پسند نہیں کرتے۔ اور مستورات طلائی زیورات کے مقابلے میں اس گھڑی کو زیب تن کرنا فخر سمجھتی ہیں۔ اسکی مشین بڑھیا اور وقت بھی ہمیشہ صحیح رہتا ہے۔ قیمت عمدہ خوبصورت باریک تسمہ لگا ہوا کیس سفید پختہ [illegible] بڑھیا [illegible] ریڈیم ڈائل [illegible] بڑھیا [illegible] سنہری کیس [illegible] بڑھیا [illegible] ریڈیم ڈائل [illegible] چاندی کا کیس [illegible] ریڈیم [illegible] ان داموں مفت سے منگوا کر شوق پورا کریں۔

## آٹھ روزہ شیپ کی اصلی پائدار بڑھیا پاکٹ لیور واچ



گارنٹی ۵ سال

یہ نفیس گھڑی مشین کی نفاست اور مضبوطی میں بے مثل ہے۔ ڈائل بہت ہی خوبصورت بیل بوٹے دار دلفریب ہے۔ ایک بار کی خریدی ہوئی تمام عمر کام دیگی۔ سچا وقت دینے میں اپنی آپ نظیر ہے۔ سیکنڈ کے مقام پر بال کمانی کا سامنے رقص کرتا ہوا بہت بھلا معلوم دیتا ہے اور یہ نفیس کیس لیور سے مضبوطی۔ پائداری خوشنمائی اور ارزانی کی وجہ سے مقبول عام ہے قیمت مع خوشنما زنجیر صرف چار روپیہ بارہ آنہ للعہ

R 4/12/-

چھ خریدنے پر ساتویں مفت ملے گی۔

## نہایت مضبوط شاک پروف پاکٹ لیور واچ



گارنٹی ۱۲ سال

تمام شوقین مزاج دفتروں کے بابو کلرک ٹیچر اور پولیس کے جوان جو بالکل ٹھیک وقت پر اپنی ڈیوٹی پر جانا چاہتے ہیں اسکو رکھتے ہیں کیونکہ چوٹ لگ جانے پر بھی نہیں بگڑتی اسی لئے اسکا نام شاک پروف ہے۔ پائدار نہایت درست وقت دینے والی قیمت بہت ہی کم صرف تین روپیہ بارہ آنہ ۳/۱۲

## سینٹر سیکنڈ پاکٹ لیور واچ



گارنٹی ۱۲ سال

اس گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی بیچ میں ہے اور گھومتی ہوئی ایسی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ ہر وقت دیکھنے کو دل چاہتا ہے ایک ہی بار نظر ڈالنے سے گھنٹہ منٹ اور سیکنڈ تک صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے خاصکر فوجی افسر [illegible] ڈاکٹروں اور سواریوں وغیرہ کے لئے نہایت کارآمد تحفہ ہے۔ [illegible] للعہ [illegible]

کارآمد

## حیرت انگیز نو ایجاد ریڈیم لیور واچ



اسمیں [illegible] خوبی پیدا کی ہے کہ [illegible] لیور چال خوشنما شیپ [illegible] ڈائل پر اعلیٰ ریڈیم جس سے اندھیرے میں بجلی کی طرح چمک کر وقت بتاتی ہے شیشہ کی حفاظت کے لئے [illegible] ریڈیم [illegible] رسٹ واچ

## تقسیم انعامات

جنتری ۱۹۳۵ء کے اعلان کے مطابق جن اصحاب کو -/250 روپیہ کے انعامات تقسیم کئے گئے ہیں۔ انکی فہرست الگ چھاپی گئی ہے۔ جو صاحب فہرست انعام حاصل کنندگان جاننا چاہتے ہوں جوابی کارڈ یا تین پیسے کے ٹکٹ بھیجکر فہرست منگوا لیویں۔ [illegible] نہیں کی جاتی [illegible]

## نمبر ۲۱۲ خاص آرڈر سے بنوائی ہوئی قابل دید نیو فیشن رسٹ واچ



[illegible] نہایت ہی خوبصورت اور مضبوط [illegible] نکل [illegible] رسٹ واچ عورت مرد سب کو برابر زیب دیتی ہے [illegible] کام دینے والی [illegible] وقت صحیح بتاتی [illegible] نیو فیشن قیمتی [illegible] مفت دیا جاتا ہے [illegible] قیمت [illegible] گارنٹی ۱۰ سال

## اصلی سونے کی بڑھیا قابل قبول لیور اسپیشن نہایت خوشنما پائدار رسٹ واچ



[illegible] رسٹ واچیں وضع کی نہایت خوشنما اور [illegible] پائدار ہیں انکی خوبی دیکھنے ہی پر منحصر ہے۔ [illegible] قیمت -/22 و -/20 و -/19 [illegible] کیس کی -/14 و -/12 [illegible] گارنٹی ۲۰ سال

## ایسا پائدار [illegible]



[illegible]

## بیسٹ قسم بڑھیا مضبوط الارم ٹائم پیس



گارنٹی ۱۰ سال

[illegible] اسقدر [illegible] وقت [illegible] کا فرق نہیں ہوتا [illegible] اسٹینل الارم [illegible] 12/2 [illegible] بڑھیا [illegible] ریڈیم [illegible] دو گھنٹیوں والا [illegible] بڑھیا [illegible] الارم [illegible] انپیریل ٹائم [illegible] ۲۵ منٹ [illegible] الارم [illegible] چاہیے منگائے۔

## بیاہ شادی اور تحفہ تحائف میں دینے والی سنہری فینسی رسٹ واچیں معہ تسمہ



قیمت ہر ایک کی [illegible]

نمبر ۱ · نمبر ۲ · نمبر ۳ · نمبر ۴

گارنٹی ۵ سال

4/12

[illegible]

منگوانے کا پتہ۔ [illegible] اینڈ سنز ہول سیل [illegible] واچ مرچنٹس [illegible] لاہور (پنجاب)

[illegible]

مفت - ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں [illegible] و صد سالہ موج زندگی باتصویر اور بچے کے حالات بتانے والا فالنامہ مفت دیا جائے گا۔

# صنعت و حرفت طب قانون انجنیئری موٹر ڈرائیوری سکھانے والی اور دولت بنانے والی مقبول عام کتابیں

جن کی دھوم چار دانگ عالم میں مچ چکی ہے اور جن سے کروڑہا اصحاب فائدہ اٹھا کر مالا مال بن چکے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ان سے محروم ہیں تو آج ہی منگا کر دولت مند، سلیقہ شعار ہوشیار اور کارآمد بن جائیے۔ یہ کتابیں ہر شخص کے کارآمد اور مفید مطلب ہیں۔ قیمت بھی زیادہ نہیں۔ محصول ڈاک ہر کتاب کا ذمہ خریدار ہوگا۔

**بجلی کا کارخانہ** باتصویر مکمل

اس کتاب میں ہر قسم کی بجلی کی [illegible] تصویریں [illegible] انگریزی کتابوں کے ترجمے اور [illegible] مبتدیوں کے لئے [illegible] قیمت [illegible]

**ایک ہزار ایک پیشہ اور ہنر مکمل**

اس کتاب کا نام مجموعہ ہزار ہنر ہے [illegible] درج ہیں جن سے آدمی گھر بیٹھے ہزاروں روپیہ پیدا کر سکتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ

**بھان متی کا پٹارہ**

پوشیدہ دنیا کے [illegible] ہندوستان [illegible] کا پٹارہ ہے۔ اسمیں سینکڑوں [illegible] شعبدات درج کرکے بہت آسان [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

**تحفۂ حکیم**

مردوں اور عورتوں کی تمام پوشیدہ امراض کے اسباب اور علامات [illegible] بے اولادی کے علاج اور [illegible] ہر قسم کے [illegible] قیمت [illegible]

**قانون عشرت**

ایک کتاب ہے جس کی [illegible] لذت سے ہر ایک [illegible] اسمیں متعدد [illegible] قیمت ایک روپیہ

**طلسمی عجائب خانہ**

اسمیں وہ طلسم درج ہیں جن سے [illegible] قیمت [illegible]

**جامع حکمت**

[illegible] قیمت [illegible]

**جادو کے منتر**

اسمیں ہر قسم [illegible] جادو طلسم جنتر منتر تعویذ نقش وغیرہ درج ہیں [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

عمل انار کلی قیمت [illegible]
چین کا جادو [illegible] تحفہ بنگال [illegible]
بنگال کا اصلی جادو [illegible]
مردوں سے ملاقات [illegible]
مکمل صابون سازی [illegible]

**مکمل موٹر کار ڈرائیوری**

موٹر سائیکل باتصویر۔ اس کتاب میں موٹر چلانے سیکھنے [illegible] انجن اور [illegible] مرمت کرنے کی ترکیبیں [illegible] تصویریں دے کر سمجھایا ہے۔ کتاب پڑھ کر [illegible] سکتے ہو۔ سکھانے کی ضرورت نہیں۔ قیمت دو روپیہ آٹھ آنہ

**لائق بیرسٹر** قانون کی لاجواب اور قابل خرید کتاب

اس کتاب کے [illegible] وکیل [illegible] قیمت سادی جلد [illegible] ہندی کی قیمت [illegible]

**چشمہ جوتش** چار حصے مکمل

اسمیں جوتش کے وہ تمام راز [illegible] درج ہیں [illegible] قیمت ریشمی جلد [illegible]

**مکمل خزانہ کیمیا** مجلد

ہر قسم کی [illegible] سونا چاندی [illegible] کیمیائی طریق [illegible] قیمت [illegible]

**انگریزی مٹھائیوں کا**

ہر قسم کی انگریزی مٹھائیاں بنانے والی کتاب ہے قیمت مجلد دو روپیہ [illegible]

**روح کرامات** باتصویر مجلد

اسمیں تمام کراماتوں اور بزرگوں کے مکمل حالات [illegible] درج ہیں اور اسمیں وہ منتر درج ہیں جن سے انسان آنکھیں بند کرکے کل دنیا کی بہشت اور دوزخ کے نظارے [illegible] موت کے بعد کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ قیمت مجلد [illegible]

**مکمل فن گھڑی سازی** باتصویر

اسمیں گھڑیوں کے ہر قسم کے نقص [illegible] وغیرہ بہت خوبی سے درج ہیں قیمت [illegible]

**سائیکل ٹیچر**

[illegible] ہر قسم کی مرمت [illegible] وغیرہ [illegible] درج ہیں۔ قیمت فی جلد صرف ایک روپیہ [illegible]

ناول اکبر کلاں صرف [illegible]

**مشکل کشا** جادو ٹونے کام

کرنے والی بے خطا کتاب ہے۔ اسکے ذریعہ دشمن کو زیر کرنا یا افسر کو مہربان کرنا معمولی بات ہے۔ [illegible] دل کا مطلب ہوگا سب پورا ہوگا۔ قیمت فی جلد دو روپیہ آٹھ آنہ

**عملیات سمر قند طلسمی** اسمیں ہر قسم کے عملیات [illegible] ہیں قیمت [illegible]

**اردو لغات** علم دوست اصحاب کے لئے یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ اسمیں اردو الفاظ ردیف وار تمام زبانوں [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ [illegible]

**چھپو اکاسی بیوپار**

[illegible] جاپان کے تمام دستکاری ملکوں کا [illegible] قیمت ایک روپیہ [illegible]

**ہر قسم کی بیڑیاں بنانے کی** مکمل اور باتصویر مجلد کتاب۔

اسمیں ہر قسم کی [illegible] خشک بیڑیاں بنانے کی ترکیبیں [illegible] قیمت فی جلد دو روپیہ [illegible]

**انجنیر آف دی نکس**

ہر قسم کی سیاہیوں بنانے کے نسخے اس کتاب میں ایسی خوبی سے درج کیا [illegible] ہر شخص ہر قسم کی سیاہی آسانی سے بنا سکتا ہے قیمت صرف ایک روپیہ [illegible]

**مکمل رنگ سازی**

[illegible] تیار ہوکر ہندوستان میں [illegible] فروخت ہوتے ہیں ان سب کے نسخے اس کتاب میں [illegible] ہر شخص [illegible] رنگ تیار کرکے مالک کارخانہ بن سکتا ہے قیمت مجلد دو روپیہ [illegible]

**سیکرٹ آف انگلش میڈیسن**

مشہور انگریزی پیٹنٹ ادویات جو لاکھوں روپیہ [illegible] فروخت ہوتی ہیں اسکے اصلی نسخے بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کئے ہیں تاکہ ہر فرد بشر خود تیار کرکے اسکی تجارت سے دولتمند ہو۔ قیمت ڈھائی روپیہ [illegible]

**مکمل مجرب طب حکمت** باتصویر

حکمت کی تمام کتابوں کا خلاصہ [illegible] ہر ایک کتاب [illegible] تمام امراض کے [illegible] علاج [illegible] دیگر تمام حالات [illegible] درج ہیں [illegible] قریباً ۶۰۰ صفحے قیمت [illegible]

**مجموع اللطب**

[illegible] اسمیں یونانی [illegible] ویدک [illegible] ڈاکٹری [illegible] تمام امراض کے علاج [illegible] درج ہیں۔ قیمت دو روپیہ [illegible]

**مکمل گنجینہ حکمت**

[illegible] مشہور عام کتاب [illegible] ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے اسکے مطالعہ سے ہر شخص حکیم بن سکتا ہے۔ قیمت مجلد دو روپیہ [illegible]

**مکمل آئل انجن بک** باتصویر

ہر قسم کے آئل انجنوں کو سٹارٹ اور فٹ کرنے چلانے [illegible] مرمت کرنے کے طریقے مفصل درج ہیں [illegible] انجان آدمی بھی ڈرائیور بن سکتا ہے قیمت مجلد ایک روپیہ بارہ آنہ

**بائلر انجن بک** باتصویر

[illegible] انجنوں اور پرزوں کی تصویریں [illegible] اور خوب سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح بائلر انجنوں سے کام لیا جاتا ہے اور [illegible] مرمت وغیرہ مجلد دو روپیہ [illegible]

**ایگریکلچر سٹیم فار انجن** باتصویر

اسمیں [illegible] کھیتی [illegible] کام [illegible] والے انجنوں کے علاوہ [illegible] طاقت کے سٹیم انجنوں کے حالات درج ہیں۔ قیمت صرف [illegible] آنے

**مصر کا جادو**

[illegible] مشہور و معروف جادو کی اصلی کتاب ہے جسمیں [illegible] مصر میں [illegible] درج ہیں قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

**ہنسی کا گول گپا**

یہ [illegible] کتاب چٹکلے و چٹکلے [illegible] ہندی کی [illegible]

**لوکوموٹو انجن** باتصویر ریلوے لائن پر

[illegible] چلنے والے انجنوں کے تمام حالات بالتشریح اور ڈرائیور [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ

**میرین انجن بک** باتصویر

پانی پر چلنے والے انجنوں کی مکمل اور باتصویر قابل دید کتاب ہے قیمت مجلد ایک روپیہ [illegible]

**لینڈ انجن بک** باتصویر

اسمیں تمام قسم کے لینڈ و پانی کا کام کرنے والے انجنوں کے بالتشریح حالات درج ہیں۔ قیمت فی جلد صرف [illegible]

**ہائی سپیڈ انجن بک** باتصویر

اسمیں تمام قسم کے تیز رفتار انجنوں کے مکمل حالات مع تشریح سوالات و جوابات درج ہیں قیمت صرف چھ آنے

**مکمل انجنیرنگ گائیڈ** یا رہنمائے انجن ڈرائیوری حصہ اول باتصویر

ہر قسم کے انجنوں کی بناوٹ اور انکے پرزوں کے مکمل حالات مشہور و معروف اقسام کے انجنوں اور انکے پرزوں کی تصویریں درج ہیں جن سے ہر شخص انجن ڈرائیوری بآسانی سیکھ سکتا ہے حجم قریباً ۴۰۰ صفحہ قیمت تین روپیہ

**مکمل انجنیرنگ گائیڈ** حصہ دوم

اسمیں سٹیم تیار کرکے کام لینا اور تمام قسم کے سٹیم انجنوں کو فٹ کرنا، پرزوں کی مرمت وغیرہ مفصل حالات درج ہیں قیمت مجلد دو روپیہ چار آنہ حصہ اول و دوم ایک ساتھ منگانے سے صرف [illegible]

ملنے کا پتہ: منیجر اقبال ہند بک ڈپو و اقبال عالم جنتری (۳۶ بی) آہوجہ بلڈنگ۔ رام گلی۔ لاہور (پنجاب)

[illegible] ۱۲/ - انکے علاوہ اور ہر قسم کی درسی و مذہبی کتابیں آرڈر آنے پر روانہ ہو سکتی ہیں۔

غلط ثابت کرنے پر ہزار روپیہ 1000/- انعام - ساتویں بار چھپ کر بک رہا ہے جلد منگوالیں

دنیا میں سب سے بہتر - لاثانی
دلفریب - قابل دید اور بہت ہی نایاب 200
ہفت رنگی تصاویر
اور آٹھ ہاف ٹون فوٹوز رنگین بلاکس اور 354 بڑے صفحوں والا
با تصویر
کوک شاستر
مکمل ۳ حصہ
ہمارا کوک شاستر کے بڑے ۳۵۴ صفحے ہیں
قابل دید لائق خرید
سب سے نرالا
اصلی پرانا جگروری
کشمیری
ہوشیار نقلی سے فرضی کوک شاستروں کی خریداری سے بچیں
بار بار پڑھنے قابل
پُر تصویر مفید مطلب
شرحان کوکہ پنڈت وزیر اعظم ریاست کشمیر کی اصلی بیاض کا مع آنکی سوانح عمری کے صحیح عام فہم ترجمہ

اس کوک شاستر کو پڑھنے سے وہ عجیب باتیں معلوم ہونگی جو عورتوں اور مردوں کے متعلق جاننی ضروری اور مفید ہیں۔ نقلی تصویروں اور چند صفحوں کے قصے کہانیوں والے کوک شاستر دیکھکر تو آپ اپنی دولت کھو چکے - آئیں اب ہم اپنے خاص ہفت رنگی تصویروں والے اصلی کوکہ پنڈت کے بنائے ہوئے کوک شاستر کی زیارت کرائیں جس میں دنیا بھر کے باکمال مصوروں کی کاریگری کے منہ بولتے فوٹو - عورتوں اور مردوں کی خاص حالتوں کی پوری اور مفصل تصویروں کے نمونے جنکے لئے آپ مدت سے ترس رہے تھے اور ہزاروں روپے خرچ کرنے پر بھی آپ کو نہیں ملیں - اور وہ راز جنکے لئے کوکہ پنڈت نے تمام مخلوق کو گرویدہ بنا رکھا تھا ہمارے اس کوک شاستر میں درج ہیں - ہمارا یہ وہ کوک شاستر ہے جسکی ہر وقت ہر شخص کو ضرورت ہے - فہرست مضامین حسب ذیل ہے -

(۱) کوک شاستر کیوں مشہور ہے کب یا کس کے عہد میں بنا - اسکا اثر - موجد کون تھا اور کیونکر بنایا گیا -
(۲) بہ تجربہ اور اسکے فائدے - سنگ کے قواعد بازاری و غیر عورت اور جلق کے نقصانات -
(۳) بیوہ عورتوں کو ہدایات -
(۴) پدمنی - چترنی - سنکھنی عورتوں کے بیانات
(۵) کن کن عورتوں سے ... عورتوں کے خراب ہونیکا علاج
(۶) شوہر پرست عورتوں کی خاصیتیں -
(۷) حیض کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت یا ہونیکے ٹھیک وقت پر آنے کے علاج - اچھے اور برے خون کی پہچان - ایام ماہواری سے پاک و صاف ہو کر کیا کرنا چاہیے - آغاز حیض ایام کا ہجوم حمل کے ٹھہرنے کا نتیجہ -
(۸) قدرتی قانون کا وقت -
(۹) قرار حمل - حمل کا دن معلوم کرنا -
(۱۰) اپنی مرضی سے لڑکا لڑکی پیدا کرنے کے طریقے
(۱۱) حاملہ کی پہچان - حاملہ کے خاص نشانات حمل میں لڑکا لڑکی اور جڑواں کی پہچان -
(۱۲) مطابق کام شاستر شناخت حمل -
(۱۳) حمل کے بعد عورت کو کیا کرنا چاہیے -
(۱۴) اولاد کی خاطر قدرتی قانون کا وقت -
(۱۵) انسان کے دل کو کھینچنے والی مستورات اور انکے نشانات -
(۱۶) چاند کے حساب سے عورتوں کی خواہشات کا پورا حال اور آسنوں کا مکمل بیان -
(۱۷) سوال ... کے اصول کمرہ کیسا ہونا چاہیے
(۱۸) اگر کھیلنے والا ... کا طریقہ - فلسفہ نیند - باسی پانی پینے کے فوائد -
(۱۹) ... عورتوں کے اوصاف - عورتوں کی چال ڈھال دیکھکر سب حال دریافت کرنا -
(۲۰) بمطابق کام شاستر عورتوں کے اوصاف - پریم پیاری - عورت کا دیر پہ - موہنی منتر - منتر - خوشی بڑھانے کے طریقے - بیان شادی -
(۲۱) عورت کا خاندان کیسا ہونا چاہیے
(۲۲) نزدیک یا دور شادی کرنے کے فوائد
(۲۳) شادی کس عمر میں کرنی چاہیے - عورت کی عمر بیاہ کے لائق جوڑہ -
(۲۴) بیان حمل - حمل کی شکل -
(۲۵) ماہ اول سے لیکر بچہ پیدا ہونے تک کے حمل امراض اور انکا مفصل تیر بہدف علاج مع نقشہ
(۲۶) پیدائش کا دن اور وقت معلوم کرنیکا صحیح ...
(۲۷) بچہ پیدا ہونے کے دن اور وقت سے بچہ کی کل زندگی کے کل حالات کا نقشہ جس سے فورًا معلوم ہو جائیگا کہ بچہ کتنی عمر کا ہوگا اور والدین کی کیا خدمت کریگا غریب ہوگا یا امیر وغیرہ - بد اثر کا علاج بذریعہ جوتش
(۲۸) پرورش اطفال مع تشریح امراض و علاج -
(۲۹) بچہ یا اولاد پیدا کرنے کے نسخہ جات و جنتر منتر - اگر اولاد نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے -
(۳۰) پرسوتا کی ہدایات - سوہاگ سونٹھ -
(۳۱) سنگار کی ادویات - بال سیاہ کرنے کے نسخے - بال اڑانے کے پوڈر - افزائش بال - بالوں کا تیل
(۳۲) حاملہ کے بخار - استسقاء - جریان الرحم - سیلان الرحم - اختناق الرحم - ... اسقاط حمل قرار حمل کا مکمل علاج ... عفونت ... منتر بنانیکی ترکیبیں ... لاغر رکھنے کے نسخے - دودھ بڑھانے کی ادویات
(۳۳) حمل سے لڑکا ہی ہو -
(۳۴) ہر قسم کی بانجھ عورت کے علاج - حیض کی تکلیف دور کرنے کے طریقے -
(۳۵) سیلان ... پاک - سفید پانی کا علاج -
(۳۶) چاروں قسم کے مرد شسک - مرگ - اشو - ... کی شناخت اور چال ... کی پہچان
(۳۷) جریان کی تشریح و علاج - علاج نامردی - احتلام ... منتر ... آتشک سوزاک وغیرہ تمام مہلک امراض و دماں کا مکمل علاج
(۳۸) ہر قسم کے کشتہ جات کے مکمل طریقے -
(۳۹) کسی کی شادی اپنی مرضی کے مطابق عورت سے شادی کرانے کے منتر اور مفصل بیان -
(۴۰) علاوہ ازیں اور دلچسپ مضامین کوک شاستر کی قسم کے عجیب و غریب حالات جن کا بیان کرنا مناسب نہیں درج ہیں -

خوب یاد رکھیں کہ وہ یہی اصلی کوک شاستر ہے جسکے لئے مدت سے آپکی آنکھ ترس رہی تھی - اگر اصلی کوک شاستر کی خواہش ہے تو پتہ ذیل سے ہی مل سکتا ہے کیونکہ اس میں ضروریات کے مطابق ۲۰۰ ہفت رنگی دلچسپ تصویریں موجود ہیں جن کے آپ خواہشمند ہیں - اس لئے اسکے منگوا لینے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ کریں (۱) قیمت ۳ رنگہ فوٹو ٹائیٹل بلاک والی جلد صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ (۲) قیمت ۳ رنگے فوٹو ٹائیٹل بلاک والی بڑھیا فینسی پختہ سنہری جلد سے سجا ہوا اور بڑھیا کاغذ دو روپیہ (۳) پختہ ریشمی جلد دو روپیہ آٹھ آنہ ہندی اور گورمکھی الگ الگ چھپی ہوئی قیمت دو روپیہ پختہ ریشمی جلد ڈھائی روپیہ محصولڈاک ہر کتاب کا بذمہ خریدار -

منگوانے کا پتہ مینیجر اقبال ہند بک ڈپو اقبال عالم ... لاہور (پنجاب)

اصلی جگروری کی کوک شاستر کی دوسرے کو چھاپنے کا اختیار نہیں چونکہ کئی بگڑدرقی کے نام سے دوسرے چھوٹے چھوٹے مضمون کا کوک شاستر دینے کا دھوکہ دیتے ہیں منگوانے سے پہلے اس سے پوچھو کہ تمہاری کتاب میں کتنی فوٹو اور تصویریں ہیں بڑے سائز کے صفحے کتنے ہیں

نقادوں نے ہماری طاقت کی طلسماتی سنہری گولیوں پر بہت سی دلیلوں کی شہرت دیکھ کر نقالوں نے جو نہ حکیم نہ وید نہ دوا فروش ہیں۔ نقلیں شروع کر دی ہیں ان سے بچو۔ نیم حکیم خطرہ جان والی مثال کے مصداق نہ بنو +

[illegible]

شکست نامرد کو جوانمرد اور مرد کو قوی ہیکل بنانیوالی

# طاقت کی طلسماتی سنہری گولیاں

مجرب تیر بہدف زود اثر بلا ضرر

۲۰ گولیاں
۱۸ درم میں گولیاں ایک
ہی امتحان [illegible] ہیں اور
استعمال کر کے اپنی قوت کا اندازہ کیجئے

ان طلسماتی سنہری گولیوں کے استعمال سے مردہ قوت لوٹ آتی ہے۔ کمزور اور لاغر انسان لوہے کی لاٹھ کی مانند طاقتور ہو جاتا ہے اور قوت مردمی ہمیشہ کے لئے عود کر آتی ہے اور تمام قوائے روحانی۔ جسمانی اور اعصابی میں غیر معمولی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ سستی۔ کاہلی۔ گھبراہٹ۔ سر درد۔ اور منی کی تمام بیماریاں۔ جریان۔ احتلام۔ رقت منی۔ خواب میں ناپاکی وغیرہ ایک ہی شیشی کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو خود ہی تباہ کر بیٹھے ہوں اور درد سر۔ درد کمر۔ دل کی دھڑکن۔ دھات کے گرنے اور دیگر تمام ایسی تکلیفوں سے نجات چاہتے ہوں تو ان طلسماتی سنہری گولیوں کو ضرور استعمال کریں۔ کیونکہ یہ گولیاں ایسے تمام مریضوں کے لئے اکسیر اعظم ثابت ہوئی ہیں اور منی کو بھاری تعداد میں پیدا کرتی ہیں۔ غرضیکہ جن باتوں کے لکھنے اور بتانے میں آپ جھجکتے ہیں یہ گولیاں ان کا تحفہ تیر بہدف علاج ہیں اور تمام جلدی امراض کو دور کر کے طبیعت کو بشاش اور سدا بہار بنا دیتی ہیں۔ گویا خشک درخت میں آبحیات کا پانی پڑ جاویگا۔ قیمت فی شیشی ۴۵ گولیاں صرف ایک روپیہ محصولڈاک [illegible] تین شیشی مع محصولڈاک وغیرہ [illegible] چھ شیشی مع محصولڈاک وغیرہ صرف [illegible]

## سرمہ سینیاسی کو ہمیشہ آنکھوں میں لگائیے

یہ سرمہ ایک سنیاسی صاحب سے بصرف زر کثیر حاصل کیا ہے جسکی ہزاروں پوریاں مفت بانٹنے سے مفید اور بیش بہا تحفہ ثابت ہوا ہے۔ جو صرف جنگلی جڑی بوٹیوں کی ملاوٹ اور سرمہ کو قاعدہ کے مطابق پاک صاف کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر اسے تندرست آنکھوں والے لگا دیں تو آنکھ کی کوئی بیماری نہ ہو۔ جو لوگ دماغی محنت اور پیرانہ سالی کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے سے عینک لگاتے ہیں انکے لئے یہ سرمہ اکسیر ثابت ہوا ہے۔ اور خاص کر تمام امراض چشم ضعف بصارت۔ دھند۔ جالا۔ غبار۔ پڑوال۔ ناخونہ۔ خارش۔ پھولا۔ سرخی چشم۔ آنکھوں سے پانی بہتے رہنا۔ تاریکی چشم وغیرہ۔ سب آنکھوں کے امراض دور کر کے دن کو تارے دکھاتا ہے۔ طلبا اور دماغی کام کرنے والے لگا دیں تو عینک کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ جو ابھی عینک لگانے کے عادی نہیں انکو عینک کی ضرورت نہ پڑیگی۔ یہ سرمہ ہر فرد بشر کی پاکٹ میں ہر وقت رہنا چاہیئے۔ قیمت سوا تولہ کی شیشی صرف چودہ آنہ ۱۴/ محصولڈاک وغیرہ منی آرڈر [illegible] تولہ کی شیشی [illegible] محصولڈاک وغیرہ [illegible] ۱۵ اور ڈھائی تولہ یا زیادہ کے خریدار کو محصول معاف

## سانڈے کا تیل

سانڈے کی اکڑ کر کبھی توڑ دی جائے پھر بھی وہ ویسے کا ویسا ہی اکڑا رہتا ہے۔ ناکارہ عضو مخصوص پر اگر اس تیل کی مالش کر دی جاوے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ فی شیشی [illegible] محصولڈاک [illegible]

## کیا اب موت کی علامتیں نکلیں گی!

نہیں۔ ہرگز نہیں

خدا کے فضل سے مایوس مت ہو اور [illegible] طلسمی روح حیات امرتی خرید کر استعمال کرو۔ اور قدرت خدا کا تماشہ دیکھو۔ تمام اندرونی و بیرونی بیماریاں۔ مثلاً درد سر۔ آنکھ۔ پیٹ اور کان کا درد۔ بہرہ پن۔ زکام۔ کھانسی۔ درد دانت۔ جلن۔ ہیضہ۔ بدہضمی۔ پیچش۔ درد گردہ۔ بواسیر۔ آتشک۔ سوزاک۔ جریان۔ نامردی۔ حیض کی خرابی۔ بخار۔ پلیگ۔ نمونیا۔ تپ دق۔ [illegible] پھوڑے پھنسیاں۔ بچھو۔ سانپ وغیرہ کا ڈنک وغیرہ وغیرہ تمام امراض پر صرف یہ ایک ہی دوائی آبحیات کا کام دیتی ہے۔ عقلمند وہ ہے جو ہر وقت اسکو پاس رکھتا ہے۔ رعایتی قیمت بڑی شیشی ایک روپیہ نمونہ کی شیشی ۸/ مع محصولڈاک وغیرہ [illegible]



## آتشک کی گولیاں

آتشک دور [illegible]

کسی آتشک نے [illegible] پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس لئے اس مرض کو چھپانا نہ چاہیئے۔ بیماری [illegible] آتشک کے مادے کو [illegible] خون کو [illegible] دور کر دیتی ہیں [illegible] ۲۰ دن [illegible] قیمت [illegible] محصولڈاک [illegible]

## سوزاک [illegible] کی مجرب دوا

پیشاب میں پیپ کا آنا [illegible] جلن [illegible] ۲۴ گھنٹے میں [illegible] تکلیف کو دور کر کے [illegible] آرام [illegible] قیمت [illegible] محصول [illegible]

## پساری پاک

مستورات کے پوشیدہ امراض کا خاص علاج ہے مثلاً حیض کا درد سے آنا یا کم زیادہ آنا۔ سفید رطوبت کا جاری رہنا۔ درد جگر۔ درد سر۔ [illegible] بھوک نہ لگنا۔ حد سے زیادہ کمزوری۔ حمل نہ ٹھہرنا۔ اولاد سے مایوسی۔ کل شکایات کو دور کر کے تندرست بنا دیگا۔ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ نہایت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہے۔ ۳۰ دن کی خوراک [illegible] محصول [illegible] محصولڈاک ۱۲

## جریان الرحم

یعنی ان تمام امراض میں جو عورتوں کے رحم سے سفید رطوبت کا گرنا جسکو پردر روگ کہتے ہیں۔ اس سے دل کا دھڑکنا۔ سر چکرانا اور درد کرنا۔ درد کمر۔ ہونٹ خشک ہونا۔ بھوک نہ لگنا۔ غشی کا ہونا۔ سستی کا بڑھنا۔ حرارت کا رہنا۔ بلکہ آخر میں تپ دق ہو جاتا ہے۔ ہماری اس مجرب دوا سے یہ مرض [illegible] قیمت [illegible] ہفتہ کی دوا [illegible] محصولڈاک

## افیم چھڑانے کی گولیاں

خدانخواستہ اگر آپکا کوئی عزیز افیم کھاتا ہو تو ان گولیوں کو استعمال کرائیے اس سے بلا تکلیف افیم کھانے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ قیمت ۵۰ گولیوں کی [illegible] محصولڈاک [illegible]



یہ گولیاں امیروں کو تلخئ زندگی اٹھانے [illegible] ناکارہ لوگوں کے لئے تیار کی ہیں جو زیادہ خواہشات کو ترستے ہوں۔ [illegible] بجلی کی مانند طاقت پیدا کر دینگی ۵۰ گولیاں [illegible] محصولڈاک [illegible]

## سر گنج کی دوا

یہ دوا گنج کو دور کر کے بال پیدا کرتی [illegible] قیمت ۱۲/ محصولڈاک [illegible]

منگوانے کا پتہ — پروپرائیٹر ورمن اوشدھالیہ۔ پارسن روڈ (۳۶ جی) لاہور (پنجاب)

دھوکہ نہ کھائیں۔ دیگر اشتہار دہندگان کیمرہ کے ہمراہ سات یا آٹھ میوٹ ٹکڑیاں مفت دے رہے ہیں جو صرف بچوں کی ہوتی ہیں۔ اور بازار میں ایک آنہ درجن بکتی ہیں۔ خبردار دھوکہ نہ کھائیں (۹۱)



## اعلیٰ کوالٹی کی سینما بائیسکوپ اصلی مشین

یہ وہی بڑھیا مشین ہے جسکا تماشہ رات کو دیکھ کر لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ فلم چڑھا کر مشین چلاؤ تو چلتی پھرتی ہوئی تصویریں نیچی کی قسم کے ڈرامے۔ دنیا بھر کے نظارے۔ جانور۔ حسین لیڈیوں کی تصویریں۔ مشہور نظارے اور قومی نظارے بائیسکوپ کمپنی کی طرح تماشہ کرتی ہوئی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ معاش اور تفریح اسمیں دونوں موجود ہیں۔ جس سے بے روزگار لوگ تھوڑے سرمایہ سے بہت کما سکتے ہیں۔ قیمت چھوٹی مشین معہ ایک فلم صرف -/5 بڑھیا معہ ایک رنگدار فلم و تین عدد سلائیڈ -/7 مجھولی معہ ایک رنگدار فلم و سات تصاویر -/11 بڑھیا معہ ایک بڑی رنگدار فلم اور نو عدد بڑی بڑی تصاویر -/15 بڑی مشین معہ دو عدد فلم اور ۲۴ عدد تصویر دل سے بھرے ہوئے سلائیڈ قیمت -/21 ایسی ہی اور بڑی -/25 و -/28 درجہ اعلیٰ -/30

## چلتی پھرتی تصویروں والا پاکٹ بائیسکوپ

جب دل چاہے پاکٹ سے نکال کر خود بھی تماشہ دیکھئے اور دوستوں کو بھی دکھائیے۔ لیمپ اور پردہ کی ضرورت نہیں۔ رعایتی قیمت ۱۲/

## کشیدہ کشی کی اصلی مشین

یہ شریف بیگمات اور عزیز لڑکیوں کو کشیدہ کا کام سکھانے چست و سلیقہ دار بنانے کا عجیب تحفہ ہے۔ اسکے ذریعہ ہر قسم کے خوبصورت بیل بوٹے دار کشیدہ کاری سے سوتی و اونی ریشمی تکیے کے غلاف رومال۔ میز پوش۔ مخمل ٹوپیاں۔ گھوڑوں کی جھال وغیرہ پر گلکاری کا کام صرف ترکیب کی کتاب پڑھنے سے سیکھا جاتا ہے۔ کتاب ترکیب ہندی اردو انگلش جو درکار ہو مشین کے ساتھ ملے گی۔ قیمت اصلی چار روپے ۱۲/ [illegible] محصولڈاک معاف

## وکیل بیرسٹر ڈاکٹر وغیرہ کیلیے

استعمال کے قابل مضبوط اور دیرپا خود بخود سیاہی بھرنے والے فیشنی فونٹین پن۔ زیادہ تعریف فضول ہے۔ سونے کی نب والے ۳ روپیہ ۱۲/ دوسرے اعلیٰ درجہ کے [illegible] ۱۲/

## پاکٹ غلیل

[illegible] چھوٹے پرندے شکار کیجئے اور بندر بھگائیے قیمت ۱۲/ محصولڈاک [illegible]

## اعلیٰ درجہ کی اصلی دوربین

بڑھیا لینز والی۔ جو گھوڑ دوڑ۔ سینما۔ ہوائی جہاز اور قدرتی نظارے دیکھنے کے لئے بہت کارآمد ہے۔ قیمت [illegible]

## ربڑ کی [illegible] ڈمبل

[illegible] کی تندرستی کی بہتری محافظ اور لطف زندگی کے حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اسکے [illegible] قرار نہیں پاتا اور زہریلی بیماری سے بچاتی ہے قیمت [illegible] محصول زنانی [illegible]

## نر ہے یا مادہ

اسکے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ قیمت معہ محصولڈاک صرف [illegible]

## مانند سونے کے ہمیل سنہرے کڑے

شیر دہاں کڑے مانند سونے کے

پھولدار کڑے مانند سونے کے

بچوں کی کلائی میں بڑا لطف دیتے ہیں

## سنہرا نولکھا ہار

[illegible]

## یارنگ

ہیرے کی اصل کو شرمانے والے چمکدار نگینوں سے آراستہ اعلیٰ فیشن کے خوبصورت پائندار [illegible] پہننا حسن کی بہار ہوتی ہے۔ فی جوڑہ [illegible]

## چپاکلی

اسکی کلیاں اور [illegible] نگینوں سے آراستہ ہیں [illegible] گلے میں پہنتی ہیں قیمت [illegible]

## زنجیر

[illegible] گلے میں پہننے کے لئے بہت نایاب ہے قیمت [illegible]

## جڑاؤ زنانی ہار

پہنانے ہی حسن ناچنے لگتا ہے۔ نفاست قابل دید۔ بچے سونے کا [illegible] رنگ برنگے آبدار نگینوں سے آراستہ۔ چار سو روپیہ کے ہار سے بڑھ چڑھ کے [illegible] قیمت صرف [illegible]

## سنہرے جڑاؤ کرنپھول جھمکے

یہ سنہرے کرنپھول جھمکے مانند سونے کے ہیں۔ ان کو بہو بیٹیاں بڑے شوق سے اپنے کان میں پہنتی ہیں فی جوڑہ [illegible]

## اعلیٰ درجہ کا سنہرا جڑاؤ گلوبند

یہ سنہرا [illegible] گلوبند عورتوں کے گورے گورے گلے [illegible] لطف دیتا ہے [illegible] مانند سونے کے [illegible]

## بٹن دباؤ اور تصویر لو

نہایت صاف اور چمکدار فوٹو کھینچنے والا بڑھیا کیمرہ

ایک کیمرہ آپ ضرور منگائیے

ہم نے یہ فوٹو کیمرہ سپیشل آرڈر دے کر اعلیٰ درجہ کا تیار کروایا ہے جو صاحب کیمرہ کا بٹن دبانا بھی نہیں جانتے وہ بھی بے حد عجیب تصاویر اتار کے اپنی شہرت اور قسمت چمکا سکتے ہیں۔ اس سے چلتے پھرتے مرد عورت بچے۔ دوڑتی ریل۔ اڑتے جانور۔ گھوڑ دوڑ۔ باغ باغیچے۔ ہر قسم کے سین سینریاں۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندری نظارے۔ بڑی بڑی عمارات وغیرہ کی عمدہ اور صاف تصویریں نہایت آسانی سے ایک آن واحد میں اتر آتی ہیں۔ ہمارے اس کیمرہ نے بازار کے تمام کیمرے مات کر دئے ہیں۔ ہر ایک کیمرہ کے ساتھ چار عدد فلمیں۔ ایک درجن چھاپنے کے اعلیٰ درجہ کے کاغذ۔ بڑھیا لینز دھونے کے مصالحہ جات اور ترکیب کی آسان کتاب اردو میں چھپی ہوئی مفت دی جاتی ہے۔ قیمت صرف دو روپیہ آٹھ آنہ بڑھیا قسم تین روپیہ چار آنہ ہے محصولڈاک معاف۔ صرف [illegible] آرڈر خریدار کے ذمہ۔ جلد منگا لیجئے

## تھیٹر سوانگ تماشے اور بہروپ کیلیے بڑھیا بال

ہم سے اچھے بال اور کہیں نہ ملیں گے آزمائش شرط ہے محصولڈاک الگ

### شہزادی کے بال

یہ خوبصورت بال بہت لانبے اور خوبصورت ہیں جو شہزادی کے روپ میں کام آتے ہیں فی سٹ [illegible] بڑھیا [illegible]

### لانبی داڑھی

اسکے لگانے سے شکل [illegible] اصل نقل میں تمیز نہیں ہوتا۔ بڑھیا سیاہ داڑھی [illegible] لال یا سفید ۱۲/ داڑھی فرنچ کٹ عمدہ سیاہ قیمت ۱۲/

### زنانہ بال

یہ بال مانند اصلی کے تھیٹر میں لڑکی بنانے کو بہت عمدہ معلوم ہونے لگتے ہیں سیاہ بال ۱۲/ سفید بال [illegible] لال بال [illegible]

### چوٹی

یہ زنانہ چوٹی سوانگ میں بہت کام آتی ہے سیاہ [illegible] گندمی [illegible] بھوری [illegible] سرخ رنگ کی [illegible]

### داڑھی گول

مانند اصلی کے خوبصورت سیاہ قیمت ۱/ سرخ یا سفید ۱۲/ پنجابی سکھی داڑھی دونوں طرف سے کانوں پر چڑھی عمدہ سیاہ عمدہ ۱۲/

### فقیرانہ جٹا

مانند اصلی کے بہت سیاہ [illegible] لال یا سفید [illegible] شیو جی کی بھی عمدہ جٹا [illegible] لال یا سفید [illegible]

### مردانے بال

یہ بال پتلے خوبصورت جوان کے پارٹ میں کام آتے ہیں قیمت سیاہ [illegible] بابری خوشنما جو شہزادے کے پارٹ میں بڑا لطف دیتی ہے۔ قیمت [illegible]

### مونچھیں رعب دار

یہ مانند اصلی کے ہیں جو سوانگ تماشے میں بہت کام آتی ہیں نمبر ۱ قیمت [illegible] نمبر ۲ [illegible] نمبر ۳ [illegible] بہت رعب دار قیمت [illegible]

ملنے کا پتہ۔ مینیجر دی امپیریل جنرل سپلائی سٹور۔ پارسن روڈ (۳۶ حجی رام گلی) لاہور (پنجاب)

ہر ایک خریدار جنتری کلاں سنہ ۱۹۳۶ء مع رسالہ موج زندگی با تصویر اور سچے حالات بتانے والا نالہ مفت دیا جائے گا۔

# 5000 پانچ ہزار اصلی گھڑیاں ولایت کے نرخ مفت برابر

ایک ہی جیب کے
خریدار کو ساتھ مفت



جو صاحب ان گھڑیوں کو برت چکے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے کبھی دوسری گھڑی کا نام نہیں لیتے اور اپنے دوستوں کو بھی ہم سے یہی گھڑیاں منگوا کر دیتے ہیں۔ اور دیکھنے و آزمائش کرنے کے بعد مفت برابر قیمت دیکھ کر نہایت تعجب کرتے ہیں۔ ہم پہلے یہ گھڑیاں صرف سیکڑوں کی تعداد میں منگوایا کرتے تھے مگر ان کی زیادہ بڑھی ہوئی مانگ نے مجبور کر دیا ہے کہ بھاری تعداد میں منگوا کر لاگت کے داموں فروخت کی جاویں۔ تاکہ خریدار صاحبان کو سستی پڑیں اور ان کی بکری بھی زیادہ ہو۔ اس لئے ہم نے اس بار یہ گھڑیاں پہلے سے بہت بڑھیا میٹریل لگوا کر اپنے سپیشل آرڈر سے پانچ ہزار کی تعداد میں منگوائی ہیں

اتنی تعداد منگوانے سے کارخانہ کے مالک نے ہم کو خاص کمیشن دیا ہے اور اس کمیشن کو ہم نے اپنا منافع سمجھ کر زیادہ بکری اور کم منافع کے اصول کو مدنظر رکھ کر صرف لاگت ہی کے داموں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گویا اس وقت یہ قیمتی گھڑیاں آپ کو ولایت کے نرخ پر مفت برابر مل رہی ہیں۔ اس لئے آپ بلا کسی سوچ بچار کے ان گھڑیوں کو منگوا لیں۔ کیونکہ آپ کے لئے یہ سنہری موقع ہے۔ ان گھڑیوں کی چند خوبیاں درج ذیل ہیں ملاحظہ فرماویں۔ اس مشہور اور شہرۂ آفاق گھڑی کی مشین لیور ہے۔ جو تمام دیگر گھڑیوں کی مشینوں سے عمدہ ہے۔ اور دیکھنے میں پچیس روپیہ کی گھڑی کا مقابلہ کرتی ہے۔ مضبوط ایسی کہ دادا خریدے اور پوتا برتے۔ اسکے نمبروں اور سوئیوں پر اعلیٰ درجہ کا ریڈیم لگا ہوا ہے جس سے گھپ اندھیری رات میں بھی بجلی کی طرح چمک کر دن کی طرح وقت بتاتی ہے۔ اسکا کیس پختہ نکل سلور کا ہے۔ پرزے نہایت مضبوط اور کبھی نہ گھسنے اور نہ ٹوٹنے والے۔ وقت کی بالکل صحیح ہے۔ اسکا جنٹلمین سائز بھی عام پسند ہے۔ خاص کر فوجی افسر۔ محکمہ تار اور ڈاک اور دیگر دفتروں کے بابو۔ سکول ماسٹر و دیگر سب چھوٹے بڑے عہدہ داروں کے لئے یہی ایک دلفریب گھڑی تحفہ ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اتنی کم قیمت ہوتے ہوئے بھی اسمیں سیکنڈ کی سوئی موجود ہے۔ پائدار ایسی کہ اچانک گرنے پر کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی قیمت سفید ڈائل والی کی صرف چار روپے آٹھ آنے ۔ Rs. 4/8/- ۔ اور سیاہ ڈائل والی کی صرف چار روپیہ بارہ آنہ ۔ Rs. 4/12/- رکھی گئی ہے۔ جو کہ اتنی خوبیوں والی گھڑی کے لئے کچھ بھی نہیں۔ دونوں میں سے جو درکار ہو منگا لیں۔ **نوٹ** (۱) ہر ایک گھڑی کے ہمراہ ۵ سال کی گارنٹی کا پرچہ اور فینسی تسمہ مفت روانہ ہوگا (۲) محصولڈاک وغیرہ ذمہ خریدار

### دیکھئے ہماری پائداری کی نسبت خریدار کیا لکھتے ہیں۔

(۱) جناب بسم اللہ صاحب ضلع امرتسر سے تحریر فرماتے ہیں کہ ”بیک نمبری ۱۴۹۸ کے مطابق چیزیں دیکھ کر دل کو خوشی حاصل ہوئی۔ آپ کے محض ایماندار ہونے کی وجہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے پھر ایک ویسٹ اینڈ کمپنی کی قیمتی گھڑی منگاؤں۔“ (۲) جناب خدا بخش صاحب کشمیر سے تحریر کرتے ہیں کہ ”آپ کے کارخانہ کو خداوند کریم ہمیشہ آباد رکھے۔ کیونکہ جو چیزیں منگائی تھیں سب درست ہیں۔“ (۳) انیس صاحب کا دوسرا خط ”آپ کی دیانتداری کے باعث میں سات سال سے آپ کا گاہک ہوں۔ خداوند کریم آپ کے کارخانہ کو دن دونی ترقی دے۔“ (۴) جناب غلام خان صاحب ضلع مراد آباد سے تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے رسٹ واچ منگائی تھی۔ عمدگی کے لئے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک اور گھڑی مرحمت فرمائیے۔ (۵) مسٹر منوہر لعل جی نے رائے بریلی سے انگریزی میں تحریر کیا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی رسٹ واچ بہت عمدہ نکلی جسکا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ التجا ہے کہ ایک اور روانہ کیجئے۔ یہی نہیں بلکہ بے شمار سرٹیفکیٹ موجود ہیں جو بوجہ عدم گنجائش درج نہیں ہو سکے۔ سچائی کے لئے اتنے ہی کافی ہیں۔

منگوانے کا پتہ:- مینیجر ٹی۔ این۔ انڈیا اینڈ کمپنی ہول سیل واچ ڈیلرز (۳۶ جی) پارسن روڈ۔ لاہور (پنجاب)

# لوہے کی لاٹھ یا سنیاسی کرامات عرف فورسلین


اے نادان خودکشی اچھی نہیں۔ یہ لے فورسلین استعمال کر تیری کل تمام بیماریوں کا اکسیر ہے

یہ سنیاسی کرامات یا سنیاسی کا نچوڑ جادو اثر دوائی حلق سے اترتے ہی طاقت مردمی کا زبردست طوفان پیدا کر دیتی ہے۔ مردہ جسم میں نئی روح ڈال کر شیر مرد قوی ہیکل اور لوہے کی لاٹھ بنا دیتی ہے۔ بچپن کی بد اور ناتجربہ کاری سے جو لوگ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر چکے ہوں انکے لئے یہ دوائی آبحیات اکسیر اعظم کا حکم رکھتی ہے۔ اسکے استعمال سے پیدائشی نامردی کو چھوڑ کر ہر قسم کی نامردی۔ سستی۔ جریان۔ احتلام وغیرہ تمام بیماریاں دور ہو کر وہ سب احساسات پوری ہوتی ہیں جو ایک جوان مرد میں ہونی لازمی ہیں۔ اور ان بیماریوں سے پیدا شدہ تکلیفات مثلاً خفقان اور طبیعت پژمردہ رہنا۔ بیماری سے جو ہمیشہ اداس اور مایوسی نے ڈیرہ ڈالے رکھنا۔ چہرہ زرد مرجھا کر بے رونق ہو جانا اور سر درد۔ کمزور ہو کر رہنا۔ دل کی دھڑکن کمزوری دماغ۔ آنکھوں کا اندر دھنس جانا۔ اور بینائی کم ہو جانا۔ جگر کی خرابی سے غذا کا ہضم نہ ہونا۔ پیشاب درد اور پیشاب کم زیادہ یا قطرہ قطرہ آنا۔ گردوں میں تکلیف محسوس ہونا۔ بدن پتھر کی طرح بھاری رہنا۔ یا تمام بدن پیلا ہو کر سوکھ کر تنکا ہو جانا اور ...... ٹیڑھا ہو کر تمام رگیں سبز رنگ کی نمودار ہونے لگنا۔ اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جانا۔ تھوڑا چلنے سے تھک جانا اور چلنے پھرنے یا کسی سے بات کرنے سے جی چرانا۔ بدن ہر وقت دکھتے رہنا وغیرہ سیکڑوں امراض دور ہو کر خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ چہرہ مانند پھول گلاب اور کندن کی طرح چمک کر پر رونق ہو جاتا ہے۔ دل میں سرور آنکھوں میں نور برستا ہے۔ بدن چست و چالاک و پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ ثقیل اور سخت سے سخت اشیاء فوراً ہضم ہو کر طاقت بخشتی ہیں۔ جو لوگ شرم کے مارے اپنی حالت کسی پر ظاہر نہ کرتے ہوں اور عورت کو منہ دکھانے کے بالکل ناقابل ہوں وہ ضرور ہی اس دوائی کو منگوا کر استعمال کریں۔ کیونکہ اسکے استعمال سے ایسا ہر ایک مریض شریفانہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو کر اولاد نرینہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہر عمر اور مذہب کے لئے یہ دوائی مفید ہے۔ اسمیں خلاف مذہب اور ایمان کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی اور نہ کسی کشتہ کی آمیزش ہے بلکہ جنگل کی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے۔ سردی گرمی اور برسات ہر موسم میں استعمال ہو سکتی ہے اور کسی قسم کے خاص پرہیز کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے ان امراض کی ادویات استعمال کرکے مایوس ہو چکے ہیں تو ہماری یہ آخری دوائی بھی استعمال کریں۔ خدا کے حکم سے ضرور فائدہ ہوگا۔ قیمت اس دوائی کی برائے نام صرف دو روپیہ چار آنہ ۔/Rs. 2/4 مع محصولڈاک ہے۔ اگر عورتوں کو بھی ایسی بیماریوں کی شکایت ہو تو ان کو بھی یہ دوائی ضرور استعمال کراویں۔ انکی تمام تکالیف دور ہو کر طاقتور اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔

منگوانے کا پتہ فورسلین ڈپو۔ برانڈرتھ روڈ۔ لاہور (پنجاب)

ملذذ طلاء قیمت عہ نمونہ ۳ ؍ کے ٹکٹ بھیجکر منگاؤ

## اگر آپ کو اپنی پیاری بیوی سے محبت ہے تو زیادہ اولاد کے بوجھ سے اسکی صحت کو برباد نہ کریں

## اس کساد بازاری کے زمانہ میں زیادہ اولاد ناقابل برداشت بوجھ ہے

## برتھ کنٹرول یعنی اختیاری اولاد

ایک دو یا تین سال یا ہمیشہ کیلئے اولاد پیدا نہ کرنیکی خواہش ہو تو مشہور دوائی

## نومور

کا استعمال کریں۔ اس دوائی نے اٹھانوے فیصدی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی لئے ناکامیابی کی صورت میں قیمت واپس کرنے کی گارنٹی ہے۔ ایک سال کی رکاوٹ کے لئے صرف تین دن دوائی کھلانی پڑتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں یا بیمار عورتیں بھی اس دوائی کو استعمال کرسکتی ہیں سسٹم میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی نقصان ہوتا ہے۔ قیمت ایک سال کے لئے ایک روپیہ۔ پانچ سال کے لئے تین روپیہ اور ہمیشہ کے لئے پانچ روپیہ علاوہ محصولڈاک

اس دوائی کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ہر بڑے شہر میں ایجنسیاں قائم ہو چکی ہیں۔

### اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو

یا ہو کر مر جاتی ہو۔ تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا الشکور اور غفور کا نام لیکر آج ہی ہماری دوائی کا استعمال شروع کردیں۔ آپ کی مراد بر آئیگی۔ ہزاروں ویرانے گھر اس دوائی کے استعمال سے آباد ہوگئے۔ قیمت مکمل کورس تین روپیہ آٹھ آنہ (عہ؍) محصولڈاک علاوہ۔

### لڑکا ضرور پیدا ہوگا

جن کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ اولاد نرینہ کو ترستے ہیں۔ ان کو فوراً ہی ہماری مندرجہ بالا دوائی منگوا کر استعمال کرنی چاہیئے۔ یہ دوائی حمل کے دوسرے یا تیسرے مہینے عورت کو کھلائی جاتی ہے۔ یقیناً لڑکا پیدا ہوگا۔ قیمت فی پیکیٹ صرف دو روپیہ (عہ) علاوہ محصولڈاک۔

## جریان الرحم یعنی لیکوریا کا شرطیہ علاج

اس نامراد مرض سے عورت زندہ درگور ہو جاتی ہے اس کے علاج میں دیری ہرگز نہ کرنی چاہیئے۔ سفید پانی کے دریا بھی کیوں نہ بہتے ہوں اس دوائی کے استعمال سے رک جاتے ہیں اور تندرست و توانا ہو جاتی ہے قیمت فی پیکٹ دو روپے چار آنہ علاوہ محصولڈاک

## سدا جوانی فارمیسی (سدا جوانی بلڈنگ سدا جوانی سٹریٹ) راوی روڈ لاہور

# ان نئی نئی ایجادوں نے دنیا میں تہلکہ مچادیا ہے!

(اگر فائدہ مند ثابت نہ ہوں۔ تو دام واپس کردینے کی گارنٹی)

بال کالا تیل
बाल काला तेल
DEWAS
GREY KILL
دائمی شباب کی مخصوص ایجاد

SOLD EVERYWHERE

برف جیسے سفید بالوں کو سیاہ کرنے والا

## بال کالا کرنیکا تیل

برسوں کی محنت اور تجربہ کے بعد بالوں کو سیاہ کرنیوالا تیل بنانے میں صرف ہم ہی کامیاب ہوئے ہیں اور ہماری ہی کامیابی کو دیکھ کر کئی نقال پیدا ہوگئے ہیں۔ یہ بالکل بے ضرر اور زمانہ حاضرہ کی بالکل نئی ایجاد ہے اس کے استعمال سے بال جڑ سے سیاہ پیدا ہوں گے جس جگہ کے بال سفید ہوں ساتھ معمولی تیل کی طرح ملکر بالوں پر لگاویں۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے بال سیاہ مانند بھنور کے ہوجائیں گے قیمت باوجود ان خوبیوں کے صرف دو روپے علاوہ محصولڈاک۔

نقالوں سے بچیں

## طلائے سیماب یعنی پارہ کا تیل!

مادرزاد نامرد کو بھی مرد کامل بنانے کی طاقت رکھتا ہے

یہ طلا معمولی طریقہ پر طیار نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اسکی تیاری میں مہینے نہیں بلکہ سال لگ جاتے ہیں۔ پارہ کو پہلے جڑی بوٹیوں کی امداد سے کشتہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کشتہ سے کیمیاوی طریقہ پر جوہر اڑایا جاتا ہے اور پھر اس جوہر سے تیل نکالا جاتا ہے اس تیل کی مالش سے مادرزاد نامرد بھی مرد کامل بن جاتا ہے یہ تیل آبلہ یا زخم ہرگز نہیں ڈالتا۔ تیل کی پرکھ یعنی پہچان۔ اس کی چند بوندیں کسی مردہ گوشت کے ٹکڑے پر ڈالدیں۔ وہ ٹکڑا اس کی تاثیر سے حرکت کرنے لگ جاویگا۔ بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس قدر طاقت رکھتا ہے۔ زیادہ تعریف بالغ اخلاق ہے نوٹ۔ باوجود انتہائی کوشش کے اس قدر بھی بہت کم شیشیاں طیار ہوتی ہیں اس لئے ضرورت مند اصحاب جلد منگوالیں ورنہ کافی عرصہ انتظار کرنا پڑیگا۔ گرمی سردی ہر موسم میں قابل استعمال ہے قیمت فی شیشی دو روپے علاوہ محصول

**دمہ کی مجرب دوائی** اس نامراد مرض سے ستائے ہوئے ناامید مریض صحتیاب ہوکر کارخانہ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ دمہ خواہ کیسا ہی پرانا ہو صرف چار روز کے استعمال سے ہی کافور ہوجاتا ہے اور پھر ہمیشہ کیلئے نزدیک نہیں آتا قیمت مکمل خوراک (۱) علاوہ محصول

**چھلہ بواسیر** چھلہ بواسیر اس قدر مقبول ہوا ہے کہ اس کی تعریف ہی فضول ہے بغیر دوائی کھلائے ہی بواسیر کو آرام آجاتا ہے بس اس چھلہ کو پہن لیں اور اس گندی مرض سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارا حاصل کریں۔ قیمت فی چھلہ صرف ایک روپیہ علاوہ محصولڈاک۔

**پارہ کی گولی** یوں تو آپ نے پارہ کی گولی کے بیشمار اشتہار دیکھے ہوں گے مگر ہماری پارہ کی گولی نرالی خاصیت رکھتی ہے اس گولی کو پہلے دودھ میں اُبالا جاتا ہے اور پھر اس اُبلے ہوئے دودھ کو پیا جاتا ہے۔ ہر روز لگاتار ایسا دودھ پینے سے جسم میں حیرت انگیز توانائی اور قوت پیدا ہوجاتی ہے اور جریان و احتلام کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہوجاتا ہے اور طبیعت میں غضب کا جوش اور ولولہ پیدا ہوجاتا ہے۔ یہی وہ گولی ہے جس کو وقت ضرورت منہ میں رکھا جاتا ہے اس گولی میں دھاگہ پرویا ہوا ہے۔ مفصل ترکیب استعمال کا پرچہ ہمراہ روانہ ہوگا۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت صرف ایک روپیہ علاوہ محصولڈاک اور ایک ہی گولی ہمیشہ کیلئے کام دیتی ہے یہ گولی گھستی یا گھٹتی نہیں ہے۔

**کارخانہ دیو آشرم سنیاسی جڑی بوٹی پوسٹ بکس نمبر ۱۸۲ لاہور**

قسمت کا چارٹ نامی کتاب ۲ کے ٹکٹ بھیجکر منگاؤ

# 1000! 1000! 1000

## ایک ہزار روپیہ کے ۳۹۲ انعامات کون کون خوش قسمت اصحاب لینگے

| | | | |
|---|---|---|---|
| ایک انعام ایک سو روپیہ کا | 100 | دس انعامات دس دس روپیہ کے | 100 |
| دو انعامات پچاس پچاس روپیہ کے | 100 | بیس ،، پانچ پانچ ،، | 100 |
| چار ،، پچیس پچیس روپیہ کے | 100 | پچاس ،، دو دو ،، | 100 |
| پانچ ،، بیس بیس ،، | 100 | تین سو ،، ایک ایک ،، | 300 |
| | | کل رقم ایک ہزار روپیہ | 1000 |

# آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟

لیڈیز اینڈ جنٹلمین! سال بھر کا برتھ پھل اور آنیوالے حالات جن میں بارہ ماہ کا نفع و نقصان۔ کس تجارت میں فایدہ رہیگا۔ کس ذریعہ سے روپیہ ملیگا۔ روزگار کب ملیگا۔ ملازمت۔ ترقی۔ تبادلہ۔ تنزل۔ عورت و اولاد کا سکھ و دُکھ۔ لڑکا یا لڑکی کی پیدائش۔ تندرستی۔ بیماری۔ دور دراز کا سفر۔ مقدمات و امتحانات میں کامیابی یا ناکامیابی۔ سگائی۔ شادی۔ زمین۔ جائداد۔ کاشتکاری کسی سے نیا میل یا دشمنی۔ سٹہ۔ لاٹری یا کسی نامعلوم ذریعہ سے دولت کا ملنا۔ معشوق کی خوش خبری۔ غرضیکہ ہر قسم کے دنیاوی حالات۔ ماہواری برتھ پھل کے حساب سے **بالکل مفت** بھیجے جاتے ہیں۔ آپ کسی پھول یا پھل کا نام جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ لکھکر بھیجدیں۔ سال بھر کا برتھ پھل آپ کو مفت بند ہوگا۔ مگر **یاد رہے** کہ اسی لفافہ میں **چار آنہ** (۴؍) کے ٹکٹ برائے اخراجات اشتہارات اور ڈاک ضرور آنے چاہئیں ورنہ کوئی جواب نہیں دیا جایگا۔

ہر ایک خریدار کو ایک **انعامی کوپن** ہر ایک برتھ پھل کے ساتھ مفت بھیجا جائیگا جس کی رو سے وہ مندرجہ بالا انعامات میں حصہ لے سکیں گے۔ انعامات کا نتیجہ اگلے سال کی جنتری میں شائع کیا جائیگا۔ یا اگر آپ پیشتر منگوانا چاہیں۔ تو ایک آنہ کا ٹکٹ بھیجکر منگا لیں انعامات کی رقم خوش قسمت اصحاب کو ۱۵۔ اگست سنہ ۱۹۳۶ء کو تقسیم کی جائے گی۔

**تعویذ سکندری** اگر آپ ہر کام میں فتحیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو۔ تو ہمارا تعویذ سکندری منگوائیں آپ اس کی تاثیر سے حیران ہو جائیں گے۔ قیمت فی تعویذ دو روپیہ آٹھ آنہ (۲؍۸)

# مُردہ رُوحوں سے ملاقات

اپنے عزیزوں سے بات چیت کرو جو آپ سے اس دنیا میں بچھڑ چکے ہیں۔ یہ امریکن طرز کا آلہ ہے جس کے ذریعے گمشدہ کا پتہ لگانا۔ سربمہر لفافوں کی عبارت کو جان لینا۔ لاعلاج امراض کے نسخہ جات معلوم کر لینا۔ لاٹری یا سٹہ کا نمبر دریافت کر لینا۔ دفینہ کا حال معلوم کر لینا۔ حاکم یا معشوق کو زیر کر لینا اس آلہ میڈیا ڈی اسپرٹس MEDIA DE SPIRITSE کا ادنےٰ کرشمہ ہے۔ قیمت رعایتی دو روپے (۲؍) محصولڈاک ۷؍۔ دوسرے جہان کی اسیر نامی کتاب آلہ کے ہمراہ مفت بھیجی جائیگی

**انگشتری سلیمانی** اس مسمریزم کی انگوٹھی کے ذریعہ خفیہ رازوں کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور نہایت عجیب و غریب روحانی کرشمہ جات نظر آتے ہیں۔ قیمت فی انگوٹھی صرف ایک روپیہ محصولڈاک ۷؍۔

المشتہر

## آئی جی پرنس اینڈ کو پوسٹ بکس ۱۸۲ لاہور

# آلہ مردمی

## جرمنی کی حیرت انگیز ایجاد

اب کوئی شخص نامرد نہیں رہ سکتا خواہ ساٹھ ستر سالہ بڈھا ہی کیوں نہ ہو۔ بغیر کسی قسم کی دوائی لگانے کے چند ہی دنوں میں مرد بلکہ جوانمرد بن جاتا ہے۔ اس آلہ کا موجد ایک جرمن سائنسدان ہے جس کا دعوے ہے کہ کیسا ہی گیا گذرا نامرد کیوں نہ ہو۔ پہلے ہی روز میں

# JUVINATOR

استعمال کے چند سیکنڈ بعد ہی اپنے اندر طاقت مردمی کا احساس کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ طاقت لحہ بہ لحہ بڑھتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ چند دنوں میں مریض اپنے آپ کو ایک قابل فخر مرد کامل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں یہ عجوبہ روزگار آلہ لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکا ہے۔ اور نئی زمانہ نامردی کا بہترین علاج تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اگر اب بھی آپ یا آپکا کوئی دوست رشتہ دار نامرد رہے۔ تو اس کی بدقسمتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت صرف

**پندرہ روپے (۱۵)**



### اگر آپ اس آلہ کو نصف قیمت پر بھی حاصل کر سکتے ہیں

زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کے استعمال کے بعد مریض کو اس آلہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ اس کے استعمال سے طاقت کا بے انتہا اور نہ ختم ہونے والا خزانہ ہاتھ آجاتا ہے۔ اس لئے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد (زیادہ سے زیادہ تین ماہ کے اندر) یہ آلہ ہم کو واپس کر دیں۔ ہم آپ کو اس کی نصف قیمت یعنی سات روپیہ آٹھ آنہ (للعہ) بذریعہ منی آرڈر ارسال کر دیں گے۔ گویا ساڑھے سات روپیہ میں آپ نامرد سے مرد کامل بن گئے۔ اس رعایت کا جلد فائدہ اٹھائیں۔

# آلہ مانع احتلام

مرض احتلام نامردی کا پیش خیمہ ہے۔ اس مرض کا جتنی جلدی قلع قمع کیا جائے۔ اتنا ہی اچھا ہے۔ ورنہ جڑ پکڑ لینے کے بعد یہ خوفناک مرض نامردی کی خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ دوائی کا استعمال بعض طبیعتوں کو موافق نہیں ہوتا مگر آلہ کا استعمال پہلے ہی روز احتلام کو ناممکن بنا دے گا۔ اور پھر یہ مرض جڑ و بنیاد سے اکھڑ جائیگا۔ اور عمر بھر پیدا نہ ہوگا۔ یہ بھی جرمنی کی بےنظیر ایجاد ہے۔ قیمت فی آلہ جرمنی دو روپے (عہ) (یعنی ایک روپیہ (عہ) علاوہ محصولڈاک۔

**جنرل منیجر آئی جی پرنس اینڈ کو پوسٹ بکس ۱۸۲ لاہور**

خوشخبری

حیرت انگیز رعایت

صرف تین روپے میں امریکن بڑھیا فوٹو ہینڈ کیمرہ اور ولایتی سات فینسی گھڑیاں

امریکن کوڈک کمپنی کا اصلی کیمرہ

اگر مکمل تصویر نہ اُتارے۔ تو دُگنی قیمت معہ محصول ڈاک واپس لیجئے

اس سنہری موقع کو ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دینا چاہیئے۔ کیونکہ ولایت میں روپیہ کی قلت اور مارکیٹ کے ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے ہم کو سستے داموں پر مال مل گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت مضبوط قیمتی اور اسٹیل کے فیشن کے مطابق ہے۔ اس کے ذریعہ مرد عورت۔ جانور۔ ریل۔ فوج جہاز۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندر کے نظارے اور بڑی بڑی عمارتوں کے عمدہ نہایت صاف تصویر ایک آن کی آن میں بڑی صفائی کے ساتھ اُتاری جاسکتی ہے۔ دیگر ہر قسم کے مکمل فوٹو با آسانی اُتر سکتے ہیں۔ اس کے ہمراہ سات عدد فینسی ہیوٹ رسٹ واچیں ہونگی۔ یہ گھڑیاں چمکدار مضبوط اور معہ سلک بینڈ فینسی ہیں۔ اگر ہمارے اشتہار کے مطابق امریکن کیمرہ اور فینسی ہیوٹ گھڑیاں غلط ثابت ہوں۔ تو دُگنی قیمت واپس منگوالیں۔ جلد آرڈر دیکر مشکور فرمائیں۔ کیونکہ یہ قیمت تو صرف کیمرہ ہی کی ہے ؛

**خاص نوٹ** :۔ دیگر کیمروں اور گھڑیوں کے اشتہاروں سے بچو۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ نہ ملیگا۔ منگوا کر آزمائش کیجیئے! اور آئندہ کیلئے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے پیکنگ اور محصول ڈاک ایک روپیہ علاوہ ہوگا۔ نیز گھڑیوں کیمروں میں دوسروں سے مقابلتاً رعایت کی جاتی ہے آرڈر دیکر آزمائش کریں ؛

**بجلی کی عینک** (نئی ایجاد) یہ جرمن سائنس کی نئی ایجاد ہے نہ لیمپ کی ضرورت نہ کسی لالٹین کی رات کو ضرورت کے وقت عینک نکالیں اور آنکھوں پر لگا کر جو کام کرنا چاہیں کریں کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ ہر ایک انسان استعمال کرسکتا ہے کمزور نظر کے لئے مفید ہے۔ جھوٹ یا غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس سوائے ہمارے دوسری جگہ سے نہ ملیگی۔ قیمت رعایتی فی عینک [illegible]۔ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا ؛ محصولڈاک [illegible] علاوہ ہوگا

ملنے کا پتہ :۔ **مینیجر جنرل کمرشل ایجنسی** (۲۰۱) **بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

شربان پنڈت کوکا وزیر اعظم ریاست کشمیر کے خفیہ کوک شاستر کا اردو ترجمہ اصلی

تنہائی میں بیٹھکر پڑھنے کے قابل

اصلی شہنشاہی **کوک شاستر** فوٹو بلاک با تصویر

یہ سب سے نرالا اصلی پورا ۸۰ ورقی اور مکمل ہے۔ اس میں عورت مرد کی پُر شباب چوراسی آسن کے تمام حالات ......... فوٹو بلاک و رنگین تصویریں لطف شباب حاصل کرنے کے طریقے۔ پنڈت کوکا کے ایسے خفیہ راز جن کا تحریر کرنا خلاف تہذیب ہے۔ دیگر اور عجیب و غریب باتیں جو عورتوں اور مردوں کو جاننی ضروری ہیں۔ اور وہ راز جن سے پنڈت کوکا نے تمام خلق کو گرویدہ بنا رکھا تھا۔ درج ہیں۔ یہ وہ کوک شاستر ہے۔ جس کو آپ مدت سے ترس رہے تھے۔ سوائے ہمارے یہ اصلی شہنشاہی کوک شاستر دوسری جگہ نہ ملے گا۔ منگوا کر ملاحظہ فرمائیں جھوٹ یا غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس۔ کسی دوسری جگہ سے کم قیمت ابرہ وغیرہ کوک شاستر منگوا کر دھوکا نہ کھائیں۔ صرف شادی شدہ اصحاب منگوائیں۔ قیمت رعایتی دو روپے جیبی رنگین تصویر دار فی جلد بارہ آنہ محصولڈاک ۸ ر علاوہ خط و کتابت [illegible]

ملنے کا پتہ :۔ **تلک راج منتر** (۲۰۱) **بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

غلط ثابت کرنیوالے کو یکصد روپیہ انعام

**پارہ کی گولی**

عاشق مزاج اصحاب کے لئے نایاب تحفہ ہے جس سے عورت خواہ وہ کیسی ہی سنگدل مغرور اور سخت کلام کیوں نہ ہو ہمیشہ کے لئے تابعدار ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ ہونگے آپ سے ملنے کے لئے تڑپے گی جب بھی آپ اُس کے سامنے جائینگے۔ وہ آپ سے محبت کا اظہار کریگی اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش کریگی۔ ترکیب :۔ آپ نے دودھ پینا ہو۔ اتنا خوب گرم دودھ لیں۔ اور حسب منشا میٹھا ڈالیں۔ پھر اس میں تقریباً پندرہ منٹ تک پارہ کی گولی رکھ چھوڑیں۔ بعد میں گولی نکالکر ضرورت سے دو گھنٹہ پہلے یہ دودھ پی لیں۔ ........ پھر آپ تمام رات لطف اُٹھا سکینگے۔ ایک گولی چالیس برس تک استعمال کیلئے کافی ہے۔ ضرورت مند ہم سے بیرنگ منگواسکتے ہیں۔ نیز یہ گولی جریان۔ احتلام۔ رقت وغیرہ کیلئے ازحد مفید ہے۔ نام خط و کتابت پوشیدہ رکھی جاتی ہے قیمت رعایتی صرف دو روپے مکمل پرچہ ترکیب ہمراہ گولی ارسال کیا جاویگا ؛ محصولڈاک علاوہ ہوگا۔

**شیر کی چربی کا طلاء** یہ طلاء ہر قسم کی نامردی سستی۔ کمزوری کیلئے ازحد مفید ہے۔ یہ امراض خواہ بچپن یا کثرت مباشرت سے پیدا ہوں [illegible] لاغری۔ ٹیڑھا پن وغیرہ کو دُور کرکے اپنی اصلی حالت پر لے آتا ہے۔ بیوی کی تسلی کیلئے اس سے بہتر کوئی طلاء نہیں [illegible] قیمت

ملنے کا پتہ :۔ **مینیجر دار الشفاء گولیاں** (۲۰۱) **بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

رعایتی اعلان

# جو چاہو گے ہو جائے گا!

اصلی قیمت ۴ عہ
رعایتی قیمت صرف ۱۲ ؍

عمل محبت کے شائقین جو سب طرف سے مایوس ہو چکے ہوں۔ آخری مرتبہ ہمارا شاہی جنتر گوہر مراد منگا کر اپنے دل کی مراد کو حاصل کریں اسکو اپنے پاس رکھکر آپ اپنے دل میں جس کسی کا نام لیں گے۔ خواہ وہ کیسا ہی سنگدل کیوں ہو جہاں کہیں بھی ہوگا۔ آپ سے ملنے کے لئے تڑپنے لگے گا اور جب بھی آپ اسکے سامنے جائینگے وہ آپ سے آپ محبت کا اظہار کریگا اور ہر وقت آپکے ساتھ رہنے کی خواہش کریگا نیز حاکم یا مالک کو اپنا تابع اور دشمن کو زیر کرنا گمشدہ کی تلاش کرنا کسی کے دل کا بھید معلوم کرنا کسی چور کا پتہ لگانا۔ مردہ روحوں سے بات چیت کرنا غرض کہ آپ کے ہر سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو کہ باوجود کئی ہزار کوششوں کے بھی پوری نہیں ہوئی تو وہ بھی ہمارے جنتر کے پاس رکھنے سے گنتی کے دنوں میں پوری ہو جائیگی معاوضہ صرف ۵ علاوہ محصولڈاک نوٹ:۔ غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس۔

ملنے کا پتہ:۔ منیجر جرمن کمرشل ایجنسی (۱۱) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب

## اصلی کوک ۸۴ آسن والا شاستر رنگین

(رجسٹرڈ)

عورت مرد کی چوراسی آسن کی جوڑ وار پوشیدہ رنگین تصویریں ہیں اور ۸۴ چوراسی آسن کا تمام اصلی حالات درج ہے غلط ثابت ہو تو دام واپس ۸۴ تصویر رنگین اصل قیمت ۲ روپیہ۔ رعایتی چودہ آنہ ۱۴؍

## شیر کی چربی

اگر کمزور آدمی صرف ایک رات میں طاقتور ہوکر آرام سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو یہ شیر کی چربی استعمال کریں غلط ثابت ہو تو قیمت واپس اصلی قیمت ۲ روپیہ رعایتی قیمت صرف ایک روپیہ جلدی منگوالیں۔

ملنے کا پتہ:۔ منیجر جاپان نادر سٹور (۱۱) مقام پٹھان کوٹ گورداسپور پنجاب

## مریضانِ سرعتِ انزال و شوقینِ مزاج اصحاب کیواسطے نادر تحفے

جو بوجہ اپنی خوبیوں و عمدگی کے گورنمنٹ آف انڈیا سے معہ مضمون اشتہار رجسٹرڈ ہیں!

## امساک کی گولیاں

یہ گولیاں امساک کیواسطے لاجواب اور بالکل بے ضرر ہونیکے علاوہ مریضان سرعت انزال کو شرمندگی سے بچانے کا عجیب و غریب نسخہ اور تسخیر قلب محبوب کا لاثانی وسیلہ ہیں یہ گولیاں کافی مدت سے گولیوں کے نام سے صرف ہندوستان بلکہ تقریباً تمام دنیا میں اس قدر مشہور و مقبول ہو چکی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہیں۔ وقت ضرورت یعنی خلوت سے ایک گھنٹہ پہلے صرف ایک گولی کھا کر آپ گھنٹوں لطف زندگی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ گولیاں اس قدر زبردست امساک پیدا کرتی ہیں کہ جب تک قدرے ترشی یعنی کھٹائی نہ کھائی جاوے۔ امساک برابر قائم رہتا ہے اور فراغت نہیں ہوتی۔ قیمت ۱۲ گولی دو روپیہ (عہ) ۲۵ گولیاں چار روپیہ (للعہ)

## طلاء ملذذ

شیشی خورد
شیشی کلاں

وقت ضرورت سے پہلے اس طلاء کی چند بوند مالش کرلینے سے طرفین کو اس قدر لطف حاصل ہوتا ہے کہ دونوں پر ایک پرکیف بیخودی کا عالم طاری ہو جاتا ہے امساک کی گولیوں کے ساتھ تو اس طلاء کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے قیمت شیشی خورد ایک روپیہ چار آنہ (عہ) قیمت شیشی کلاں صرف دو روپیہ (عہ)

فہرست ادویات اوشدھالیہ بالکل مفت۔

## کماری

کنواری عورتوں کیواسطے لاجواب تحفہ ہے اس دوا کا پہلی ہی مرتبہ کا استعمال بوڑھی سے بوڑھی عورت کی جسمانی حالت کو تبدیل کرکے یعنی کنواری لڑکی کی طرح کر دیتا ہے۔ شائقین کیلئے لاثانی تحفہ ہے قیمت پیکٹ خورد ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ) پیکٹ کلاں تین روپیہ (سے) محصولڈاک ہر چیز کا بذمہ خریدار ہوگا۔

منگانے کا پتہ:۔ منیجر شری شنکر آنند اوشدھالیہ (مشہور پرانی) پوسٹ بکس ۱۱۶ دہلی

POST BOX No. 116
DELHI.

## تین بے نظیر تحفے

عورتوں کے دو دو فٹ
لمبے بال کرنے والی

### زورا بیوٹی رجسٹرڈ

بال گرنے سے روکتی ہے سکری اور گنج کیلئے مفید ہے سخت بالوں کو ملائم اور چمکیلے کرتی ہے۔ خاصکر پنجاب کی عورتوں کیلئے ایک تحفہ ہے نہایت خوشبودار ہونیکے علاوہ بالوں کو ہمیشہ سیاہ رکھتی ہے۔ لگانے سے اگر دو دو فٹ لمبے بال نہ ہوں تو دام واپس۔ قیمت فی بوتل عہ علاوہ محصولڈاک

### طلسمی الائچی رجسٹرڈ

شوقین مزاج دوستوں کیلئے نہایت عجیب تحفہ ہے۔ وقت ضرورت سے ایک گھنٹہ پیشتر صرف دو الائچی پان میں کھائیں اور جوانی کا لطف اٹھائیں۔ ممسک بے خطا ہے۔

قیمت:۔ عہ فی پیکٹ علاوہ محصولڈاک ۶ر

---

صرف ایک ہفتہ میں کیس لگانے سے رنگت بگاڑ
کالے کرنیکا تیل لگا

## نیور گرے بال کالے کرنیکا تیل

NEVER GRET رجسٹرڈ

کمار صاحب کی نئی ایجاد

یوں تو بھولی بھالی پبلک کو دھوکہ دینے کیلئے کئی بال کالے کرنیکے تیل تیار ہوئے ہیں۔ کوئی چھ شیشیاں استعمال کرنیکو کہتا ہے اور کوئی چار پانچ۔ دوستو مفت میں روپیہ برباد نہ کرو۔ ہندوستانی جڑی بوٹیوں کا کچھ کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو تو کمار صاحب کے نیور گرے کی صرف ایک شیشی استعمال کرو۔ چار پانچ کی چنداں ضرورت نہیں۔ خوبی یہ ہے کہ نہ داغ دیگا نہ جلن پیدا کریگا۔ بیشک خضاب کی شیشیاں توڑ دو۔ جو بھائی آگے نقلی تیل استعمال کر چکے ہیں۔ وہ ضرور اس کی ایک شیشی استعمال کریں۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو دام واپس۔ قیمت دو روپیہ فی بوتل علاوہ محصولڈاک ۸ر۔ نصف شیشی ایک روپیہ محصولڈاک

نوٹ:۔ قیمت جلد بڑھا دیجائیگی۔ کتاب رہبر زندگی مفت منگائیں۔

پتہ:۔ جنرل منیجر ست اینڈ کو بازار وچھو والی۔ لاہور

---

## آپ ہر قسم کی کھانسی سے نجات حاصل کیجیے

**گنیشن کف بالسم** جو گورنمنٹ انڈیا سے رجسٹری ہو چکا ہے۔ آپ کی خدمت کیلئے موجود ہے۔ نئی اور پرانی کھانسی خشک بلغمی۔ نزلہ۔ زکام۔ دمہ کے لیئے نہایت مجرب دوائی ہے۔ ہر مذہب اور ملت کے آدمی اسے استعمال کرتے ہیں پچاس صدی سے پرچلت ہے۔ آج ہی ایک شیشی خرید فرما دیں۔ لیکن بہتر ہوگا۔ کہ محصول ڈاک کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک سے زیادہ شیشی کا آرڈر بھیجیں۔ قریباً ہر ایک دوائی فروش سے مل سکتی ہے آپ براہ راست آرڈر بھیجکر مندرجہ ذیل پتہ سے طلب کریں۔

قیمت فی شیشی دس آنے (۱۰ر)

علاوہ ازیں سب بیماریوں کی مجرب دوائیاں ہمارے ہاں مل سکتی ہیں اور ہر طرح کی خط وکتابت پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ یہ ادویات بالکل بے خطا اور بے ضرر ہیں۔ پانچ روپے کا آرڈر بھیجنے والے کو ایک شیشی کریم مفت بھیجی جاتی ہے۔ تین روپے کا آرڈر آنے پر منجن دندان کی ایک شیشی مفت ارسال کی جاتی ہے۔

**گنیشن ٹانک رجسٹرڈ** ایک بوتل بارہ اونس۔ قیمت تین روپیے دماغی کام کرنے والوں کیلئے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ طلباء وکیل و استاد صاحبان وغیرہ وغیرہ کیلئے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد جسقدر محنت کی جائے تھکاوٹ معلوم نہیں ہوتی۔ (۲) ذیابیطس (ذیابیطس) فی شیشی چار روپیہ۔ فہرست طلب کرنے پر مفت بھیجی جاتی ہے

ملنے کا پتہ:۔ گنیشن داس دوارکا ناتھ مینوفیکچرنگ کیمسٹس دروازہ موچی لاہور

---

مشہور عالم

## چنتا ہرن سدھ جنتر رجسٹرڈ

یہ سدھ جنتر ہر ایک مراد کو پورا کرنے والا ہے۔ پس اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو۔ نوکری نہ ملنا۔ روزگار میں نقصان ہو یا مال نہ ملنے۔ امتحان میں کامیابی ہونے۔ شادی کے نہ ہونے۔ معشوق کے نہ ملنے۔ مقدمہ جیتنے۔ گھوڑدوڑ لاٹری وسٹہ کے انک جان کر کامیاب ہونے۔ اولاد کے نہ ہونے یا ہو کر مر جانے یا کسی امید کے پورا نہ ہونے وغیرہ کی مشکلات سے دکھی ہیں تو ہمارا سدھ جنتر ایک روپیہ دس آنہ (۱؍) منگا کر اپنا منورتھ پورا کریں۔ اگر حسب تحریر ہمارے کامیاب نہ ہوں تو بجرنگ بلی کو شاہد کر کے کہتے ہیں۔ کہ دوگنے دام واپس کرینگے۔

ملنے کا پتہ:۔ پنڈت بچان پرشاد برہمچاری ماسٹر کل آچاریہ
ڈاکخانہ کملاپور ضلع سیتاپور (م)

# صرف دو۲ روپیہ تین آنہ میں سات گھڑیاں

## ایک عدد اصلی جرمن ٹائم پیس دو عدد ٹائمے پاکٹ واچ چار عدد ٹائمے رسٹ وانچ۔

یہ گھڑیاں ہم نے خاص طور پر ولایت سے بڑی بھاری تعداد میں منگوائی ہیں مضبوطی اور پائیداری کے لحاظ سے یہ گھڑیاں اپنی نظیر آپ ہیں۔ اپنی فرم کی سالگرہ کی خوشی میں ہم نے صرف دس ہزار گھڑیاں اس رعایتی قیمت پر فروخت کرنیکا فیصلہ کیا ہے مقررہ مقدار کے ختم ہو جانے پر یہی گھڑیاں اس رعایتی قیمت پر فروخت کی جائیں گی اس لئے جلدی کریں۔ ورنہ ایسے نادر موقعہ بار بار ہاتھ نہیں آیا کرتے۔ محصولڈاک و پیکنگ پندرہ۱۵ آنے الگ۔ ناپسند ہونے پر قیمت واپس

**ملنے کا پتہ:- منیجر جاپان ناولٹی سٹور (۷) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب**

### کالا تیل رجسٹرڈ

اس بال کالا تیل کے استعمال سے بال ہمیشہ کے لئے کالے ہو جاتے ہیں اور پھر تمام عمر سفید نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ بے نظیر سنیاسی تحفہ ہے۔ نقالوں کے دھوکے سے بچیں قیمت صرف ۲؍ علاوہ محصولڈاک تین شیشی تین روپیہ (۳) محصولڈاک معاف غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس۔

### بال عمر بھر نہ اُگنے کا جوہر

اس کے لگانے سے نرم سے نرم اور نازک سے نازک جگہ کے بال خود بخود جھڑ جاتے ہیں اور پھر کبھی پیدا نہیں ہوتے بلکہ جگہ ریشم کی طرح ملائم نرم اور چمکدار ہو جاتی ہے صرف دو تین دفعہ استعمال کرنے سے بال ہمیشہ کیلئے نیست و نابود ہو جاتے ہیں قیمت صرف ایک روپیہ

**ملنے کا پتہ:- منیجر جاپان ناولٹی سٹور (۷) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب**

### مہاراج اودھگڑ کی مشہور کتاب | اعجاز ہدی حصہ اول المعروف کلید سٹہ | کلید جفر

## انسان سب کی نظروں سے پوشیدہ وہ سب کو دیکھے اُسے کوئی نہ دیکھے

دنیا میں تین چیزیں عنقا سمجھی جاتی تھیں سٹہ کا نمبر کوئی نہیں بتلا سکتا تھا علم جفر کا مستحصلہ کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا عمل انسان نظروں سے پوشیدہ وہ سب کو دیکھے اسے کوئی نہ دیکھے کسی جگہ نہ ملتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو مہاراج سوامی پرمانند اودھگڑ نے [illegible] فقیر سادھو سنتوں کا [illegible] شہر بنارس سے حاصل کرکے اس کتاب میں بتلا دی ہیں۔ اس کتاب میں [illegible] ہم آہستہ ہوتے نمبر حل کرکے دکھلاتے ہیں، معمولی حساب سے جیسے ضرب تقسیم تفریق سے کچھ واسطہ نہیں صرف چند دن کا کام [illegible] اور خوبی یہ کہ نمبر ٹھیک ہی ایک دفعہ بھی نہیں چوکتا یعنی خالی نہیں جاتا۔ ہم حلفیہ اور بیان با خدا کو بہر کرکے لکھتے ہیں۔ اگر ہمارے لکھنے کے موافق سارا حساب دینے میں ایک دفعہ بھی چوک جائے یا خالی جائے۔ تو کتاب کی قیمت واپس اور کتاب مفت دی جائیگی۔ [illegible] اسی طرح سے اس کتاب میں جفر کا [illegible] بیان کر دیا گیا۔ مستحصلہ کی باریکیاں اور پیچیدگیاں ایسے بیان کی گئیں کہ ایک بچہ بھی سمجھ لے اور جفردان ہو جائے۔ اسی طرح سے عمل انسان نظروں سے پوشیدہ ہونے کا عمل [illegible] صرف تین یوم میں [illegible] دیوی کالی دیوی [illegible] کو سدھ کرنا۔ [illegible] وہ نکتہ بھی بتلا دیا جو پہلے عاملوں نے پوشیدہ رکھا تھا۔ قیمت کتاب سات روپیہ مگر پہلے نصف قیمت تین روپیہ آٹھ آنے لیجاوے گی۔ اگر کتاب سچی ہو تو نصف قیمت [illegible] اس کتاب کا حصہ دوم جام جفر کلید سٹہ قیمت [illegible] رسالہ [illegible] صرف [illegible] قیمت پیشگی آنے پر محصول معاف وی۔ پی منگانے والے آٹھ آنے کے ٹکٹ پہلے روانہ کریں ورنہ تعمیل نہیں [illegible]

| مذاق کا کورس | مثنوی طلسم حیرت | دُعا [illegible] | فیچر کا روزانہ نمبر | سٹہ لاٹری اور فیوچر نمبر |
|---|---|---|---|---|
| ہنسانے کی کل ہنسانے کا چمن۔ قیمت [illegible]۔ دیوان [illegible] دیوان [illegible] صاحب [illegible] ۸ر۔ [illegible] ۸ر | شہزادہ [illegible] کا افسانہ [illegible] مثنوی بزم [illegible] ناول پیر [illegible] سال [illegible] فہرست ایک آنے کا ٹکٹ آنے پر مفت۔ | [illegible] یوم [illegible] یوم میں مطلوب [illegible] تعویذ [illegible] | روزانہ فیچر پایا جاتا ہے۔ ایک آتا ہے۔ قیمت [illegible] رسالہ طبیب روحانی کے خریدار کو مفت نمبر کی قیمت نہیں لی جاتی ہے۔ | رسالہ طبیب روحانی ماہوار رسالہ ہے۔ ماہوار سٹہ کے نمبر نکلتے رہتے ہیں۔ جو صاحب سٹہ کے شوقین ہیں دو روپیہ سالانہ چندہ بھیج کر خریدار بن جاویں اور فائدہ اٹھاویں۔ رسالہ کے خریداروں کو [illegible] مفت دئے جاتے ہیں۔ [illegible] کی جاتی ہے |

**دفتر طبیب روحانی ماہوار رسالہ ڈاکخانہ نانوتہ ضلع سہارنپور**

ہمارے ہاں ہر قسم کی کتب مل سکتی ہیں فہرست [illegible] کا ٹکٹ بھیجکر مفت منگا دیں

# لڑکا ہی پیدا ہوگا

(دوائی اولاد نرینہ)

تین ماہ کا حمل مکمل ہونے کے بعد بچے کے الگ الگ اعضاء بننے لگتے ہیں۔ پس حمل کے تین ماہ کے اندر اندر ہماری سورج گن والی بہت مشہور ومقبول دوائی پترنشاوک حاملہ کو استعمال کرائیں تو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ زیادہ تعریف کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ آپ کو فائدے سے مطلب ہے۔ باتوں سے نہیں۔

قیمت صرف پانچ روپیہ۔ ڈاک خرچ ۵؍

**پتہ۔ کویراج ہرنام داس بی۔ اے۔ لوہاری دروازہ لاہور**

---

# پروفیسر کی غلط فہمی!

جب اشتہار پڑھتا ایک گدگدی سی ہوتی کہ منگاؤں پھر کہتا شاید کوئی بازاری کوک شاستر ہوگا۔ کبھی کہتا مجھے اس کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مگر اس دن ایک دوست کی تعریف سن کر منگا ہی لی کویراج صاحب! اصدق دل سے تحریر کرتا ہوں کہ

## ہدایت نامہ خاوند

بلا مبالغہ بہترین کتاب ہے جو میرے مطالعہ میں آئی۔ ہر پڑھا لکھا اس سے بیحد فائدہ حاصل کریگا۔ محمد اقبال ایم۔ اے۔ تاج محل ہوٹل بمبئی

**ملنے کا پتہ۔ کویراج ہرنام داس بی۔ اے۔ لاہور**

قیمت سستا ایڈیشن ۸؍ سب کتب فروش بیچتے ہیں

---

# کھوئی ہوئی جوانی دوبارہ جسم میں پیدا ہوسکتی ہے

## بشرطیکہ طاقت کی اکسیر اعظم شہنشاہی گولیاں استعمال کریں

یہ گولیاں نامردی کا واحد اور مکمل علاج ہیں۔ جلق لگانے والوں اور کثرت مباشرت کرنے والوں کیلئے اکسیر اعظم ہیں۔ اعضاء کی کمزوری جریان، احتلام اور سرعت انزال کو دور کرنے میں لاثانی ہیں۔ منی کو بکثرت پیدا کر کے شہد کی طرح گاڑھا بناتی ہیں۔ منی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ قوت باہ بیحد بڑھ جاتی ہے نیا خون پیدا ہوکر جسم لوہے کی لاٹھ بن جاتا ہے اگر تندرست آدمی بھی ان کا استعمال کریں تو بڑھاپا اور کمزوری نزدیک نہیں آنے پاتا ایک شیشی چالیس ٹکیہ جو کہ خوبصورت اور مشین سے تیار شدہ ہیں کی قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

**برقی طلاء** برقی طلاء ان لوگوں کے لئے جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے ہاتھوں اپنا آپ تباہ کر چکے ہیں اور تمام رگ پٹھے سست اور ناکارہ ہوکر اعضا میں کجی اور لاغری کی شکایت پیدا ہو گئی ہے اکسیر اعظم ہے۔ برقی طلاء کو تین روز مالش کرنے سے سست اور ناکارہ رگوں اور پٹھوں کی کمزوری رفع ہوکر پہلے سے بھی زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تندرست اور مضبوط پٹھے آدمی بھی اسکو استعمال کریں تو بڑھاپا اور کمزوری نزدیک نہیں آئیگا اور طاقت مردی برقرار رہیگی۔ برقی طلاء کے استعمال سے کسی قسم کی جلن نہیں ہوتی اور نہ آبلہ پڑتا ہے۔ طاقت کی گولیوں کے ہمراہ برقی طلاء کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ (عہ)

نوٹ۔ مندرجہ بالا ادویات کے متعلق کسی قسم کی [illegible] نہیں کر سکتے۔

**ملنے کا پتہ۔ مہندرا میڈیکل ہال ع ۱۲ پی بی ۱۴۸ - لاہور**

---

# خفیہ نیا کوک شاستر مفت

ولائتی اصلی پچاس فوٹو کی تصویروں کا مکمل سٹ (گلزار حسن) عاشقانہ حسن وجمال کے صاف صاف.... پوشیدہ نظارے مرد وعورت کے جوڑ دار فوٹو بلاک کی رنگین تصویریں جنکو دیکھ کر آپ تمام بازاری کوک شاستر اور چوراسی آسن کی بنی ہوئی بھدی لکیر دار واہیات تصویروں کو ایکدم بھول جائیں گے۔ یہی وہ فوٹو کی اصلی جوڑ دار تصویریں ہیں جنکی آپکو مدت سے تلاش تھی۔ رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر دیکھنے والی اصلی پچاس فوٹو کی تصویروں کا مکمل سٹ (گلزار حسن) شوقین مزاج اصحاب کے لئے نایاب تحفہ قیمت مکمل سٹ صرف ۱۲ (بارہ آنے) محصول ڈاک ۶؍ چھ آنے۔ ساتھ میں اصلی خفیہ کوک شاستر اور نئے سال کی جنتری بالکل مفت دی جاتی ہے۔ فوراً طلب فرمائیے۔ اسی پتہ سے۔ ملنے کا پتہ

**ایم ایچ نیو انڈین پکچر اسٹور چوک لکھنؤ۔**

زمانہ حال کی مجملہ طبی کتابوں سے اعلیٰ و ارفع بے نظیر و لاجواب مجربات کی بہترین کتاب

# لب المجربات

مصنفہ

عالیجناب شفاء الملک بہادر حکیم محمد حسن خاں صاحب قرشی صدر آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس و مہتمم بھوپندر اطبیہ کالج پٹیالہ

اسکا ہر ایک نسخہ ہزار ہزار روپیہ میں بھی سستا ہے

کو ہر [illegible]

اس کتاب میں سر سے پاؤں تک کی جملہ امراض کا عام فہم زبان میں مفصل بیان اور علاج تحریر کیا گیا ہے۔ علامات مرض کو ایسے مختصر پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ کہ معمولی اردو خوان بھی ہر ایک مرض کی بخوبی تشخیص کرکے علاج معالجہ کر سکتا ہے۔ پردہ دار عورتوں اور پوشیدہ امراض کے بیماروں کے لئے یہ کتاب نعمت عظمیٰ ہے اس میں ہر ایک نسخہ سو فی صدی مجرب ہونے کے علاوہ سہل الحصول۔ سہل الترکیب اور کثیر النفعت لکھا گیا ہے۔ عام امراض کے علاوہ نامردی۔ جریان۔ احتلام۔ سوزاک۔ آتشک۔ بانجھ پن۔ سیلان الرطوبت۔ ورم رحم۔ استحاضہ۔ قلت حیض۔ استسقاء۔ درد گردہ۔ ضیق۔ سہال۔ سنگرہنی۔ برص۔ جذام۔ وجع المفاصل۔ کھانسی۔ دمہ۔ بواسیر۔ ذیابیطس۔ سلسل البول۔ قولنج۔ تپ دق۔ سل۔ چیچک۔ خسرہ۔ مرگی۔ سرسام۔ نسیان۔ خوبصورتی اور خضاب۔ وغیرہ کے ایسے ایسے بے نظیر و لاجواب نسخے لکھے گئے ہیں۔ کہ جن کا ہزار ہزار روپیہ میں بھی ملنا دشوار ہے۔ عالیجناب شفاء الملک بہادر نے اس کتاب کی تصنیف سے ملک پر احسان عظیم فرمایا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس نے ہزاروں انسانوں کو تباہی و بربادی سے بچایا ہے۔ یہ کتاب پہلے شائع ہوتے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی تھی۔ اب دوسری دفعہ بہترین کاغذ پر نہایت خوشخط اور جلی حروف میں شائع کرائی گئی ہے۔ نسخوں کی آزمائش کرنے والے حضرات کی تصادیق بھی ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ چونکہ یہ کتاب بہترین ہونے کے علاوہ ایک ایسی ذمہ دار اور نامور ہستی کی تصنیف ہے۔ جسے شہرت عامہ اور تجربہ کے لحاظ سے طبیب اعظم ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اس لئے اس کتاب کی اشاعت نہایت سرعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جو حکیم۔ وید۔ ڈاکٹر بہترین مجربات کے شائق ہوں۔ یا جن حضرات کو اپنے امراض کا خود تسلی بخش اور بے خطر علاج کرنا مقصود ہو۔ یا جو اپنی شہرت۔ عزت اور نیک نامی کو چار چاند لگانا چاہتے ہوں۔ انہیں یہ کتاب ضرور بالضرور اپنے زیر مطالعہ رکھنی چاہئے۔ یہ کتاب ۲۲ ابواب اور ۱۰۵ فصلوں پر منقسم ہے۔ نسخوں کی تعداد ۵۱۲ اور حجم ۲۳۰ صفحات ہے۔ باوجود اس قدر خوبیوں کے اسکی رعایتی قیمت عہ اور خوبصورت مجلد کی قیمت تین روپیہ مع محصولڈاک ہوگی۔ اس پر بھی پسند نہ آنے پر واپسی کی شرط ہے۔

* * *

## بے نظیر دوائیں

**افیون چھڑانے کی لاجواب گولیاں** ان گولیوں کے چند روزہ استعمال سے پرانی سے پرانی افیون بھی بلا دقت و قباحت چھوٹ جاتی ہے لطف یہ ہے کہ طبیعت میں کسی قسم کی سستی و کاہلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہزارہا دفعہ کی آزمودہ و مجرب ہیں۔ ایک ماشہ روزانہ افیون کے لئے ایک روپیہ کی ڈیڑھ سو گولیاں کافی ہیں۔ تین سو گولیوں کی قیمت ایک روپیہ چودہ آنہ۔ محصولڈاک تین روپیہ تک ۵ آنہ

**اکسیر جنون** (مرگی جنون اور اختناق الرحم کی بے خطا دوا) جو لوگ ان امراض کا علاج کرتے کراتے مایوس ہو چکے ہوں۔ وہ اکسیر جنون کو ضرور آزمائیں یہ بے مثل دوا ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مایوس مریض صحت حاصل کر چکے ہیں۔ پہلی خوراک ہی اپنا اثر دکھاتی ہے اور چند روز کے استعمال سے مقصد کی شفا ہو جاتی ہے۔ قیمت فی شیشی تیس خوراک صرف پانچ روپے (عہ)

**مقوی گولیاں** ان گولیوں کا جزو اعظم کشتہ طلا ہے اور دوسرے اجزاء ایسے شامل کئے گئے ہیں۔ جو اعلیٰ درجہ کے مقوی باہی ہونے کے علاوہ منی کو پورے طور پر پکاتے ہیں۔ جن سے مردہ جوش میں ایک خاص طراوت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ سوئی ہوئی طاقتیں جگا دینا اور مردہ انسان کو مرد کامل بنانا ان گولیوں کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ تندرست انسان بھی انہیں استعمال کر سکتے ہیں گئے گذرے انسان کو ۸ درجن اور تندرست انسان کو دو درجن گولیاں کافی ہیں۔ قیمت فی درجن (عہ)

**بچوں کے تپدق کیلئے** اکسیر ہے ڈبلا بچہ باقاعدہ نشوونما حاصل کرکے تندرست ہو جاتا یا مریض کو بڑی بے قاعدگی کے ساتھ بخار کا ہر وقت رہنا اس دوا کے استعمال سے بالکل درست ہو جاتا ہے۔ گذشتہ ہونے آتشک اور ناسور کے بیمار بھی اس اکسیر سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ہڈی کی تپدق اور دل کی بے قاعدگی کے لئے یہ دوا بے نظیر ہے۔ قیمت فی شیشی تین روپے۔ خوراک ایک رتی سے دو رتی تک ہمراہ بالائی یا مکھن دودھ سے کھانی چاہئے۔

**ہر شخص** حالات مرض لکھ کر مفت مشورہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر جواب کیلئے کارڈ آنا ضروری ہے۔ فہرست کتب و ادویات مع جنتری [illegible] کا کارڈ آنے پر مفت ارسال کی جاتی ہے۔

خط و کتابت کا پتہ:۔ **جنرل مینیجر شاہی مطب** (رجسٹرڈ) **ریاست پٹیالہ (پنجاب)**

بھوپندر اطبیہ کالج پٹیالہ کے پراسپکٹس درخواست آنے پر مفت بھیجے جاتے ہیں۔ داخلہ جون میں ہوتا ہے

اپریس کی دل

ضرور تعویذ ہی منگائیں

# جو چاہو گے ہو جائیگا!

عمل محبت کے شوقین ہمارا جنتر گوہر مراد منگوائیں۔ اسکو اپنے پاس رکھکر اپنے دل میں جس کسی کا نام لینگے۔ خواہ وہ کیسا ہی سخت دل، مغرور اور سخت کلام کیوں نہو۔ جہاں کہیں بھی ہوگا۔ آپ سے ملنے کیلئے تڑپنے لگیگا۔ اور جب بھی آپ اسکے سامنے جائینگے۔ وہ آپسے محبت کا اظہار کریگا۔ اور ہر طرح آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش کریگا۔ نیز گمشدہ کی تلاش کرنا۔ کسی کے دل کا بھید دریافت کرنا۔ کسی چور کا پتہ لگانا۔ مردوں سے بات چیت کرنا۔ غرضیکہ آپکے ہر سوال کا جواب مکمل خواب میں مل جائیگا۔ اور اگر آپکے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے۔ جو باوجود ہزار کوششوں کے بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بھی ہمارے جنتر کے پاس رکھنے سے گھنٹی تک کے وقت میں پوری ہو جائیگی۔ ہدیہ صرف ۱۵ آنے۔ محصولڈاک علیحدہ۔ غلط ثابت کرنے والے کو ۵۰ روپیہ انعام ❖

چوراسی رنگین تصویر والا

## خفیہ اصلی کوک شاستر (رجسٹرڈ)

عورت مرد کی چوراسی آسن کی جوڑ دار۔۔۔ پوشیدہ رنگین تصویریں اور چوراسی آسن کے تمام اصلی حالات درج ہیں۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ سے نہ ملیگا۔ ناپسند ہونے پر واپسی کی شرط۔ حجم ۸۰ صفحات۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ بارہ آنے ۱۲/ علاوہ محصول معاف۔ کم قیمت والے کوک شاستر منگاکر دھوکا نہ کھائیں صرف ہمارا ہی رجسٹری شدہ منگوائیں۔

## بال عمر بھر نہ اگیں گے (رجسٹرڈ)

یہ دوائی بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے۔ صرف ایک دو مرتبہ لگانے سے بال ہمیشہ کے لئے اگنے بند ہو جاتے ہیں۔ جگہ ریشم کی مانند ملائم اور صاف نکل آتی ہے۔ بے ضرر اور پاک ہے۔ غلط ثابت ہو تو دام واپس۔ قیمت فی شیشی عہ محصول علیحدہ

## تحفہ خوبصورتی (رجسٹرڈ)

اگر آپ اپنے چہرے کا رنگ سانولے سے گورا تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یا اپنے مرجھائے ہوئے چہرے سے کیل، چھائیاں وغیرہ دور کرکے خوبصورتی کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمارا سائنس کے اصولوں سے تیار کردہ لنڈن خوبصورتی لوشن استعمال کریں۔ آپکے چہرے کا رنگ معجزانہ طور پر گورا ہو جائیگا۔ قیمت فی شیشی عہ ایک روپیہ چار آنے۔ محصولڈاک معاف ہوگا۔

ملنے کا پتہ: منیجر امپیریل ٹریڈنگ ایجنسی۔ کراچی۔ سندھ

---

## کیمیا مُفت

یہ ہر دلعزیز کیمیا مفت۔ ویدراج سرداری لال وید آف کب ۲۰ ہزار اردو ہندی اور گورمکھی چھپکر مفت تقسیم ہو چکی ہے۔ روزانہ پاٹھک کے پریمی صرف تین پیسہ کا ٹکٹ برائے خرچ ڈاک بھیجکر مفت منگالیں۔ اس لاثانی تحفہ سے کسی پریمی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیئے۔ دیگر اس کے علاوہ ہم نے جسم کو تندرست و توانا بنانے کیلئے گولیاں فولاد تیار کی ہیں۔ جو طاقت توانائی کیلئے بے بہا تحفہ ہیں۔ اور بدن میں خوشگوار حرارت پیدا کرتی ہیں۔ اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ چند روز کے استعمال سے ہی جسمانی کمزوری۔ کمی خون۔ دل کی دھڑکن۔ ضعف بصارت۔ [illegible] نزلہ۔ پیروں کا تپلا پن۔ [illegible] احتلام۔ کمزوری گردہ و مثانہ۔ کثرت پیشاب۔ سستی۔ نا طاقتی۔ تھوڑی سی محنت سے سانس کا پھول جانا۔ اٹھتے بیٹھتے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا۔ غرضیکہ ہر ایک مرض کو دور کرکے جسم کو تندرست توانا بنا دیتی ہیں۔ خون بڑھانے اور صحت کو قائم رکھنے کیلئے اس کا سال میں ایک ماہ تک استعمال ہر صاحب کو کرنا چاہیئے۔ قیمت فی شیشی ۴۰ گولیاں ایک روپیہ آٹھ آنے۔

— چار شیشی منگانے پر محصول ڈاک معاف —

ملنے کا پتہ:

کویراج سرداری لال وید یسی امرت فارمیسی ڈسکہ ضلع سیالکوٹ

برانچ: ناتھو نواس بیرون بھاٹی گیٹ لاہور

---

## سرمہ گل بکاؤلی (رجسٹرڈ)

آنکھوں کی تمام امراض کے واسطے لاثانی ثابت ہو چکا ہے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ۔ علاوہ محصول ڈاک۔

## موہنی پارس (رجسٹرڈ)

احتلام۔ جریان۔ سستی۔ نامردی۔ کی مشہور دوا ہے۔ اس کی پہلی خوراک اگر اپنا اثر نہ دکھائے تو دام واپس۔ ۱۱ دن کے کھانے سے کیسا ہی کمزور آدمی کیوں نہ ہو پھر جوانی حاصل کرتا ہے۔ پوری خوراک کی قیمت پانچ روپے۔ نمونہ ۸ علاوہ محصول ڈاک

شاہی طبیب ڈاکٹر جینتی صاحب گوڑ ڈینٹسٹ کچہری روڈ لاہور

سے طلب کریں

---

## بھرگو سنگھتا

جوگ ساگر بھاگ کھنڈ معہ ترجمہ

سمبت ۱۹۲۰ سے ۲۰۰۰ تک کے دنیا بھر کے آدمیوں کے زائچہ کا گذشتہ موجودہ و آئندہ زندگی کا حال معلوم ہوگا۔ چار ماہ کے واسطے رعایتی قیمت ۱۰ روپیہ۔ ڈاک خرچ ۸ آنہ بعد کو سو روپیہ کو بھی نہ ملیگی۔

### بھرگو سنگھتا کنڈلی کھنڈ

معہ ترجمہ و مثال کے سمبت ۱۹۲۰ سے ۲۰۰۰ تک کے دنیا بھر کے آدمیوں کا زائچہ ان سے بنتا۔ قیمت ۲ روپیہ ڈاک خرچ آٹھ آنہ

[illegible] نمبر ۲۵

شاہی حکیم محمد علی صاحب مرحوم، معالج خاندان شاہی ریاست جموں و کشمیر

کا ایجاد کردہ اور ۷۵ سال کا آزمودہ

# روح جیون بوٹی

ایک مشہور عالم دوا ہے۔ ایک شیشی کے استعمال سے ایک مہینہ میں تین سیر صالح خون بدن انسان میں پیدا ہو جاتا ہے دودھ گھی جس قدر کھاؤ۔ ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ بچپن کی غلط کاریوں۔ جوانی کی بے اعتدالیوں اور کثرت عیاشی کی وجہ سے ضائع شدہ طاقت کو واپس لا کر بڑھاپے میں جوانی کے منظر دکھا دیتا ہے۔ خاص کر بوڑھوں اور ان نوجوانوں کے لئے جو چھوٹی عمر میں شادی ہونے کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصہ میں حظوظ نفسانیہ سے جواب لے بیٹھے ہوں تیر بہدف ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جس کے استعمال سے لاکھوں کے گھر اولادیں اور نامردوں کی مرادیں حاصل ہو گئیں۔ چہرہ کی زردی۔ بے رونقی اور تمام جسم کے رگوں پٹھوں کی کمزوری رفع کر کے انسان کو طاقتور جوان بنا دیتا ہے۔ چانڈو۔ شراب۔ افیون وغیرہ منشیات کی عادات چھوٹ جاتی ہیں۔ خون کو صاف کر کے بدن کو چست و چالاک بنا دینا اس کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ تمام معجونوں۔ ماء اللحموں۔ مقوی یاقوتیوں کا نچوڑ اور فاسفورس کے مرکبات سے بدرجہا بہتر ثابت ہوا ہے۔ قیمت اصل فی شیشی ۴ روپیہ۔ رعایتی ایک روپیہ

**طلاء اشتہا** جن کے رگ و پٹھے سوائے مادرزاد نامردی کے سست اور کمزور پڑ گئے ہوں۔ ان کو روح جیون بوٹی کے ہمراہ اس طلاء کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیگا۔ قیمت اصل فی شیشی ۵ روپیہ۔ رعایتی ایک روپیہ علاوہ

**دفتر روح جیون بوٹی نمبر ۲۰ وارث روڈ۔ لاہور**

اپنا پتہ صاف اور خوشخط لکھیں۔ جنتری کا حوالہ ضرور دیں۔ جرمن ناولٹی سٹور۔ کراچی

---

دوستو!

# سات گھڑیاں بالکل مفت!

ایک عدد اصلی جرمن ٹائم پیس، چار عدد ڈمی رسٹ واچ، دو عدد ڈمی پاکٹ واچ۔ یہ گھڑیاں ہم نے بڑی بھاری تعداد میں منگوائی۔ اپنی فرم کی سالگرہ کی خوشی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہ جو شخص ہم سے طاقت مردمی کا طلسماتی جوہری بکس پرامٹ جس سے گئی ہوئی طاقت پھر واپس آسکتی ہے خرید کریگا ہم اسکو یہ سات عدد گھڑیاں مفت بکس کیساتھ ارسال کرینگے۔ اگر پسند نہ ہو۔ تو واپسی کی شرط ہے۔ اسطرح کوئی صاحب فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اسکی قسمت قیمت پورا سیٹ صرف تین روپے آٹھ آنے۔ محصولڈاک پیکنگ وغیرہ علیحدہ ہوگا۔ اسلئے جلدی کیجئے۔ ورنہ یہ موقع بار بار ہاتھ نہ آئیگا۔ فوراً وی۔ پی طلب کریں۔

## جرمنی طلسمی آلہ

اگر بالکل کمزور آدمی صحت و تندرستی میں طاقتور ہونا چاہتا ہے۔ اور طاقت مردمی کا تماشہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بوقت ضرورت یہ آلہ استعمال کریں۔ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا۔ قیمت رعایتی فی آلہ دو روپے۔ غلط ثابت ہو تو دام واپس۔ محصولڈاک معاف

## بجلی کی عینک

جرمن سائنس کی نئی ایجاد۔ نہ لیمپ کی ضرورت نہ کسی لالٹین کی ضرورت۔ رات کو بوقت ضرورت آنکھوں پر عینک لگا کر جو کام کرنا چاہیں شروع کریں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہر ایک انسان اسکو استعمال کر سکتا ہے۔ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا۔ غلط ثابت ہو۔ تو دام واپس۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ نہ ملیگی۔ قیمت دو روپے۔

## کالا تیل رجسٹرڈ

اس بال کالا تیل سے بال ہمیشہ کیلئے کالے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تمام عمر سیاہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بینظیر [illegible] تحفہ ہے نقالوں کے دھوکے سے بچو۔ غلط ثابت ہو۔ تو دام واپس۔ قیمت ایک روپیہ۔ محصولڈاک علاوہ ہوگا۔ وی۔ پی طلب کریں۔

ملنے کا پتہ:- مینیجر دی جرمن ناولٹی سٹور کراچی

# تندرستی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں

ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں۔ کہ مندرجہ ذیل ادویات ویدک و یونانی گرنتھوں کے اسرار نہایت محنت و کوشش سے خالص اور تازہ جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ہیں۔ اور ہزاروں مریضوں پر استعمال ہو کر مجرب ثابت ہو چکی ہیں۔ جو لوگ سب طرف سے مایوس ہو چکے ہوں۔ وہ ایک دفعہ ہماری ادویات منگوا کر ضرور استعمال کریں۔ ایک دفعہ کا معاملہ آپ کو ہمارا مستقل گاہک بنا دیگا۔ مفصل فہرست جس میں عام امراض کی ادویات درج ہیں۔ مفت منگوا کر ملاحظہ کریں

**مقوی باہ گولیاں** } انکے استعمال سے مردانہ قوت لوٹ آتی ہے۔ تمام قوائے جسمانی اور اعضائے رئیسہ کو از حد طاقت پہنچتی ہے۔ کمزور اور گیا گذرا انسان بھی نوجوان پہلوان ہو جاتا ہے۔ سستی۔ کمزوری کاہلی۔ تھکاوٹ۔ جریان۔ احتلام۔ دل دھڑکنا وغیرہ وغیرہ جملہ امراض اس کے استعمال سے حکمی طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ قیمت (۴۰ گولی) دو روپیہ

**ممسک گولیاں** } نام سے ہی ظاہر ہے تعریف کرنا خلاف تہذیب ہے۔ منگوا کر تجربہ کریں۔ قیمت (۱۲ گولی) صرف ایک روپیہ (عہ/)

**سفوف نوجوانی** } جن لوگوں کے ویرج میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو گیا ہو۔ دھات پانی کی طرح پتلی ہو کر بہتی ہو۔ ہر وقت مثانہ میں سستی اور کمزوری ہو گئی ہو۔ اور دنیاوی لطف سے محروم ہو گئے ہوں۔ وہ ہمارے اس سفوف کا استعمال کریں۔ جملہ قسم کے جریان وغیرہ کو رفع کرنے میں اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ قیمت دو روپیہ

**طلسمی طلا** } جن لوگوں نے بچپن کی غلط کاریوں میں پھنس کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ اور زندہ درگور ہو گئے ہوں۔ ہمارے اس طلسمی طلا کو استعمال کریں۔ اس کی چند روزہ مالش سے مردے میں جان پڑ جاتی ہے تمام گئی گذری طاقتیں ازسر نو بحال ہو کر پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ قیمت فی شیشی عہ

**سوزاک و قرحہ** } اس جادو اثر دوائی سے دس دس بیس بیس برس کا پرانا سوزاک قرحہ جاتا رہتا ہے جلن درد۔ پیپ آنا چند روز میں بند ہو جاتا ہے نہایت مجرب ہے۔ قیمت صرف عہ/

## داڑھی مونچھ بڑھانے والا تیل

بغیر داڑھی اور مونچھ کے بھی آدمی کا چہرہ کیسا بے رونق اور بلا رعب والا معلوم ہوتا ہے چہرہ کی خوبصورتی ہر جگہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارا تیل داڑھی اور مونچھ کو بڑھا کر خوشنما بنا دیتا ہے۔ جن کو مونچھیں بڑھانے کا شوق ہو یا کسی کے بال نہ اگتے ہوں۔ تو اس تیل کے لگانے سے جگہ کے بال اگ آتے ہیں۔ قیمت فی شیشی بارہ آنے (۱۲/)

## کل دیپک
یعنی
## گھر کا چراغ

جس گھر میں اولاد نہ ہو وہ گھرانہ بے چراغ ہوتا ہے اولاد ہی دنیا میں ایک ایسی بے بہا نعمت ہے جس کے ملنے کے لئے ہزاروں لوگ منتیں مانتے۔ ناک مت رگڑتے اور جنگلوں بیابانوں میں سادھو مہاتماؤں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ پس ہم ایسے لوگوں کو جو اس نعمت بے بہا سے محروم ہیں۔ خوشخبری دیتے ہیں۔ کہ اگر وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوں تو ہماری دوائی گھر کا چراغ منگوا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے تمام مانع حمل بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مرض اٹھرا۔ اسقاط حمل۔ بانجھ پن کو شرطیہ دور کرتی ہے۔ جس کے گھر میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں۔ اس کے استعمال سے اس کے گھر میں ایشور کی کرپا سے لڑکے پیدا ہونگے۔ یہ دوائی بے اولادوں کو صاحب اولاد بنانے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ قیمت صرف پانچ روپیہ صہ

## کافی بلا افیون

ہماری ان گولیوں کے چند روزہ استعمال سے تولہ تولہ روزانہ افیون بھی بلا دقت و قباحت چھوٹ جاتی ہے۔ لطف یہ کہ طبیعت میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہزارہا دفعہ کی آزمودہ مجرب ہیں۔ ایک ماشہ روزانہ افیون کے لئے ڈیڑھ سو گولیاں کافی ہیں۔

قیمت (۱۵۰ گولی) دو روپیہ (عہ/)

**روغن الفت** } یہ دوا بطور طلا عورت استعمال کی جاتی ہے اس قدر لذت بخش ہے۔ کہ اس کی کیفیت صرف میاں بیوی ہی جان سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جہاں استعمال کیا۔ مرد و عورت ایک دوسرے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لذت۔ وہ لطف اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کہ جادو ٹونے منتر وغیرہ سب ہیچ ہو جاتے ہیں۔ قیمت فی نصف شیشی عہ

**روغن نوجوانی** } عورتوں کی چھاتیوں کا زیادہ بڑھ جانا بھی اُن کے لئے وبال جان ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ روغن مالش کرنے سے ڈھلکتی چھاتی اصلی حالت پر آجاتی ہے اور سخت کرتا ہے۔ قیمت فی شیشی عہ

**سفوف شباب** } اس جادو کے سفوف کی ایک چٹکی وقت ضرورت سے چند منٹ پیشتر استعمال کرنے سے پچاس سالہ بڑھیا عورت کو پندرہ سالہ نوجوان بنا دینے کا اثر رکھتی ہے۔ شوقینوں کے لئے نایاب تحفہ نہایت مجرب ہے۔ قیمت دو روپیہ چند دفعہ کے لئے کافی ہے (عہ/)

**خوبصورت چہرہ** } اس دوائی کے چند روز تک چہرہ پر مل کرنا سے چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور حسن دلفریب پیدا ہوتا ہے۔ چہرے کے داغ کیل۔ چھائیاں دور ہو کر سہانی صورت پیدا ہوتی ہے قیمت صرف بارہ آنے ـــ (۱۲/)

**محافظ دندان** } اس منجن کے استعمال سے دانت موتیوں کی لڑی کی طرح سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ منہ کی بدبو دور ہو کر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ دانتوں کی تمام امراض۔ ماسخورہ۔ دانت درد۔ مسوڑے کا سوجنا درد دانت اور کیڑا لگ جانے کو دور کرتا ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے (۸/)

**سیلان الرحم** } یہ بڑی نامراد مرض ہے۔ عورتوں کے جسم سے ہر وقت سفید لیسدار پانی خارج ہوتا رہتا ہے۔ جس سے وہ دن بدن کمزور ہو کر آخر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اولاد سے محروم رہتی ہیں۔ ہماری یہ دوائی اس مرض کے دفعیہ میں اکسیر سے بڑھ کر ثابت ہوئی ہے۔ قیمت صرف دو روپے عہ/

## عمر بھر بال پیدا نہ ہوں

ہماری اس دوائی کو نازک سے نازک جگہ پر چند مرتبہ ملنے سے بال ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتے ہیں کسی طرح کا داغ دھبہ نہ پڑیگا۔ جگہ ریشم کی طرح صاف و ملائم رہیگی۔ نایاب تحفہ ہے۔ جو ہمیشہ کے لئے مصیبت سے نجات دیگا۔ قیمت دو روپیہ (عہ/)

ملنے کا:- ویدراج پنڈت رگھناتھ داس ۱۲۵ سی ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

بیانگ وخصوصاً لڑاک سب کا [illegible]

# علمی مذاق کی بے نظیر کتابیں

ان کتابوں کے بغیر آپ کا کتب خانہ غیر مکمل ہے۔ ان کو پڑھ کر تمام علوم و فنون میں ماہر ہو جاؤ۔ استاد کامل بنکر ہزاروں روپیہ اور نام پیدا کرو

**جوہر حکمت** یہ ایک کتاب پچاس کتابوں کا کام دیگی۔ ڈاکٹری۔ ویدک یونانی۔ ہومیوپیتھی۔ کروموپیتھی۔ وغیرہ تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اس کو پڑھ کر پھر کسی دوسری کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہ رہیگی۔ اس میں تمام بیماریوں کے نام مع تشخیص ہر ایک زبان میں ادویات کے نام مع تاثیر و شناخت ہر زبان میں جسم انسانی کے تمام رگوں پٹھوں کے نام اور ان کی تشریح ہر زبان میں تمام امراض کا علاج ڈاکٹری ویدک۔ یونانی وغیرہ طریقوں سے۔ حفظ صحت کے اصول۔ کھانے کی چیزوں کے متعلق علمی ہدایات ہر قسم کے کشتہ جات۔ جوہر۔ ایسنس۔ تیل بنانے کے طریقے۔ حکمائے قدیم کے مجرب نسخہ جات۔ امریکہ۔ جرمنی کی نئی تحقیقات انگریزی ادویات اور آلات کا مفصل بیان اس میں درج ہے۔ خوبصورت کپڑے کی جلد بندھی ہوئی ہے قیمت فی جلد تین روپیہ ( ۳ ر)

**زچہ بچہ** عورتوں کی تمام اندرونی مخصوص بیماریوں کی تشریح اور ان کا علاج بقاعدہ یونانی۔ ویدک مع مجرب نسخے دائیوں اور لیڈی ڈاکٹروں کے عملی تجربات حمل کی خرابیوں کا علاج۔ بانجھ پن کا دور کرنا۔ زچہ اور بچہ کی حالتیں۔ ایام حمل کا دستور العمل بچوں کی پرورش کے ہندوستانی و انگریزی اصول۔ بچوں کی بیماریوں کے علاج وغیرہ وغیرہ درج ہیں قیمت فی جلد ڈیڑھ روپیہ (عہ)

**خوبصورتی** بدصورت چہرہ کو دلفریب بنانا۔ کالے منہ کو گورا کرنا۔ جسم کو سڈول بنانا۔ دانت بال۔ خوشنما رکھنے کے نسخے۔ لباس کی وضع۔ قطع۔ ہر قسم کے ناز و انداز اور حسن پیدا کرنے کے طریقے۔ چہرہ سے ہر قسم کے داغ دھبے مہاسے چھائیاں دور کرنا۔ غرضیکہ ایسے ایسے ہزاروں مضامین اس میں درج ہیں۔ قیمت سوا روپیہ (صہ ر)

**علاج مشفق** ہر قسم کی بیماریوں کے لئے ایسی ادویات جن میں ایک کوڑی خرچ نہ ہو۔ ہر مرض کا علاج۔ صرف درختوں کے چھال پتوں اور جنگلی بوٹیوں سے جو ہر جگہ مل جاویں۔ فقیروں اور دیہاتی حکیموں کے سینہ بسینہ نسخے درج کئے ہیں۔ قیمت عہ

## سکسوئیل سائنس

یعنی

عورت اور مرد کے باہمی تعلقات کی نسبت زمانہ حال و قدیم کی تحقیقات کا نچوڑ

## اصلی کوک شاستر

علم النساء۔ کام سوتر کیمیائے عشرت مجربات بوعلی سینا وغیرہ نایاب کتابوں کا مجموعہ۔ اس نام کی کتابیں تو آجکل بہت سی بک رہی ہیں لیکن ہماری اس کتاب کو ان سے مقابلہ نہیں۔ ہماری کتاب بالکل نئی ہے۔ اس میں وہ وہ باتیں درج ہیں جن کی آجکل کے نوجوانوں کو تلاش ہے۔ مثلاً قوت طاقت اور نوجوان بنے رہنا۔ عورت کو تمام عمر نوجوان و خوبصورت بنائے رکھنا۔ حسب دلخواہ لڑکا لڑکی پیدا کرنا نامرد اور بانجھ عورت کو صاحب اولاد کرنا۔ برتھ کنٹرول یعنی پیدائش اولاد کو روکنا۔ عورت کو خوش اور فدا بنائے رکھنے کے عجیب و غریب نسخے اور مصالحے۔ عورتوں و مردوں کے اقسام ان کے جوڑے۔ مقامات شہوت پر چاند کی تاریخوں کا اثر۔ اپنے جسم کو لمبا۔ موٹا اور مضبوط کرنا۔ ہر قسم کے بلند۔ مسک طلا اور بال سیاہ رکھنے کے نسخے جات۔ ہر قسم کی زنانی و مردانی بیماریوں کا علاج۔ آسنوں کا بیان۔ غرضیکہ صدہا قسم کے مضامین جنکی نوجوانوں کو سخت ضرورت ہے۔ اس میں درج ہیں۔ اب یہ نئی تصویر ہیں دلچسپ ہے۔ اس کتاب سے کوئی گھر خالی نہ رہنا چاہیئے قیمت خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے صرف ڈیڑھ روپیہ۔ (عہ)

**ملک عدم** ایک فرانسیسی فلاسفر کی نئی تحقیقات نے ملک میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں۔ خدا کے گھر کا پتہ۔ بہشت دوزخ کہاں ہے۔ مرے ہوئے لوگوں سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے۔ مردہ روحوں سے امداد حاصل کرنا۔ قیامت کا حال ایسے ایسے دقیق مسائل کا حل۔ سائنس کے مطابق کرکے دکھلایا گیا ہے۔ تمام فلاسفروں کے خیالات کا نچوڑ۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (للعہ)

**خزانہ کیمیا** کیمیاگروں کے قلمی نسخے۔ گودڑ گوشناہ سنکھیا۔ پارہ کے کشتہ کا بھسم کرنا چاندی و اکسیر بنانے کی ترکیبیں۔ زندہ استادوں کے تجربات۔ اس کتاب میں درج ہیں۔ قیمت دو روپیہ (عہ)

**عطائی نسخے** دیہاتی حکیموں کے چٹکلے۔ دہقانی ٹوٹکے۔ فقیری ٹوٹکے۔ و مجرب ادویات جو سینہ بسینہ چلی آتی ہیں بڑی محنت و کوشش سے تلاش کرکے اس میں درج کی گئی ہیں۔ قیمت صرف ۸

**ہرفن مولا** صنعت و حرفت کی بے نظیر کتاب قیمت عہ

**علاج نورنگی** ہر مرض کا علاج نو طرح یعنی ویدک۔ ڈاکٹری۔ یونانی۔ ہومیوپیتھی وغیرہ وغیرہ کے ذریعہ کرنیکا طریقہ۔ ۱۲ ار

**طبیب خلوت** نامردی جریان آتشک۔ سوزاک بواسیر وغیرہ ایسے امراض جن میں آجکل کے نوے فیصدی نوجوان مبتلا ہیں۔ اور مارے شرم کے دوسرے سے اس کا علاج نہیں کراتے۔ اور زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ ان تمام امراض کی تشریح علامات اقسام اور اسباب مع علاج و پرہیز۔ یونانی ویدک ڈاکٹری ہومیوپیتھی۔ عطائی و تجربی طریقوں سے اس کتاب میں درج ہیں۔ تمام اعضاؤں کی بناوٹ ان پر بیماری کا اثر ہر ایک کے متعلق حکماء قدیم اور زمانہ حال کے ڈاکٹروں کی رائیں اور جدید تحقیقاتیں درج ہیں۔ قیمت صرف ڈیڑھ روپیہ (عہ)

**علاج بے دوا** نہ دوائی کھانے سے مطلب نہ لگانے کا کام۔ تمام بیماریوں کا علاج فاقہ سے پرہیز سے پچکاری سے۔ مالش و ورزش کے ذریعہ قوت خیالی۔ جھاڑ پھونک۔ پرانا یام کے طریقوں سے۔ پانی اور سورج کی شعاعوں کے ذریعہ بجلی اور رنگ سے کرنا لکھا ہے حکمائے مشرق کے مخفی اصول اور زمانہ حال کی نئی تحقیقاتیں اس میں درج ہیں۔ قیمت عہ

**دنیا کی سیر** چین۔ جاپان۔ روم۔ روس۔ مصر۔ ایران۔ سیام برما۔ تبت۔ لنکا۔ امریکہ۔ حبش۔ افغانستان ترکستان وغیرہ وغیرہ تمام ملکوں کے دلچسپ حالات سیاحوں کے سفرناموں کا خلاصہ۔ ہر ملک کے عجیب و غریب رسم و رواج ہر ملک کے آدمیوں کے عادات و رائج قانون درج ہیں قیمت عہ

**جوہر نباتات** ہر قسم کے چھوٹے بڑے درختوں کا بیان۔ انکی شناخت۔ اقسام۔ بلندی۔ عمر۔ موسم و حفاظت۔ دیسی و انگریزی نام۔ پھلدار۔ پھولدار درختوں کا بیان۔ آرائشی پودے۔ گملے کے پودے۔ بیلدار درخت۔ ادویات میں کام آنے والے درخت ان سب کی تشریح و بیان مفصل درج ہے قیمت عہ

**جوہر زراعت** ہر قسم کے پھل۔ سبزی۔ ترکاری۔ مصالحہ ساگ۔ غلہ وغیرہ کا مفصل بیان۔ کاشت کے طریقے۔ کھاد کا بیان اس کی شناخت۔ اصول کاشتکاری وغیرہ وغیرہ کا مفصل بیان درج ہے۔ قیمت ۸ ر

پتہ ملنے کا — مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس بکسیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

محصولڈاک ہر چیز کا ذمہ خریدار ہے

# برف کی مانند سفید بال سیاہ بھنورا ہو سکتے ہیں

اگر آپ ہمارا تیار کردہ

## مہا بھرنگراج یعنی خوشبودار خضابی تیل استعمال کریں

اس تیل کے لاثانی فوائد نے تمام عالم کو حیرانی میں ڈال دیا ہے

کئی مہاتما سنیاسی فقیروں کی خدمت گذاری اور درجنوں قلمی ویدک گرنتھوں کے مطالعہ کے بعد بال سیاہ کرنے کے لاثانی تیل کا یہ نسخہ دستیاب ہوا ہے۔ جو کہ بالکل بے ضرر دیسی ادویات مثلاً بھنگرہ سیاہ - فولاد - ترپھلا - مجیٹھ وغیرہ وغیرہ ڈال کر متواتر چھ ماہ محنت کرنے کے بعد تیار ہوتا ہے - اس کو تھوڑے دنوں تک باقاعدہ استعمال کرنے سے برف کی طرح سفید بال سیاہ بھنورا ہو جاتے ہیں - اور آئندہ کے لئے بال جڑھ سے کالے نکلتے ہیں - اگر کسی بیماری کی وجہ سے بال کمزور ہو گئے ہوں - تو اس کے استعمال سے بال مضبوط - ملائم اور ریشم کی طرح چمکدار ہو جاویں گے - جن لوگوں کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے - اگر وہ بھی اس کو استعمال کریں - تو پھر بڑھاپے تک اُن کے بال سفید نہ ہوں گے +

قیمت فی شیشی - دو روپیہ - ۳ شیشی اکٹھی منگوانے پر پانچ روپیہ (صہ ر) محصول ڈاک بذمہ خریدار ہے

### کالے گورے ہو گئے

کس طرح؟

**خوبصورتی کا مکمل بکس خرید کر**

اگر آپ چاہتے ہیں - کہ ہمارے چہرہ کی رنگت سفید، چمکدار، گوری - چمکدار نرم صاف اور رنگت گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے اور چہرہ پر کسی طرح کا داغ و دھبہ نہ رہے - تو اس خوبصورتی کے مکمل بکس کو منگوالیں - جس میں خوبصورتی کا صابن عرق کریم پوڈر وغیرہ وغیرہ مکمل سامان موجود ہے - حسب ہدایت تھوڑا عرصہ تک استعمال کرنے سے چہرہ کے تمام نقائص دور ہو کر رنگت گوری اور چہرہ خوشنما ہو جاوے گا - آزما کر دیکھو - قیمت مکمل بکس کی صرف دو روپیہ آٹھ آنہ (عہ ۸ر)

### وینس ہیئر گروور

یعنی

**گنج کو دور کرنے کا تیل**

جس جگہ بال پیدا نہ ہوتے ہوں - بال جھڑ گیا ہو - اس جگہ پر اس تیل کی مالش تھوڑے روز تک کرنے سے بال پیدا ہو جاوینگے - اگر بال گرنے شروع ہو گئے ہوں تو اس کے استعمال سے فوراً رک جاوینگے - اور گنجا پن بالکل دور ہو جاویگا - قیمت فی شیشی صرف عہ

### صابن خارش

اس صابن کے استعمال سے تمام جلدی بیماریاں مثلاً داد - چنبل خارش - بہت پھوڑے پھنسیاں وغیرہ وغیرہ دور ہو جاتی ہیں - تمام جلدی امراض کیلئے اکسیر ہے - قیمت ۳ ٹکیہ کا بکس عہ ایک ٹکیہ ۱۰ر

### حسن افزا تیل

اس تیل کے استعمال سے چہرہ کے بدنما داغ - چھائیاں کیل - پھنسیاں - جھائیں وغیرہ وغیرہ [illegible] دور ہو جاتے ہیں - نہایت خوشبودار ہے - تھوڑا سا روزانہ چہرہ پر ملنے سے چہرہ کو نہایت خوشنما - ملائم اور چمکدار بنا دیتا ہے - خوبصورتی کو بڑھاتا ہے - عورتوں کے لئے نایاب تحفہ ہے - قیمت فی شیشی عہ

### پوڈر مصفی دندان

دانتوں کا پیلا اور بدرنگ ہونا بھی چہرہ کی خوبصورتی میں فرق لاتا ہے - اگر آپ ہمارا یہ پوڈر روزانہ دانتوں پر ملیں گے تو فوراً آپ کے دانت موتیوں کی طرح سفید چمکدار اور مضبوط ہو جاوینگے اور دانتوں کی کل تمام بیماریاں بھی دور ہوں گی - قیمت فی ڈبہ ۸ر

**ملنے کا پتہ - ایم ایل بھنوت اینڈ کو بہار جوانی آفس ۱۲۵ سی ماڈل ٹاؤن (پنجاب)**

شیر کی چربی قیمت فی تولہ ایک روپیہ - ریچھ کی چربی قیمت فی تولہ ۸ر - اصلی شدہ سلاجیت فی تولہ ایک روپیہ - برہمی بوٹی فی پاؤ ۸ر فی سیر تین روپیہ -

مُفت! مُفت!! مُفت!!!

# اصلی خفیہ بالتصویر کوک شاستر

ازدواجی زندگی میں انقلاب پیدا کر دینے والی یہ پہلی ہی کتاب ہے اس میں وہ پوشیدہ راز درج ہیں جن پر عمل کرنے والے بوڑھے سے بوڑھے اور کمزور سے کمزور خاوند پر بھی آپ کی نوجوان بیوی پہلے ہی روز دل و جان سے قربان ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ عاشق مزاج اصحاب کے لئے خاص تحفہ ہے۔ عورت کے حسن اور مرد کے شباب کو قائم رکھنے حمل ٹھہرانے اور روکنے۔ اولاد نرینہ پیدا کرنے۔ عورت کو فریفتہ کرنے وغیرہ وغیرہ کے تمام پوشیدہ راز اسقدر واضح کر کے لکھے گئے ہیں کہ ایک دفعہ تو اس کتاب کو پڑھ کر آپکو یقین ہو جاویگا کہ اسکے جوڑ کی کتاب ہندوستان بھر میں ملنا ناممکن ہے۔ بازاری اور اشتہاری کوک شاستر اسکے سامنے ہیچ ہیں۔ علاوہ ازیں مردانہ و زنانہ پوشیدہ امراض کے وہ لاجواب مجربات اس میں درج ہیں جنکے اثر کو دیکھ کر بڑے سے بڑے حکیم اور ڈاکٹر بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایسی بیش قیمت کتاب صرف ان اصحاب کو مفت دی جاویگی جو اس جنتری کا حوالہ دیکر ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں لاگت اشتہار۔ پیکنگ اور ڈاک خرچ کے لئے صرف چار آنہ کے ٹکٹ بھیجکر طلب فرماوینگے۔ آگے پیچھے طلب کرنے والے اصحاب سے پوری قیمت یعنی ایک روپیہ (عہ) وصول کی جاوے گی۔

ملنے کا پتہ:- یوجنیکس پبلشنگ کمپنی ما وچھووالی۔ لاہور

---

بے روزگاروں کے سچے دوست

# گھر بیٹھے مالا مال بنا دینے والے صنعتی راز

یہ وہ قیمتی راز ہیں جنکو سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے اور سالہا سال خدمت کرنے پر بھی ماہران فن سکھانے سے گریز کرتے ہیں ہم نے یہ راز نہایت جانفشانی اور زر کثیر صرف کرکے حاصل کئے ہیں۔ اگرچہ ایک ایک راز لاکھ لاکھ روپے کا ہے تو بھی غریبوں اور بے روزگاروں کی امداد کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب راز اس شخص کو کھول کر بتلائے جاوینگے جو ہمیں صرف آٹھ آنے کے ٹکٹ پیشگی بھیجدیگا۔ یاد رکھیں یہ راز آپکو قیمتی سے قیمتی بازاری صنعتی کتابوں میں نہیں ملینگے۔ اگر آپ گھر بیٹھے ہی پانچ سات روپیہ روزانہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو آج ہی آٹھ آنے کے ٹکٹ ارسال فرمادیں۔ (مختصر فہرست مضامین) دودھ کے مرکب سے۔ آلوؤں سے اور مکی کے سوکھے پودوں سے مختلف قسم کی کاغذ اور چیزیں بنانے کے طریقے۔ صابن سازی۔ بلیو بلیک سیاہی۔ اصلی ولایتی خضاب سنو کریم۔ ٹوتھ پاؤڈر۔ بال اڑانیکا تیل و پوڈر۔ چہرے کو گورا بنانے والی ولایتی کریم۔ خوشبودار تیل۔ براؤن اور کالا بوٹ پالش وغیرہ وغیرہ بیسیوں قیمتی نسخے ہیں۔

ملنے کا پتہ:- یوجنیکس پبلشنگ کمپنی ما وچھووالی۔ لاہور

EUGENICS PUBLISHING CO., WACHHOWALI LAHORE

---

# خالص ست شلاجیت

کون ہے جو خالص ست شلاجیت کے فوائد سے واقف نہیں۔ یہ وہ اکسیر ہے جو باطریقہ استعمال کرنے سے ایک بار تو تمام جسمانی۔ دماغی۔ اعصابی اور تناسلی کمزوریوں کو رفع کرکے لاغر سے لاغر انسان کو بھی فولاد کی مانند مضبوط بنا دیتی ہے لیکن پرلے درجہ کے ترغیبی اشتہاروں کے ذریعہ بکنے والی شلاجیت سے یہ فائدے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ عموماً یہ اشتہار علم طب اور آیوروید سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے ست شلاجیت کو ٹھیک طور پر تیار ہی نہیں کر سکتے ہم چرک اور سشرت میں بیان کردہ طریقوں کے مطابق سورج کی دھوپ میں بڑی محنت سے اس کا ست تیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پہلی ہی خوراک یہ یقین دلا دیتی ہے کہ واقعی ہمارا ست شلاجیت تمام قسم کی سلاجیتوں کا سرتاج ہے۔ قیمت ۵ تولہ صرف دو روپیہ۔ ۱۰ تولہ ساڑھے تین روپیہ۔ ۲۰ تولہ چھ روپے۔

ملنے کا پتہ:- ست شلاجیت عا شیشہ موتی بازار۔ لاہور





**قینچی مشین!**

حجامت بنانے کی مشین
نہایت مضبوط اور اعلیٰ لوہے کی یہ اصلی مشین ہے۔ سر کے بال یہ مشین بڑی آسانی اور نہایت عمدگی سے کاٹ دیتی ہے۔ قیمت [illegible]

**ربڑ کا جھاما**

اس میں نہایت خوبصورت ربڑ کی ملائم تیلیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس سے ہاتھ منہ دھوتے وقت جسم خوب صاف ہو جاتا ہے۔ نہایت مضبوط مدتوں کام دیگا۔ قیمت ایک روپیہ

**فتق کی پیٹی**

جن لوگوں کی آنت اتر جاتی ہے۔ ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس بیماری کے [illegible] نہیں ہو سکتا۔ اسکے استعمال سے پھر آنت نہیں اترتی قیمت [illegible]۔ آرڈر کے ہمراہ کمر کا ناپ آنا چاہیئے

**ٹھنڈے چشمے**

ٹھنڈا چشمہ آپ کی آنکھوں کو دھوپ سے بچائے گا۔ قیمت مع بکس بارہ آنے ۱۲

**سنہری کیس رسٹ واچ**

یہ شادی بیاہ میں بطور تحفہ دینے کے لئے نہایت شاندار اور موزوں گھڑی ہے۔ اس کی مشین نہایت خوبصورت اور مضبوط ہے قیمت صرف چھ روپے ہے گارنٹی نو سال۔

**نیو فیشن فینسی ڈائل رسٹ واچ**

اس کی شکل نہایت خوبصورت اور پیاری ہے مشینری مضبوط اور پائیدار ہے کم خرچ بالا نشین ہے عورتوں کے لئے بڑی موزوں ہے۔ قیمت [illegible] چار روپے گارنٹی پانچ سال

**ربڑ کی بوتل**

سردیوں میں کام آنے والی ربڑ کی بوتل [illegible] قیمت [illegible]

**ملٹری رسٹ واچ**

یہ رسٹ واچ نہایت مضبوط اور پائیدار ہے۔ خاص طور پر تیار کروائی گئی ہے۔ لیور مشین ہے۔ اصلی جیول لگے ہوئے ہیں۔ قیمت [illegible] چاندی کیس [illegible] روپے۔ گارنٹی دس سال۔

**کروم رسٹ واچ**

یہ گھڑی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ پسینہ سے اسکی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا۔ بڑی مضبوط اور شاندار ہے قیمت صرف آٹھ روپے ہے۔ گارنٹی دس سال۔

**فرنچ لیدر برتھ کنٹرول**

اگر آپ اولاد کی پرورش اپنے دل کی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے اور آپکی شریک حیات کی جان خطرہ میں ہے تو آپ برتھ کنٹرول کا استعمال کریں عورت کی تندرستی بھی قائم رہیگی اور حمل بھی قرار نہ پائے گا۔ قیمت [illegible] مردانہ [illegible] زنانہ [illegible]

**انگلش فیشن لیور رسٹ واچ**

جیول والی کروم۔ رولڈ گولڈ۔ اس گھڑی کی مشین لیور ہے عمر بھر کام دینے والی ہے۔ رولڈ گولڈ کیس ہمیشہ مثل سونے کے رہتی ہے۔ اس میں جیول بھی لگے ہوئے ہیں۔ قیمت [illegible] بارہ روپے۔ گارنٹی دس سال۔

**نیو امریکن فیشن لیور رسٹ واچ**

چار جیول والی رولڈ گولڈ قیمت [illegible] روپے۔ کروم [illegible] نہایت خوبصورت ہے۔ [illegible] وقت نہایت صحیح بتاتی ہے۔ قیمت صرف دس روپے گارنٹی [illegible] سال

**جنٹلمین پاکٹ واچ**

مضبوط کیس والی [illegible] گھڑیوں کی بادشاہ۔ اسکی مشین نہایت مضبوط اور [illegible] ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے [illegible] نہایت صحیح بتاتی ہے۔ قیمت صرف [illegible] روپے گارنٹی [illegible] سال

**الارم ٹائم پیس**

سوتوں کو جگانے والا اعلیٰ ٹائم پیس۔ اگر آپ کسی خاص وقت پر اٹھنا چاہیں [illegible] وقت پر آپ کو جگا دیگا۔ ماہ رمضان میں [illegible] قیمت صرف [illegible] روپے گارنٹی [illegible] سال

**حجامت بنانے کا دستی آئینہ**

حجامت بنا کر خوبصورتی دیکھنے کا نہایت اعلیٰ آئینہ ہے۔ جرمنی کی بالکل نئی ایجاد ہے قیمت [illegible]

**فولادی [illegible]**

ورزش [illegible] فولادی [illegible]

**ربڑ کا تکیہ!**

شوقین مزاج لڑکوں کی دلچسپی کا سامان۔ ایک دفعہ استعمال کیجئے۔ فرسٹ کلاس زندگی کا لطف آئے گا۔ نہایت کارآمد چیز ہے۔ کرسی پر رکھ کر بیٹھنے کے علاوہ سفر میں بھی کام آ سکتا ہے قیمت صرف دو روپے

**کپڑا سینے کی مشین!**

جو لوگ [illegible] سو روپے کی مشین نہیں خرید سکتے [illegible] نہایت اعلیٰ چیز ہے قیمت [illegible]

**سیفٹی اُسترا**

[illegible] قیمت [illegible]

**مینیجر جنرل سپلائی سٹور لاہور**



## دودھ میں سے پانی

ناپنے کا آلہ

اگر آپ خالص دودھ پینا دوکانداروں کے فریب سے بچنا چاہتے ہیں تو دودھ ناپنے کا یہ آلہ ضرور منگوائیں یہ دودھ میں پانی کی مقدار بتا دیگا قیمت عمہ



## لوہو

زکام کا واحد علاج

اس نلکی کو ہمیشہ جیب میں رکھیے جب زکام کا حملہ ہو اسکو سونگھ لیجیے فوراً آرام آجائیگا جرمن ایجاد ہے قیمت ۱۲/

سیفٹی استرے کے بہترین ولایتی بلیڈ فولادی قیمت فی درجن عـہ ان بلیڈوں کو تیز کرنے کی مشین قیمت چار روپے للعہ

## آٹومیٹک پستول

دیکھنے میں بالکل اصلی پستول معلوم ہوتا ہے یہ پستول آپکی جان کا محافظ بنگال و برما کے سوائے تمام ہندوستان میں بلا لائسنس استعمال کیا جاسکتا ہے قیمت مع پچاس گولی کی پیٹی

## فوٹو کیمرہ

اس کیمرہ کی مدد سے آپ ہر چیز کی تصویر اتار سکتے ہیں قیمت عـہ معمولی فوٹو کے متعلق ضروری سامان بھی طلب فرمائیں



طلب کریں



## فٹ بال

بچوں نوجوانوں کی ورزش کے لئے سب سے اچھی کھیل ہے ہر سکول میں بچوں کو کھلائی جاتی ہے آپ بھی اپنے بچوں کیلئے ایک فٹ بال منگالیں۔ قیمت پانچ روپے۔ درجہ دوم چار روپے فٹ بال میں ہوا بھرنے کی پچکاری

## ٹارچ لائٹ

پاکٹ لیمپ ٹارچ بیٹری نہایت خوبصورت سو فٹ تک روشنی دیتی ہے قیمت نمبر اول ۳ نمبر دوم ۲

## پیمائش کا فیتہ



یہ فیتہ عمارت وغیرہ کی پیمائش کے کام آتا ہے ۵۰ فٹ لمبا پاکٹ میں آجاتا ہے نہایت خوبصورت ہے قیمت دو روپے

## مکھن نکالنے کی آہنی مشین

اس مشین کے ذریعہ دودھ میں سے مکھن بڑی جلدی نکل آتا ہے ویسے یہ انڈے پھینٹنے کے کام بھی آتی ہے ہر گھر کیلئے مفید ہے۔ قیمت ۱۲/

## مسہری

نہایت مضبوط خوبصورت



پیرسول کا مچھر دانی مکھی وغیرہ اسکے اندر نہیں آسکتے نہایت آرام دہ چیز ہے۔ قیمت صرف چھ روپے

## فونٹین پن سلف فلنگ

قلم جیب میں ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ جاپانی قلم جو عام بازاروں میں بکتی ہے نکمی ہوتی ہے ہمیشہ سونے کی نب والی قلم استعمال کریں جو برسوں کام دیگی نفیس مضبوط پائیدار قیمت چار روپے للعہ

## حجامت بنانے کا برش



نہایت مضبوط پائیدار خوبصورت قسم اول ۱۲/ دوم ۸/ اسکے علاوہ صابن شیشہ بلیڈ بھی بھیجے جاتے ہیں

## دوربین



فوجی نہایت عمدہ اور مضبوط دوربین دور کی چیز نزدیک نزدیک کی چیز دور دکھائی دیتی ہے کشتی گھوڑ دوڑ ہجوم دیکھنے کیلئے بے حد مفید ہے قیمت پانچ روپے

## تعویذی قرآن مجید

اس ماشہ کے قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو دنیا کے ہر کام میں برکت الٰہی شامل حال رہیگی۔ ایک انچ مربع ایک انچ اعلیٰ کلاس دو روپے

## ریشمی رومال

نفیسی رومال نہایت خوبصورت اعلیٰ ڈیزائن والے



پھولدار اور ایک رنگ والے قیمت

## مشین کشیدہ کاری

کپڑوں پر نہایت ہی خوبصورت بیل بوٹے بنانے والی نہایت سادہ مشین قیمت تین روپے مشین کے علاوہ بیل بوٹے بنانیکی کتاب یعنی کشیدہ کاری کی اصلی کتاب جسمیں سینکڑوں قسم کے پھول جانور اور بیلوں کے ولایتی نمونے دیئے گئے ہیں اس مشین سے ریشمی اونی سوتی کشیدہ نکالا جاسکتا ہے قیمت عـہ

## ڈیٹ بلاک کیلنڈر



دائمی کیلنڈر جو صدیوں تک کام دیگا ہمیشہ دن تاریخ سب بتاتا ہے قیمت تین روپے

## پرمس چولہا

یہ سفری چولہا مٹی کے تیل سے جلتا ہے

دھواں نام کو نہیں دیتا آنچ خوب تیز ہے ہر چیز بآسانی تیار ہو جاتی ہے قیمت اول دوم

## سینما مشین

گھر بیٹھے رات کو سینما دیکھنے کی مشین نہایت مضبوط و کارآمد۔

قیمت دس روپے



**مینیجر جنرل سپلائی سٹورز لاہور**

پوڈر۔ غازہ۔ گلگونہ

عورتوں کی دوائی

بندے اور آویزے

بال صفا پوڈر

سردرد کی گولیاں

جھولا

آرائش جمال یا سنگار دان

برقی لاکٹ

سنگار دان

منیجر جنرل سپلائی سٹور لاہور

# فرانسیسی کوک شاستر

منہ بولتی تصویروں کے ذریعے اس کوک شاستر میں پیرس کی پریوں کی لطف اندوز زندگی کی داستان بیان کی گئی ہے اسکی موجودگی میں کسی اور کوک شاستر کی ضرورت نہ رہیگی عورتوں کی مختلف حالتوں کا نقشہ آپکے ذہن نشین کرنے کیلئے اسمیں چالیس مختلف تصاویر بھی دیگئی ہیں فی الحقیقت فرانسیسی کوک شاستر بے پناہ اور لازوال شہرت کی کتاب ہے یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے [illegible] جوانی اور لذت شباب کے مضمون پر نہایت فاضلانہ بحث ہے جس کو پڑھ کر ہر مرد و زن شباب بہترین لذت حاصل کر سکتا ہے عورتوں کو چاہئے کہ اپنے حسن و جمال کے خزانہ کو محفوظ رکھنے کے لئے اسکو بھی ضرور پڑھیں ان کی عیش پرستانہ زندگی شادی اور شادی کے بعد حریم حسن کی لطف اندوزیات اور حقیقی ازدواجی مسرتوں کی تفصیل درج ہے اس کتاب میں نوجوانوں کو بداخلاقی سے بچانے کیلئے پوری کوشش کیگئی ہے [illegible] آپ بھی ضرور دیکھیں قیمت [illegible] رعایتی چار روپیہ

## کاشف رموز کیمیا یا کیمیاگروں کا استاد

اگر اس کتاب کو کیمیاگروں کی بائبل کہا جائے تو بجا ہے علم کیمیا کی تاریخ کیمیاوی بوٹیوں کے افعال و خواص سنیاسیوں کے مخفی راز اکسیر اجساد و اجسام کے راز دل کا انکشاف نیز اس میں جواہرات سازی کا بیان بھی دیا گیا ہے یہ کتاب ایشیا و یورپ کی کیمیاگری کا نچوڑ ہے قیمت چار روپیہ رعایتی تین روپیہ

## طب [illegible] کی مختلف [illegible]

ہندوستان کے [illegible] [illegible] جن کے تجربات [illegible] نے اپنے [illegible] [illegible] میں طب کی قدیم و جدید [illegible] [illegible] ادویات اور ان کے [illegible] قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

## جادو کی ہلی وسری

شعبدہ بازی ٹوپی سے ہزاروں مختلف چیزیں برآمد کرنا [illegible] آگ کا لگانا گلاس میں پانی کا غائب ہو جانا تاش کے [illegible] مختلف کھیل [illegible] سینکڑوں قسم کے جادو درج ہیں۔ قیمت ۱۲ رعایتی ۹

## اولاد نرینہ یا میٹھا پھل

دنیا میں لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جن کی گودیں اولاد جیسی نعمت سے خالی ہیں ان سب عورتوں اور اولاد کے طالب مردوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب منگا کر پڑھیں قیمت ۱۲ رعایتی نو آنے ۹

## فن ہپناٹزم

اس علم سے [illegible] بیہوش [illegible] [illegible] قیمت [illegible]

## معلومات بوسہ بازی

بوسہ کیا ہے۔ بوسہ کس طرح لینا چاہئے۔ بوسہ عزت اور بوسہ محبت کا فرق۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بوسہ بازی کے حالات۔ بوسہ بازی کے متعلق شعر بھی لکھے گئے ہیں قیمت ۸ رعایتی ۶

## علم ریکھا یا خط تقدیر

ہر انسان کے ہاتھوں میں قدرت نے اسکی تقدیر لکھدی ہے اس تقدیر کو [illegible] علم ریکھا کی کتابیں تصنیف کی ہیں [illegible] تمہاری قسمت بیماری شادی اولاد سفر وغیرہ سب حالات بتا سکتی ہیں [illegible] کتاب خط تقدیر علم ریکھا [illegible] قیمت ۱۲ رعایتی ۹

## آئینہ مسمریزم

[illegible]

## حسن و صحت بڑھانے کے نسخے

اگر آپ کا حسن [illegible] کافور ہو رہا ہے تو ہماری کتاب حسن و صحت بڑھانے کے نسخے منگا کر پڑھیں اسمیں جو نسخے حسن کے قائم رکھنے کے درج ہیں ان کو استعمال کریں قیمت ۸ رعایتی ۶

بازاری ادویات
ذخیرۃ الاطبا
قوت مباشرت یا [illegible]
[illegible] اور اس کا علاج
طب کیمیائی
فادزہر سانپ کاٹے کا علاج
عصمت انسان
خوبصورتی تندرستی
دماغی طاقت کے اسرار
بچوں کی پرورش
رسالہ [illegible]
علاج [illegible]

# اس دنیا میں ہر شخص کیلئے زمین میں خزانہ موجود ہے

## فن زراعت و باغبانی کی بہترین کتابیں

## آپ بھی ان کتابوں کے ذریعہ زمین سے دولت پیدا کر سکتے ہیں!

**کتاب الاثمار** شمس العلماء خان بہادر نواب [illegible] صاحب مرحوم کی مشہور کتاب جس میں تمام میوہ دار درختوں کی کاشت و نگہداشت کی تدبیریں بتائی گئی ہیں کتاب باتصویر ہے اور اب بھی نہایت عمدہ طبع کی گئی ہے۔ قیمت دو روپے رعایتی ایک روپیہ آٹھ آنہ

**سبزی ترکاری** اس کتاب میں ہندوستان اور ممالک غیر کی تمام ترکاریوں کی پیداوار کاشت اور کھادوں کا مفصل ذکر ہے۔ قیمت عہ رعایتی ۱۲؍

**کاشت آلو** آلو کی کاشت و پیداوار سے دولت پیدا کرنے کے حالات ۸؍ رعایتی ۶؍

**میوہ جات** میوہ دار درختوں کی پرورش کے حالات پیوند وقت کاشت کھاد۔ میوے لذیذ کرنے کا طریقہ میووں کی بیماریاں اور ان کے علاج قیمت عہ رعایتی ۱۲؍

**کیمیائے زراعت** اس کتاب میں تمام قابل کاشت غلوں ترکاریوں اور فصلوں کے اگنے کے حالات درج ہیں مصنفہ نواب [illegible] قیمت عہ رعایتی ۱۲؍

**پھلواڑی** ہر قسم کے پھولوں کی پیداوار و کاشت کے مفصل حالات۔ عہ رعایتی ۱۲؍

**صنعت [illegible]** [illegible] کی پیداوار کے مفصل حالات قیمت ۸؍ رعایتی ۶؍

**علاج المویشی** [illegible] گائے بھینس بکری وغیرہ پالتو جانوروں [illegible] قیمت ۸؍ رعایتی ۶؍

**علاج اسپان** گھوڑوں کی [illegible] امراض کا علاج قیمت ۱۲؍ رعایتی عہ

**معالجات [illegible]** [illegible] کے علاج قیمت ۸؍ رعایتی ۶؍

**مجرب المویشی** [illegible] قیمت ۸؍ رعایتی ۶؍

**بھیڑ بکری کی پرورش** بھیڑ بکریاں پالنے اور ان سے تجارتی نفع حاصل [illegible] حالات درج ہیں قیمت ۴؍ رعایتی ۳؍

**شہد کی مکھی** شہد کی مکھی سے شہد حاصل کرنے اور شہد کی تجارت کے فوائد [illegible] ۸؍ رعایتی ۶؍

**خرگوش کی پرورش** [illegible] رعایتی

**ریشم کا کیڑا** ریشم کے کیڑوں سے [illegible] مفصل حالات ۸؍ رعایتی ۶؍

**مرغیاں** [illegible] کی ترکیبیں رعایتی ۶؍

**خوان یغما** مسلمانوں [illegible] کی ترکیبیں ۸؍ رعایتی ۶؍

**بھوجن پرکاش** ہندوؤں کی بھاجی پوری کچوری اور [illegible] مٹھائیاں وغیرہ بنانے کی ترکیبیں درج ہیں۔ ۸؍ رعایتی ۶؍

## ناول۔ ڈرامے افسانے تاریخی جاسوسی اور عشقیہ

**ناول منشی ابن حسین صاحب**

- آستانہ کی حور
- انیسیا کا چاند
- بہار و دلہن
- فتح یرموک
- حور عرب
- جنگ ایران
- سعید فلپانہ
- آفتاب عالم چار حصے
- ایران کی حسینہ
- جنگ صلیب و ہلال
- عرب کا چاند
- معشوقہ سپین
- مشرقی حور
- فتح اندلس پہلا حصہ
- کابل کی دوشیزہ
- فتح ایران
- اخت عباسہ
- شیر اندلس
- رومی شہزادی

**ناول مصنفہ عبدالحلیم شرر**

- فلورا فلورنڈا
- منصور موہنا
- حسن انجلینا
- فردوس بریں
- [illegible]
- عزیز مصر ورجنا
- دلچسپ [illegible]
- حسن بن صباح
- شہید وفا
- درگیش نندنی
- میوہ تلخ
- بدر النساء کی مصیبت
- بول چال حوالہ کی کتابیں
- انگریزی بول چال
- فارسی بول چال
- ترکی بول چال
- اردو بول چال
- عربی بول چال
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- افغان بادشاہ
- دولت غزنویہ
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] کی کہانیاں
- [illegible]
- [illegible]

**تصنیف مولانا راشد الخیری**

- بچوں کے گیت
- اسلامی کہانیاں
- تاریخی کہانیاں
- اسیر قفس

**ناول مصنفہ رینالڈس**

- سرگذشت چار حصے
- قدیم لندن کے اسرار دو حصے
- فسانہ لندن
- وطن پرست
- عربی ترکی دو نوں کے ترجمہ
- معرکہ تیونس
- عروس فرغانہ
- محبوبہ قریش
- لیلائے کربلا
- جنگ طرابلس
- جانباز سمرنا
- نازنین تاج
- معرکہ سمرنا
- عربی دلہن
- پرستان بغداد
- محب وطن
- امین و مامون
- شارل عبدالرحمن

**جاسوسی ناول**

- ناول ۱۱۲
- فطرتی قاتل
- نقاب پوش ڈاکو
- ہوائی بندوق
- خونی طوق
- خونی جوڑہ
- خونی آقا
- خونی بہن
- خونی ایمانی
- خونی منظر
- خونی بھید
- خونی تصویر
- خونی شہزادہ
- کنجی کا راز
- قاتل کا قاتل
- اسرار آکلینڈ
- طلسمی انگوٹھی
- بلوری آنکھیں
- ولائتی بھوت
- پر اسرار گھوڑا
- سفید پوش غنڈا
- زندہ لاش
- ماہر جاسوس

**عشقیہ ناول**

- الٰہ کیمیا گر
- دل فگار
- زن مرید
- چلتا پرزہ
- موتیوں کا جزیرہ
- دس پونڈ کا نوٹ
- غبارہ میں پانچ ہفتے
- امریکہ کی نازنین
- بخیل کی دولت
- ہیرے کا آتش
- چھلاوہ
- ماں کا قاتل
- عاشق شیطان
- سیتا
- پیرس کا غنڈا
- تماشہ گاہ عالم
- حق بحقدار
- قعر دریا
- فریبی عورت
- بد انجام
- شمع شبستان
- سیر بنگالی
- تخم بدی
- مطلوب حسینان
- طوفان تمیزی
- اکبر دلہرہ
- خوبصورت ناگن
- سید و خانساماں
- شگوفہ محبت
- پریتم کی تلاش
- خضر شباب
- سلیمان عذرا
- ذبیح فاطمہ
- فیروز محمودہ
- حمیدہ بانو
- حسن پرست
- اسمٰعیل صفیہ
- قدسیہ پاکدامن
- بوالہوس نواب
- عصمت کا البم
- بڈھے میاں
- لسن بی بی
- دلن بی بی
- جانفروش
- مار آستین
- درس عبرت
- دلیر عاشق
- رونا کا عاشق
- قانون عشق
- ظالم عشاق
- معشوقہ فرانس

- شہنشاہ عیاران
- طویلہ کی بلا
- سیدر کے سر
- طائر شب
- پراسرار شادی
- پیر فرطوت
- روحوں کا اخراج
- وفادار بیوی
- مشرقی حکیم گلباز
- طلسم بنگال

**جاسوسی عشقیہ ناول**

- شہباز ڈاکو
- شہباز کی فراری
- شہباز کی بیٹی
- جوش انتقام
- فیروز ڈاکو
- فیروز کی [illegible]
- عیاریاں
- خونی فیروز
- حسرت دیدار
- نقلی تاجدار
- پُرفریب حسینہ دو حصے
- فرعون کی بیٹی
- آفتاب ایران دو حصے
- طلسمی قلعہ
- خونخوار گروہ
- قلمی دستاویز کی چوری
- طلسمی انگوٹھی
- حسن افروز
- سنگدل شہزادی
- کانٹے کی چیخ
- بہرام کی عیاریاں
- حسین فیروزہ
- داستان محبت
- ترکی شہزادہ
- چوری اور سینہ زوری
- باغی سردار
- مکار شہزادی
- حسین ڈاکو
- بیوی کا قاتل
- پہلی جھلک
- جاسوسی کرشمہ
- پیا کی یاد
- مصری جادوگر

**منیجر جنرل اسلامی سٹور لاہور**

# ہائے بیروزگاری تیرا ستیاناس! دنیا بیروزگاری سے تنگ آ گئی اسکا واحد علاج یہی ہے کہ آپ ہماری دولت پیدا کرنیوالی کتابیں منگا کر پڑھیں۔ ملک میں صنعتی تحریک اور انقلاب پیدا کرنے کیلئے ہم نے یہ کتابیں طبع کی ہیں اور ملک نے انکا شاندار خیر مقدم کیا ہے!

**بیروزگاری کا علاج** جو لوگ بیٹھکر مفلسی کا رونا روتے ہیں انکو یہ کتاب منگا کر پڑھنی چاہیئے عہ رعایتی ۸ر
**شاہراہ دولت** امریکہ کے مشہور کروڑپتی مسٹر بارنم کے دولت پیدا کرنیکے اصول ہیں عہ رعایتی ۱۲ر
**سیر معاش** کامیاب تاجروں کے حالات و تجربات معاش پیدا کرنے اور دنیا میں ترقی کرنیکے ۵۰ سو مختلف طریقے قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

**کم سرمایہ سے تجارتیں** قلیل سرمایہ سے معقول منفعت پیدا کرنے کی راہیں۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں سے ہزاروں روپیہ کمانیکے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر
**سبیل دولت** دولت پیدا کرنے کے طریقے۔ مفلسی اور بیکاری کس طرح دور ہو سکتی ہے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

## مکمل مرغی خانہ

**تجارت و علاج**

مصنفہ نواب حامی محمد اسمٰعیل صاحب آگرہ

ہر مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کا تجربہ کرنا چاہیں۔ تو ہماری کتاب مکمل مرغی خانہ منگا کر پڑھیں۔ یہ کتاب پندرہ دفعہ چھپ چکی ہے ملک نے اس کو بے حد پسند کیا ہے۔ قیمت اصلی عہ رعایتی ۱۲ر

مرغیوں کی پرورش تجارت علاج کے مکمل حالات قیمت ۱۲ر

## حرفت و صنعت کا مکمل کورس آٹھ حصوں میں

بیروزگاری کا واحد علاج ہے۔ بے روزگاری نے ملک میں لاکھوں نوجوانوں کو تباہ حال کر دیا ہے۔ ہم نے یورپ، امریکہ اور جاپان کی تمام صنعتی کتابوں کا اس میں عرق کھینچ لیا ہے۔ اگر آپ بھی بیکار ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں قیمت حصہ اول عہ رعایتی ۱۲ر، دوم عہ رعایتی ۱۲ر، سوم عہ رعایتی ۱۵ر، چہارم عہ رعایتی ۱۵ر، پنجم عہ رعایتی ۱۵ر، ششم عہ رعایتی ۱۵ر، ہفتم ۱۲ر رعایتی ۱۰ر، ہشتم ۸ر رعایتی ۶ر، مکمل سیٹ [illegible] رعایتی [illegible]

**مکمل صابون سازی** ہر قسم کے دیسی انگریزی صابن بنانے کی مکمل ترکیبیں صابن کا کارخانہ بنانے اور اس کو تجارتی طور پر کامیاب کرنیکے حالات قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

**دندان سازی** آپ اگر گھر بیٹھے دندان ساز بننا چاہتے ہیں تو ہماری دندان سازی منگا کر پڑھیں اسمیں مصنوعی دانت بنانے، دانتوں پر سونا چڑھانے پالش چڑھانے جبڑا تیار کرنیکے مفصل حالات۔ عہ رعایتی ۱۲ر

**کارخانہ دھلائی یا لانڈری** سرد و گرم اور ہر قسم کے ریشمی پارچات دھونے ڈرائی کلین کرنے کی ترکیبیں دھوبی خانہ سے دولت کمانے کے حالات قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

**اینملنگ یا تامچینی** لوہے کے برتنوں اور سائن بورڈوں پر تامچینی چڑھانے کے طریقے۔ اینمل کا رنگ بنانے بھٹی کے ذریعہ رنگ چڑھانے کے مفصل حالات قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

**داغ دھبے دور کرنا** کپڑے، لکڑی، کاغذ، دھات وغیرہ سے داغ دھبے دور کرنے کے کیمیائی طریقے۔ ۲۲۵ مجرب نسخے انگریزی سے ترجمہ کرکے لکھے گئے ہیں۔ ہر گھر کیلئے یہ کتاب مفید ہے قیمت اصلی دس آنہ رعایتی ۸ر

**گھڑی سازی** گھڑیاں ٹائم پیس کلاک وغیرہ مرمت کرنے کا مکمل کورس اس کتاب کی مدد سے آپ بلا کسی استاد کے گھڑی ساز بن سکتے ہیں۔ یہ کتاب باتصویر ہے قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

**آتشبازی** یورپین اور ہندوستانی آتشبازی بنانیکے ۵۰ مجرب طریقے جن سے آتشباز آتشبازی بناتے ہیں۔ روغن فلیتہ وغیرہ تیار کرنیکی ترکیبیں ۱۲ر رعایتی ۹ر

**گلٹ سازی** بجلی کے ذریعہ مختلف دھاتوں پر گلٹ کرنیکے کیمیائی طریقے ۸ر رعایتی ۶ر

**دیاسلائی بنانا** ہندوستان میں کروڑوں روپیہ کی دیاسلائی ہر سال باہر سے آتی ہے اس کتاب میں دیاسلائی کا کارخانہ بنانے، مشین لگانے اور مختلف کارخانوں کے حالات درج ہیں قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

**تیل عطر سازی** ہر قسم کے خوشبودار تیل بنانیکے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر
**شربت سازی** ہر قسم کے پھل پھولوں سے شربت بنانیکے طریقے ۸ر رعایتی ۶ر

**وارنش پالش** ہر قسم کے روغن وارنش بنانے کے فرانسیسی جاپانی طریقے تیار کرنیکے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر۔ لکڑی، لوہا، پیتل اور تانبہ وغیرہ پر پالش کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

**بسکٹ فیکٹری** ہندوستان میں ہر سال لاکھوں روپیہ کے بسکٹ غیر ممالک سے آتے ہیں ہندوستان میں بسکٹ بنانا کیمیاگری سے کم نہیں۔ ہر قسم کے بسکٹ کیک ڈبل روٹی بنانیکے مفصل حالات درج ہیں قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

| | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی | | اصل | رعایتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکمل ہومیو گائیڈ | عہ | ۱۲ر | گھر کا درزی | ۸ر | ۶ر | موم بتی بنانا | عہ | ۱۲ر | نیلاری یا رنگریز | ۸ر | ۶ر | الکوحل سازی | ۸ر | ۶ر | استاد فوٹوگرافی | ۸ر | ۶ر |
| دباغت چمڑا رنگنا | عہ | ۱۲ر | لوہا ڈھالنا | عہ | ۱۲ر | سلائی کی مشین | ۸ر | ۶ر | سنیما فلم کی بجلی دوسری | [illegible] | [illegible] | جلد و آئینہ سازی | ۸ر | ۶ر | چھتریاں بنانا | ۳ر | ۲ر |
| روشنائیاں بنانا | ۸ر | ۶ر | زنگائی چھپائی | ۸ر | ۶ر | چینی مٹی اور اسکے مصنوعات | ۸ر | ۶ر | مٹی کے برتنوں پر کلعی چڑھانا | ۸ر | ۶ر | نگینہ جواہرات | ۳ر | ۲ر | آلۃ [illegible] | ۳ر | ۲ر |
| مصنوعی دھاتیں | | | کشیدہ کاری | عہ | ۱۵ر | | | | | | | ڈیکوریشن | ۸ر | ۶ر | فاؤنٹین پن بلب | ۳ر | ۲ر |
| پاس کا ملمع لگانا | ۸ر | ۶ر | استاد اشتہار نویسی | عہ | ۱۲ر | آئینہ جواہرات | عہ | ۱۲ر | فروٹ کیننگ | ۸ر | ۶ر | رسالہ خوشبویات بنانا | ۸ر | ۶ر | سیمنٹ بنانا | ۸ر | ۶ر |

## مینیجر جنرل سپلائی سٹور لاہور

کتبہ ایم محمد حسین قریشی [illegible] لاہور

محصولڈاک بذمہ خریدار۔

## خزائن الادویہ

خزائن الادویہ

آٹھ جلدوں میں

[illegible]

## مجربات حفظ صحت

[illegible] حفظانِ صحت کے متعلق [illegible] نادر و نایاب نسخے جمع کئے گئے ہیں جو [illegible] اخبار کے [illegible]

## لطائف [illegible]

[illegible]



[illegible]

| [illegible] | [illegible] |
|---|---|
| دیوان [illegible] | [illegible] |
| دیوان ذوق | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

بیرون کا خرچ محصول کا دو ڈالر

# طلسمات مسمریزم عرف کراماتی علم باتصویر

## فن مسمریزم ہپناٹزم۔ روشن ضمیری علم الغیب و تھاٹ ریڈنگ پر پہلی نایاب لاثانی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی

معزز شائقین! علم مسمریزم و ہپناٹزم کے سیکھنے سے بڑے بڑے عجیب و غریب حیرت انگیز کام کئے جا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ہراول ہوتے ہیں۔ نئی نئی باتیں اور معجزے دیکھنے میں آتے ہیں۔ انسان اس علم کے ذریعے ساحر و صاحب کشف و کرامات و باکمال جادوگر بن سکتا ہے اور بڑی بڑی پوشیدہ باتیں جان کر ساری دنیا کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ اس علم پر آپ نے بیسیوں بازاری و اشتہاری کتابیں دیکھی ہونگی۔ مگر یاد رہے کہ فن مسمریزم و ہپناٹزم پر ایسی نادر الوجود مکمل و آسان عملی کتاب آج تک آپ کی نظروں سے کبھی نہ گذری ہوگی۔ کیونکہ اس میں ہندوستانی یوگیوں، تارک الدنیا مہاتماؤں، سنیاسیوں، کراماتی فقیروں و امریکہ کے باکمال جادوگروں و مسمرائزروں کے سینوں کے راز جو کہ آج تک تحریر میں نہ آ سکے۔ نیز مسمریزم و جادو کے وہ راز جن کو اکثر ہندوستانی فقیر اپنے سینوں میں لیکر گوشہ قبر میں جا لیٹے۔ مصنف نے ان رازوں کو بڑی محنت و جانفشانی سے حاصل کر کے اپنے ذاتی تجربات میں لا کر کتابی شکل میں ایسے عمل پیرایہ سے درج کیا ہے۔ کہ جن کو کند سے کند ذہن شخص بھی معمولی سمجھ و مطالعہ سے علم مسمریزم و باکمال جادوگر بن سکتا ہے۔ کتاب کیا ہے۔ اسرار مسمریزم کا عملی و علمی خزانہ ہے۔ اس میں مسمریزم ہپناٹزم و روشن ضمیری ٹیلی پیتھی و علم غیب دانی وغیرہ وغیرہ کے سینکڑوں عملیات و عملی اسباق معہ مکمل ہدایات کے ملیں گے۔ مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو۔ آغاز مسمریزم۔ مسمریزم کی ماہیت۔ مسمریزم کی تاریخ۔ یکسوئی قلب۔ یکسوئی دماغ۔ تصور۔ مسمریزم اور قوت۔ نگاہ کا جادو۔ خیالات کا جادو۔ ماہر کے پردے۔ مشکلات سے چھٹکارا۔ پاگلوں کی نجات۔ کسی مجمع کو ہپناٹائز کرنا۔ ٹیلی پیتھی۔ مسمریزم کے ذریعے روپیہ کمانے کا طریقہ۔ بغیر ہوا تین دن تک زمین میں بند رہنا۔ انسان کو ہوا میں لٹکانا۔ انسان کو ہوا میں اڑانا۔ اڑتے ہوئے پرندہ کو مسمرائز کر دینا۔ دوسرے کے دل کی بات آناً فاناً جان لینا۔ مدفون خزانوں کا پتہ دینا۔ مردہ روحوں سے ملاقات کے طریقے۔ انسان کو دوسرے قالب میں تبدیل کر کے دکھا دینا۔ کسی عضو کو وقت کے لئے بے حس کر دینا۔ کسی کو ڈاک و تار کے ذریعہ مسمرائز کرنا۔ مسمریزم کے ذریعے چوری کا سراغ لگانا۔ جادوؤں کو منتشر کرنے کا طریقہ۔ گیان اندری کے درشن کرنا۔ بغیر غذا ایک سال تک زندہ رہ سکنا۔ مسمریزم کے ذریعہ سر سے لیکر پاؤں تک کی ہر ایک بیماری کا علاج بلا دوا کرنا اور گھر بیٹھے بے شمار دولت عزت و شہرت حاصل کرنا۔ ایک مقام پر بیٹھ کر دوسرے مقام کے آدمی کو ہپناٹائز کر کے تیسرے مقام کے آدمی سے عملی گفتگو کرنا۔ جس کے عملی سبق تسخیر محبوب۔ ماہی بے آب کی طرح تڑپا دینے والا عمل تسخیر قلب۔ ارادی حسن۔ سنگدل کو موم بنانا۔ ملازمت یا بڑے حاکم سے حسب منشاء کام نکلوانا۔ ماضی۔ حال مستقبل کا حال بتانے کا طریقہ۔ حلقہ بگوشی۔ ایک کو دوسرے پر فریفتہ کرنا۔ تسخیر حبیبہ جسکے محبوب دور دراز کے علاقہ پر رہتا ہو۔ گذشتہ حالات جنگ کا نقشہ دکھلانا۔ مسمریزم کے ذریعہ کھائی ہوئی چیز بتا دینا۔ جن و آسیب کے اثر کو دور کرنا۔ [illegible] دکھلانا۔ [illegible] ان پر علم مسمریزم کے عمل کا نقشہ۔ ڈاکٹر [illegible] صاحب کے فلک شگاف تجربات **طلسم اولاد** جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی یا پیدا ہو کر مر جاتی ہو علم مسمریزم کے ذریعے حسب منشاء اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ غیب دانی کے معجزے دکھلانا۔ معمول کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسٹیج پر بٹھلا دینا۔ پھر وہ روشن ضمیر ہو کر حاضرین کے ہر سوال کا جواب و ہر ایک کے ہاتھ کی چیز کا جواب بتلا دیگا۔ محض اسی کھیل کے ذریعے آپ کافی روپیہ کما سکتے ہیں۔ نظر بندی کے مختلف طریقے۔ دوسری دنیا کی سیر کرنا۔ وہ مقام پاک جہاں جاتے ہی ظاہری ہوش و حواس کا پتہ نہیں رہتا۔ وہاں کے حالات قلمبند کرنا۔ ذاتی روشن ضمیری سے۔ اپنے آپ کو طلسمی نیند میں سلا کر زمانہ گذشتہ و آئندہ کے حالات معلوم کرنا۔ سالہا سال تک تندرست و جوان رہنے کا راز۔ بدچلن کو نیک چلن بنانا۔ مرنے کا حال چھ ماہ پیشتر معلوم کر لینا۔ مسمریزم کے ذریعے ہر قسم کی پیشگوئی یعنی آئندہ ہونے والے واقعات کو پہلے خواب میں معلوم کرنا۔ گمشدہ کا پتہ لگانا۔ بند صندوق کے اندر کی اشیاء بتلا دینا۔ کسی کے بالوں کو چھو کر اس کی بیتی ہوئی زندگی کے حالات بتلا دینا۔ چھڑی کو سانپ بنانا۔ مسمریزم کے ذریعے کاروبار کو ترقی دینا۔ واسطے پر کھڑے ہو کر چراغ گل کر دینا۔ اندھیرے میں کتاب پڑھ لینا۔ مسمریزم کے آلے بنا کر سینکڑوں روپے کمانا۔ مسمریزم کا ایک کراماتی آلہ بنانا جس کو دیکھتے دیکھتے آپ روشن ضمیر ہو کر آپ اپنے آپ کو ایک فرحت افزا و خوشبودار باغ میں پاؤ گے۔ اس کے درمیان سنگ مرمر کا ایک عالیشان محل واقع ہوگا۔ اس محل کے عین سامنے ایک بارہ دری واقع ہوگی۔ بارہ دری میں روحوں کا بادشاہ معہ اراکین کے جلوہ فگن ہوگا۔ جس سے ہر ایک سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک ملیگا۔ خواہ تحریری خواہ زبانی۔ اس آلہ کو فروخت کر کے آپ سینکڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے ساری دنیا کی سیر مسمریزم کا ایک ایسا عمل جس کے ذریعے آپ رات کو سوتے وقت تمام ملکوں کی سیر۔ انگلستان۔ یورپ۔ افریقہ۔ امریکہ کی سیر بخوبی کر سکو گے۔ جس سے آپ کو ایسی خوشی حاصل ہوگی۔ کہ اپنے آپ کو ہفت اقلیم کا بادشاہ دیکھنے لگو گے۔ مسمریزم کا آلہ [illegible] جس کے ذریعے مردہ روحوں سے بات چیت کی جاتی ہے۔ جس کو [illegible] تین چار روپوں میں فروخت کر رہے ہیں۔ آپ بھی بنا کر فروخت کر کے روپیہ کما سکتے ہیں۔ مسمریزم کے ذریعہ بہشت کے درشن۔ دوزخ کا نظارہ۔ اسم اعظم مسمریزم کا وہ راز جس کو پا لینے کے بعد کوئی خواہش باقی نہیں رہتی ہے اس کے ذریعے عامل اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ انحد شبد یعنی مسمریزم کے اس مشہور راگ کا نام ہے جس پر ساری دنیا فریفتہ ہے۔ یہ انتہا درجہ کا سریلا اور ہمیشہ عمر بھر قائم رہنے والا ہے۔ اس کے سنتے ہی انسان ایسا مست ہو جاتا ہے۔ کہ اسے دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ اس راگ کے حاصل کرنے کا مکمل عمل و سبق و ہدایات ہماری کتاب میں ملیں گے۔ وظیفہ وغیرہ اس قسم کے سینکڑوں **طلسمات** ہماری کتاب میں ملیں گے۔ بوجہ عدم گنجائش چند ایک کا ذکر بیان کر دیا گیا ہے۔ زیادہ خوبی دیکھنے پر منحصر ہوگی۔ سچ پوچھو تو جوتش کی مشہور کتاب بھرگو سنگھتا بھی ہماری کتاب **طلسمات مسمریزم** سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ممالک غیر یعنی افریقہ۔ یورپ و امریکہ میں ۹۵ فیصدی آدمی اس علم کے ذریعے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آرڈر کے ہمراہ وفاداری کے علاوہ اس قسم کی ایک حلفیہ تحریر آنی چاہئے۔ کہ آپ ہمارے بتلائے ہوئے طلسمات و عملی اسباق سے ناجائز فائدہ ہرگز نہ اٹھائیں گے۔ ورنہ تعمیل نہ ہوگی۔ وجہ یہ کہ **طلسمات مسمریزم** کوئی اشتہاری یا بازاری کتاب نہیں ہے۔ جو کہ سراسر لغو اور بے بنیاد ہوتی ہیں۔ **طلسمات مسمریزم** کے عملیات بالکل آسان سہل الحصول اور زود الاثر ہیں۔ [illegible] نہ ہی کسی قسم کا نقصان و خطرہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی یہ علم [illegible] جنتر منتر وغیرہ سے ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کتاب طلسمات مسمریزم عرف **کراماتی علم** باتصویر [illegible] صرف تھوڑے عرصہ کے لئے صرف تین روپے جو کہ مفت کے برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ تقریباً ہر ایک علم و سبق کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی [illegible] گئی ہیں تاکہ عامل ہر ایک بات آسانی سے سمجھ سکے۔ کاغذ عمدہ اور خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے۔ کتاب بہت ہی محنت و جانفشانی سے تیار کرائی گئی ہے۔ آج ہی طلب کرو۔ ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔ اسکی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ ناپسند کرنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

**پتہ:۔ دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس نمبر ۵ ملتان شہر**

بیسویں صدی کا عجیب غریب حیرت انگیز سب سے بڑا اندر جال بزبان اُردو موسومہ

# ہمالہ تنتر عرف لنکا کا جادو بالتصویر

## تنترودیا پر مکمل اور لاثانی کتاب اس سے بڑھ کر دنیا بھر میں آپ کو کہیں سے نہ ملیگی

منترو ناظرین! اب جنتروں منتروں کا زمانہ گذر چکا ہے۔ ہمارے دور میں سائنس نے ہر قسم کی مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ جو کام جنتروں منتروں کی کئی قسم کی تکلیفوں مصیبتوں اور عرصہ دراز کی محنتوں اور مشقتوں و چلہ کشی وغیرہ سے ہوا کرتے تھے۔ وہ آج تنترودیا سے نہایت آسانی سے حل کئے جاتے ہیں۔ اب نئی روشنی کا زمانہ ہے جس میں پرانے توہمات سے خلق عامہ کی توجہ ہٹ کر اب تنتروں کی طرف آ رہی ہے جس کی وجہ ظاہر الشمس ہے۔ کہ تنتر اپنی طاقت آپ ہی خود دکھا دیتے ہیں۔ اور اپنا ثبوت آپ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس علم کے متعلق دنیا بھر میں ابھی تک صرف یہی ایک ہی مکمل کتاب ہے جو کہ نہایت ہی آسان اور عام فہم اردو میں ایسے پیرایہ میں لکھی گئی ہے۔ جس کو ایک بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور ہر قسم کا منتر تیار کر کے کامیاب ہو سکتا ہے گویا کہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ایک قیمتی موتیوں سے ترتیب دی ہوئی مالا ہے جس کا ایک ایک منتر موتیوں سے لدا پڑا ہے۔ بوجہ عدم گنجائش چند منتروں کی فہرست درج ذیل کی جاتی ہے۔ ۱۔ اے میرے خدا ر یار ما تنتر کے رٹن کرنا O MY GOD ۲۔ استری وشی کرن منتر۔ محبوب کو پان یا الائچی یا مٹھائی یا لونگ اور چھوہارا [illegible] مطیع کرنے کے تنتر۔ راہ چلتے محبوب سے آنکھیں لڑا کر مطیع کرنا پھول وغیرہ سونگھا کر محبوب کو مطیع کرنے کے تنتر۔ ایک ایسا زود اثر مجرب منتر جسکے ذریعہ محبوب خود بخود آپ کے گھر چلا آئیگا۔ سب سے بڑا منتر۔ جس سے تمام دنیا مسخر ہو جائے۔ علاوہ ازیں اولاد پیدا کرنے کے تنتر۔ اولاد نرینہ پیدا ہونے کا تنتر۔ منتر حسب مرضی لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا۔ تنتر غریب کو امیر اور امیر کو غریب بنانا۔ تنتر انسان کا حیوان اور حیوان کا انسان بنانا۔ تنتروں کی رات اور رات کا دن بنانا۔ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر سب کو دیکھنا مگر خود کسی کو نظر نہ آنے کے تنتر۔ کال گیان یعنی موت کا علم معلوم کرنے کا تنتر۔ مردوں سے ملاقات اور بات چیت کرنے کا تنتر۔ احوال غیب جن یا بھوت وغیرہ تنتر تسخیر جن پری یا آسمان سے [illegible] کی حالت میں پریوں کا اتر آنا۔ زمین میں سے روپیہ نکالنا اور درخت کا فوراً ہونا۔ اور اس پری زاد کا بیٹھے نظر آنا۔ زمانہ ماضی۔ حال و مستقبل کے حالات معلوم کرنے کا تنتر۔ ہر قسم کی پیشگوئی کرنے کا تنتر۔ میرا آج کا دن کیسے گذریگا؟ درازی عمر کا مجرب تنتر۔ ۱۰۰ سال تک تندرست و جوان بنے رہنے کا تنتر۔ بال ہمیشہ سیاہ رہنے کا لے [illegible] تنتر [illegible] میں آ جانے والا تنتر۔ سمندر میں تیرنے کا تنتر۔ تنتر پہاڑوں کی سیر۔ جادو کا سرمہ بنانا۔ سلیمانی چھڑی۔ دفینہ معلوم کرنے کا تنتر۔ تنتر کالا آدمی۔ [illegible] آسانی [illegible] مجرب تنتر۔ چلتے کتوں کو بند کرنا۔ لوگوں کی نظربندی کا تنتر۔ بے موسم انبہ لگیں۔ جہازوں کو تعویذ کی طاقت سے چلنے سے روک دینا۔ آسمان پر یا سخت بجلی چمکنے لگے جب ہی چل جائے۔ بارش کرنا۔ طوفان کو [illegible] میں پانی بھر دینا یعنی [illegible] کاٹ سکیگی۔ تنتر پانی کا دودھ بنانا۔ تنتر کھمبی کبھی پھل لگے۔ ایک تخت آسمان سے [illegible] راگ سنائی دینے والا تنتر۔ [illegible] والا تنتر۔ جنگل میں منگل یعنی تھوڑی دیر کیلئے جنگل باغ بن جائے۔ ایک عجیب و غریب حیرت انگیز لا انتہا پانی اور آگ پہنچنے والے تنتر۔ تنتر سے [illegible] کی تمام بیماریوں کا علاج تنتروں سے کرنا۔ گمشدہ اشخاص کے پتہ لگانے والا تنتر۔ سفر میں [illegible] ستارہ قسمت کے منحوس اثرات کو فوراً بدل دینا۔ تنترودیا [illegible] سے [illegible] کا آسان علاج۔ ولادت میں آسانی۔ بغیر دوائی کھائے امساک پیدا کرنا۔ جماع میں [illegible] آب حیات یعنی [illegible] میٹھا پانی تیار کرنے والا تنتر۔ پاگل کتے کے کاٹے کا علاج۔ سفر میں کامیابی حاصل کرنے والا تنتر۔ [illegible] عورت کا بھید معلوم کرنے کا تنتر۔ غائب کی باتیں معلوم کرنے کا تنتر۔ دوسرے کے دل کی [illegible] سگریٹ والا عمل یعنی سگریٹ کو جیب سے کسی حصہ [illegible] ہزاروں تنتر تیار کرنا۔ [illegible] یعنی [illegible] وسطی [illegible] کا طریقہ مع مکمل ہدایات وغیرہ جس کے ذریعہ آپ معقول روزگار [illegible] کا مکمل اور [illegible] طریقہ جس کے ذریعہ ہر قسم کے پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں [illegible] کی عبارت کو جان لینا جس کے اشتہارات عام اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں اور نہایت عجیب و غریب روحانی کرشمات [illegible] اس کا اختیار [illegible] معلوم ہو سکے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس کو فروخت کر کے آپ ایک معقول ذریعہ روزگار [illegible] عجیب و غریب حیرت انگیز آلہ [illegible] کو کیسی ہی ہو سکے ہوئے بالغ مرد یا عورت کے دل پر رکھ دیں [illegible] اپنے دل کا بھید بتلا دیگا۔ [illegible] کا طریقہ آپ کو ہماری کتاب میں ملیگا۔ وہ کاندار لوگ [illegible] چار چار پانچ پانچ روپیہ میں فروخت کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کو بنا کر سینکڑوں روپیہ ماہوار کما سکتے ہیں۔ [illegible] ولاٹری کا نمبر معلوم کرنے کا آسان و مجرب تنتر چونکہ آپ کو کسی دوسری کتاب میں نہ ملیگا [illegible] ہماری کتاب کے آخر میں آپ کو [illegible] ولاٹری کے نمبر معلوم کرنے کا مکمل سبق [illegible] والاثانی تنتر ملیگا۔ جس کو آپ اور کسی سے حاصل نہ کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ ہماری کتاب ہمالہ تنتر عرف لنکا کا جادو بالتصویر میں اسی قسم کے ایک ہزار سے زائد تنتر آپ کو ملیں گے۔ بوجہ عدم گنجائش صرف چند تنتروں کا ذکر بیان کیا ہے زیادہ حال دیکھنے پر معلوم ہوگا جن کا ایک ایک تنتر انسانی علاج [illegible] انسانی طاقت کو [illegible] کر دیگا۔ کیا کمال کیا ہے۔ کتاب ایک چھپا بیٹے والے تنتروں کا مجموعہ ہے۔ جو کہ کئی سالوں کی لگاتار محنت و مشقت و زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تیار ہوئی ہے۔ کیا کمال کہ انسان ہمارے **اندر جال** کا مطالعہ کرے اور فریفتہ نہ ہو جائے۔ الغرض مجرب المجرب اور لاکھ لاکھ روپیہ کا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت اس نادر و نایاب بڑا اندر جال موسومہ ہمالہ تنتر عرف لنکا کا جادو بالتصویر کی [illegible] روپیہ بھی رکھی جاتی [illegible] ہے مگر ہم نے اس کی اصل قیمت صرف دس روپیہ مقرر کی ہے۔ مگر اس خیال سے کہ کم استطاعت کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لئے رعایتی قیمت صرف اول ایڈیشن کی [illegible] صرف چار روپیہ لی جائیگی۔ جو کہ مفت کے برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے۔ کہ تنتروں کے ساتھ ساتھ آسانی سے سمجھنے کے لئے موقع بموقع تصویریں بھی دی گئی ہیں۔ کاغذ عمدہ اور خوبصورت جلد تیار ہو رہی ہے۔ آج ہی طلب کرو۔ کیونکہ اس کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ صرف چند جلدیں باقی رہ گئی ہیں۔ [illegible] کی ایک [illegible] آنی چاہئے۔ کہ ہمارے تیار کردہ اندر جال کے تنتروں سے ناجائز فائدہ ہرگز ہرگز نہ اٹھائیں گے۔ ورنہ تعمیل ارشاد نہ ہوگی۔ خبردار! آجکل کے نقالوں و جاسوسوں کی قیمت پر اس قسم کی نقلی و فرضی کتابیں فروخت ہو رہی ہیں۔ لہذا آپ کم قیمت کے لالچ میں آ کر اپنا روپیہ ضائع نہ کریں [illegible] چاہیے بار بار یاد رکھیں۔ تنترودیا پر مکمل کورس موسومہ اصلی اندر جال کتاب سوائے ہمارے کارخانہ کے [illegible] روپیہ سے کم قیمت پر آپ کو ہرگز نہ ملیگا [illegible] ایک بار شرط۔ ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر کتاب واپس لی جاتی ہے۔ چند دیسی [illegible] سلیمانی [illegible] جس سے آپ [illegible] فائدہ اٹھا سکتا ہے

## پتہ:۔ دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس عنہ ۵۰ ملتان شہر

# گھر بیٹھے علم مسمریزم و ہپناٹزم عمل حب تسخیر ہمزاد و تنتر ودیا سیکھنے کی عجیب و غریب کتب جنکی ملک بھر میں دھوم ہے ملاحظہ فرمائیے

## قانون محبت عرف کالا جادو

### (عمل حب کا مکمل کورس)

کہاں ہیں وہ بدنصیب عشاق جو دیدار یار کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو آمادہ ہیں۔ آئیں اور کالا جادو کے ذریعے وصل یار کا لطف حاصل کریں۔ کالا جادو کو عام اشتہاری یا بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہو گا۔ جن میں ناممکن العمل اور لایعنی عملیات ہوتے ہیں۔ بلکہ اس میں حسینوں کو تسخیر کرنے اور ان کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے وہ عجیب و غریب حیرت انگیز خفیہ کالے جادو آپ کو ملیں گے۔ جن کو عمل کرنے کے لئے کسی جنگل یا پہاڑ پر نہیں جانا پڑتا۔ بلکہ گھر بیٹھے چند گھنٹوں میں ہر ایک عمل کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور ہر وہ [illegible] شرطیہ طور پر کارآمد ہو جاتا ہے۔ قانون محبت کے مطالعہ سے آپ کا دامن امید گوہر مراد سے بھر جائیگا اور وہ خوشی حاصل ہو گی۔ کہ لفظوں میں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کالا جادو کے ذریعے پتھر دل معشوق کو اپنا مطیع کرنا۔ حاکم یا افسر کو اپنے اوپر مہربان بنانا۔ دشمن کو زیر کر کے اپنا فرمانبردار بنا لینا۔ ہر انسان کی نظروں سے پوشیدہ وہ زر [illegible] صندوق کو دیکھنا۔ مگر خود کسی کو نظر نہ آنا۔ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گا۔ مختصر فہرست عملیات کالا جادو ملاحظہ ہو:۔ دوسروں کو بذریعہ [illegible] مطیع کرنا۔ بذریعہ گفتگو بس میں کرنا۔ قوت ارادی و بذریعہ مسمریزم دوسروں کو بس میں کرنے کے طریقے۔ وہ جادو جو بنگال میں کسی کنواری [illegible] سے حاصل کیا گیا ہو۔ جادوؤں والا مکمل عمل۔ بیبیوں ناخنوں والے جادو۔ بنگالی کھیر والا عمل۔ دیوالی کی رات والا عمل۔ سورج گرہن و چاند گرہن میں پڑھنے والے عملیات۔ سیاہ کتے والا عمل۔ بلی کا عجیب و غریب عمل۔ پھول و عطر پر پڑھنے و سونگھانے والے عملیات۔ سپاری والا عمل۔ [illegible]۔ بس میں کرنے والے کا عمل۔ وغیرہ وغیرہ بوجہ عدم گنجائش ہم نے صرف چند ہی کا ذکر بیان کر دیا ہے مگر کتاب کالا جادو میں آپ کو عمل حب کے اڑھائی سو (۲۵۰) کالے جادو و پچاس عملی اسباق بمعہ مکمل ہدایات و تراکیب کے ملیں گے۔ جن پر عمل کرنے سے آپ ہر شخص کو مطیع کر کے اپنی حسب منشاء کام نکلوا سکتے ہیں۔ ہمارے اسباق و عملیات نہایت ہی آسان اور سیدھے سادھے ہیں۔ دوران عمل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا دقت پیش نہیں آتی۔ نہ ہی کسی قسم کا خوف و ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور نہ ہی یہ عملیات کسی مذہب و ملت کے خلاف ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر مذہب و ملت کا آدمی ہمارے عملیات و اسباق کے ذریعے کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کالا جادو فی جلد رعایتی صرف دو روپیہ [illegible] ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

## اسرار ہمزاد عرف زندہ جادو باتصویر

### تسخیر ہمزاد کا مکمل کورس

ہمارا دعویٰ ہے۔ کہ تسخیر ہمزاد پر ایسی نایاب کتاب اردو زبان میں کبھی شائع نہیں ہوئی [illegible] میں تسخیر ہمزاد کے بڑے بڑے جھوٹے دعوے کئے جاتے ہیں۔ مگر کتابوں کی مدد سے کتنے آدمیوں نے ہمزاد کو دیکھا۔ ہمارا دعویٰ ہے۔ کہ ہم ہر شخص کو پہلے روز ہمزاد دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے اسباق نہایت آسان اور سیدھے سادھے ہیں۔ جن کے ذریعے ہمزاد پہلے ہی دن نظر آ جاتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ مشق سے چند روز میں آپ سے ہمکلام ہو گا۔ اور آپ کا ہر مشکل سے مشکل کام سرانجام دے گا۔ تسخیر ہمزاد کے ذریعے ہر شخص گھر بیٹھے الواع و اقسام کے تحفے بے موسم کے پھل۔ نیز دور دراز کی خبریں پل بھر میں منگوا سکتا ہے۔ نیز پتھر دل معشوق کو فوراً مطیع کرنا۔ گمشدہ کی تلاش کرنا۔ موت کا حال چھ ماہ پہلے معلوم کرنا۔ لاعلاج اور مہلک بیماریوں کا علاج منٹوں میں کرنا۔ دوسرے کے دل کی بات جان لینا۔ نیز زمانہ ماضی۔ حال۔ مستقبل کے حالات معلوم کرنا۔ عامل کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گا گنتی کے دنوں میں آپ کے اندر ایک نمایاں تبدیلی واقع ہو گی۔ اور ہمزاد آپ کو بے اندازہ دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ہماری کتاب میں تسخیر ہمزاد کے ۹۰ عملیات بمعہ چند عملی اسباق و مکمل ہدایات کے ملیں گے۔ مختصر فہرست ملاحظہ ہو:۔ تسخیر ہمزاد دیکھنے کی ہدایات و ورزشیں۔ قوت ارادی۔ تصور۔ قوت خیالی سے ذریعہ تسخیر ہمزاد و ہدایات عامل۔ تیاری۔ احتیاطیں۔ [illegible] سے ملاقات کا عمل۔ تسخیر ہمزاد بذریعہ [illegible] بذریعہ مسمریزم۔ ہمزاد مسخر ہونے کے بعد کی ضروری باتیں اور ہمزاد سے کام لینا ہمزاد کے ذریعہ پیشینگوئی۔ ہمزاد کو کھو بیٹھنے کا عمل۔ ہمزاد سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں۔ غیبی خبروں کا پتہ دینا۔ ہمزاد کے ذریعہ سفر کرنا۔ ہمزاد کے ذریعہ سمندر میں تیرنا وغیرہ وغیرہ۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت اسرار ہمزاد باتصویر فی جلد صرف دو روپے [illegible] ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔ (نوٹ) ہمزاد کو پہلے روز دیکھنے کی ترکیب ہمراہ مفت ملیگی۔

## تاش کے کھیلوں کا مکمل کورس

### تاش میجک بک باتصویر

۵۰۰ روپیہ نقد انعام اس شخص کو دیا جائیگا جو یہ ثابت کر دے کہ اردو زبان میں تاش کے کھیلوں پر ایسی جامع اور مکمل کتاب اس سے پہلے بھی شائع ہو چکی ہے۔ یوں تو آپ نے تاش کے کھیلوں کی عام یا بازاری کتابیں بہت سی دیکھی ہونگی۔ مگر حال ہی میں ایک لائق اور مستند پروفیسر نے نہایت ہی آسان اور بالکل سیدھے تاش کے کھیلوں کی ایک ایسی مکمل اور ضخیم کتاب تیار کی ہے۔ جس کے مطالعہ سے ایک بچہ بھی تاش کے کھیلوں کو سیکھ کر پروفیسر بن جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے استادوں کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ اس لاجواب کتاب میں آپ کو وہ عجیب و غریب حیرت انگیز کھیل ملیں گے۔ جن کو لوگ جادو اور مسمریزم خیال کرتے ہیں۔ اور جن کے ایک ایک کھیل سکھانے پر لوگ پروفیسروں کو پچاس پچاس روپیہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ صرف دو روپیہ خرچ کر کے تمام کھیل سیکھ کر ہر ایک کھیل سے کافی روپیہ کما سکتے ہیں۔ مثلاً بادشاہ کی بیگم اور بیگم کا بادشاہ بنانا۔ پتے کا چھوٹا بڑا بنانا۔ تاش کی گل بنانا۔ کسی آدمی کا دیکھا ہوا پتہ چھلانگ مار کر [illegible] تاش کا [illegible] بنانا۔ پتوں کا ہاتھ سے چھوٹا ہو کر غائب ہونا۔ تاش کا پتہ بتانا۔ سادی تاش کے پیچھے پہلے سرخ پھر سیاہ ہو جاویں۔ تاش کے پتے کا ٹکٹ بنانا۔ [illegible] بادشاہ۔ تاش میں مختلف جگہ ڈال کر ایک جگہ اوپر سے نکالنے۔ سادی تاش کے پتوں کو [illegible] کے خالی پیچھے اور خالی پتوں کی تصویریں بنانا۔ کسی آدمی کا دیکھا ہوا پتہ [illegible] تصویروں کا [illegible] کرنا وغیرہ وغیرہ ہر ایک کھیل بالتصویر درج کیا گیا ہے۔ نیز پانچ چھ آدمیوں کے چھانٹے ہوئے پتے بتلانے۔ سولہ پتوں کا کھیل۔ ڈھیریوں کے عجیب و غریب [illegible] کسی کے دیکھے ہوئے پتہ کا ڈبل رول میں سے نکالنا۔ کسی کا دیکھا ہوا پتہ تاش میں ملا کر پھیلاتے جاؤ۔ جہاں سے کہو وہاں سے نکال دینا۔ [illegible] لوگ اپنے دیکھے ہوئے پتے اپنی جیب اور کوٹ سے نکالیں۔ ہولی کھیلنے کے عجیب و غریب کھیل۔ غرضیکہ اسی قسم کے دو صد کے قریب تاش کے کھیل ہماری کتاب میں ملیں گے۔ [illegible] اور ساتھ تصویریں بھی دی گئی ہیں۔ لیکن بوجہ عدم گنجائش ہم نے صرف چند ہی کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت تاش میجک بک فی جلد دو روپیہ [illegible] (نوٹ) ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

پتہ:۔ دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس ع ۵۰ ملتان شہر

مارکیٹ میں سب سے پہلے ہم نے اصلی اُلّو تنتر کو شائع کیا

اصلی اُلّو تنتر ہمارے کارخانہ کے تین پیے
سے کم قیمت پر ہرگز نہ مل سکیگا۔

# اُلّو تنتر عرف خفیہ جادو باتصویر (رجسٹرڈ)

[illegible]

## فن جادو و عملیات پر اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی کتاب نہ ملیگی

اسکے سامنے

## دُنیا جہان کے تمام نئے و پرانے جنتر منتر تنتر جادو۔ ٹونے تعویذ گنڈے وغیرہ ہیچ و ناکارہ ہیں۔

**ناظرین!** اُلّو جادو دُنیا بھر میں یہ نادر و نایاب کتاب ہے جس کے لئے مدت سے ساری دنیا ترس رہی تھی۔ روئے زمین کا ہر فرد و بشر۔ ہندو۔ مسلمان۔ سکھ۔ عیسائی اس امر کا بخوبی قائل ہے کہ پرندہ اُلّو (جس پر تمام دنیا فریفتہ ہے) کے ہر ایک اجزا میں بڑی بھاری عجیب و غریب و غضب کی طاقتیں بھری پڑی ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے عجیب و غریب و حیرت انگیز کام نکلوائے جا سکتے ہیں۔ اُلّو تنتر کو عام اشتہاری یا بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہوگا۔ جن سے شمشانوں اور قبرستانوں کی خاک چھان کر کئی چلے کاٹتے ہوئے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے مگر ہماری کتاب میں آپ کو پرندہ اُلّو کے نہایت عجیب و غریب و آسان تین صد تنتر ملیں گے۔ جن کے ذریعے آپ دنیا کا بڑے سے بڑا کام منٹوں میں حل کر کے دنیا میں کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مثلاً عمل حب یعنی حسینوں کو تسخیر کرنے اور ان کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے بہت سے عجیب و غریب و آسان تنتر آپ کو ملیں گے۔ نیز اُلّو کے ذریعے غریب کو امیر اور امیر کو غریب بنانا۔ دشمن کو دوست بنانا۔ بے وقوف بنانے کا تنتر۔ گذشتہ جنم یاد آنا۔ پاتال کے درشن کرنا۔ سینکڑوں میل بلا مکان سفر کرنا۔ حیرانگی کی عجیب و غریب عمل۔ حسب منشا شادی کرانا۔ ایام گردش کو راہ راست پر لانا۔ نیز اُلّو کا سُرمہ لگا کر راہ چلتے آدمیوں کو [illegible] آجانا۔ گھر سے بے گھر کرانا۔ [illegible] اول نمبر [illegible] زہریلے سانپ کاٹنے کا علاج۔ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر کل مخلوق کو دیکھنا۔ مگر خود کسی کو نظر نہ آنا۔ سلیمانی سُرمہ بنانا۔ مخلوق علوی و سفلوی کو دیکھنا۔ اُلّو پٹ بجن تیار کرنا۔ عدالت عالیہ یعنی [illegible] دربار نظر آنا۔ جنوں کی دُنیا دیکھنا [illegible] کرامات۔ [illegible] حیوانات سے محفوظ رہنا۔ دشمن کے گھر کو تباہ و برباد کرنا۔ حاضرین مجلس کو خوش کرنا۔ دن کو تارے دکھا دینا۔ [illegible] کرایہ دار سے مکان فارغ کرانا۔ بھوت پریت کو دفع کرنا۔ جنگ و جدل میں کامیابی حاصل کرنا۔ اور [illegible] سے زخم نہ لگے۔ نیز اُلّو تنتر کے ذریعہ بخار وغیرہ بیماریوں کا علاج کرنا۔ نیز بہت سے مہلک بیماریوں کا علاج۔ مثلاً مالیخولیا۔ کھانسی۔ تاپ تلی۔ سیلان الرحم۔ درد گردہ۔ درد پیٹ۔ درد سر۔ چوتھئے کا بخار۔ نامردی سستی۔ [illegible] باد۔ سانپ کا ڈسنا۔ مرگی۔ مرچھہ وغیرہ کا علاج منٹوں میں کیا جا سکتا ہے۔ نیز اکسیر سوزاک کا آسان عمل [illegible] کے لاجواب تنتر آپ کو ہماری کتاب میں ملیں گے۔ علاوہ ازیں ......... اُلّو تنتر کے ذریعے دن کی رات و رات کا دن بنایا جا سکتا ہے۔ نیز شراب کا نشہ۔ شاہی لنگر جاری کرنا۔ [illegible] بہشت کا نظارہ۔ تماشہ مجموعہ علم الغیب۔ [illegible] کل اور آج۔ ذخیرہ [illegible] دولت کا چشمہ۔ عجیب و غریب آدا۔ دودھ کا پانی کرنا۔ دودھ کی ندی۔ موت سے مقابلہ۔ پہاڑ سے ٹکر۔ ایک سے دو۔ [illegible] حاصل کرنا۔ اولاد نرینہ پیدا ہو۔ سگائی کرانا۔ روزگار لگنا۔ سرگرداں و پریشان کرنا۔ زن کو قابو کرنا۔ کفر توڑنا خدا خدا کہے۔ آدھے سر کا درد دور کرنا۔ [illegible] کا اکسیر تنتر۔ تصویر یار [illegible] رنگ برنگی دُنیا۔ جادو کے پھول۔ جادو کا حلوہ۔ بندر کا ناچ۔ شیطان کی تالی۔ چور پکڑے [illegible] دلفریب جال۔ [illegible] زبان بندی [illegible] ناگن۔ [illegible] ان تھک مسافر۔ [illegible] معرفت کی راہ۔ [illegible] میدان میں کامیابی حاصل کرنا۔ [illegible] خواب [illegible] بشر کی گرج۔ [illegible] سے اتنا پانی نکلے۔ کہ [illegible] زمین و آسمان [illegible] صورت کی شکل کو سیاہ بنا دینا۔ اور پھر توبہ کرانے پر اصلی شکل میں لانا۔ رستم عالم [illegible] ایک ہی [illegible] بیٹے پہلوان کو [illegible] طلسمات عجیب [illegible] افیون کی زحمت۔ عجیب لالٹ۔ دیوتا۔ [illegible] جادو کا [illegible] رنگ برنگی فیروزہ۔ [illegible] پانی۔ طوفان کا پانی۔ درد دل۔ جام جہان نما۔ طلسماتی گھوڑا۔ موتیوں کا اگنا۔ جادو کا قلم۔ یعنی اس قلم سے آپ جو کسی کو کوئی تحریر یا دُعا یا تعویذ وغیرہ لکھ کر دیں گے۔ تو یقیناً وہ سائل کامیاب ہوگا۔ تحریر خواہ کسی زبان میں ہو۔ مثلاً اردو۔ ہندی۔ انگریزی۔ گورمکھی۔ ناگری۔ گجراتی۔ نیز [illegible] وغیرہ صاف سہل الفاظ میں تحریر ہو۔ [illegible] اُلّو کا ایک ایسا تنتر کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے آپ [illegible] سانپ بن جاوینگے۔ اس کے بعد ہیبت ناک شکل کا دیو بن جاوینگے۔ بعد ازاں آپ بوڑھے سادھو سنیاسی کی شکل میں بدل جاویں گے۔ اور اسکے بعد فوراً غائب ہو کر اپنے اصل روپ میں آجاویں گے۔ غرضیکہ اس تنتر کے ذریعے ہر شخص غالب پر غالب (اچھیا دھاری) انسان بن کر [illegible] میں چاہے بدل سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کتاب اُلّو تنتر میں آپ کو اس قسم کے تین صد اُلّو تنتر ملیں گے۔ بوجہ عدم گنجائش ہم نے چند تنتروں کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ زیادہ خوبی دیکھنے پر معلوم ہوگی۔ نیز اُلّو کو پکڑنے اور اُلّو کو سدھا کرنے کے طریقے بھی ہماری کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ اور ساتھ ہی اُلّو کو شراب پلانے کا عمل بھی بمعہ تصویر کے درج کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے اُلّو خود بخود آپ کے سامنے بول اٹھیگا۔ اور اپنی تمام خصوصیات خود بخود آپ کو بڑی سنجیدگی سے سنا دیگا۔ جس کے سننے سے آپ کی حیرانی کی کوئی حد باقی نہ رہیگی۔ گویا اُلّو اپنے تمام تنتر خود بخود اپنی زبان سے بیان کرتا چلا جاوے گا۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کتاب **اُلّو تنتر عرف خفیہ جادو باتصویر** رعایتی فی جلد **تین روپے** ہے۔ جو کہ مفت کے برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ قریب ہر ایک تنتر کے ساتھ ساتھ آسانی سے سمجھنے کے لئے تنتر بمعہ تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ کاغذ ولایتی اور خوبصورت جلد بندھی ہوتی ہے۔ غرضیکہ کتاب نہایت محنت اور جانفشانی و زر کثیر صرف کر کے تیار کرائی گئی ہے۔ جو کہ آج تک دنیا بھر کی کسی زبان میں کسی کتب خانہ میں شائع نہیں ہوئی۔ آج ہی فوراً طلب کرو۔ ورنہ اگلے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔ کیونکہ اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ (نوٹ) ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

## پتہ:- دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس عث ۵ ملتان شہر

الو نوٹ: آجکل کے نقالوں نے اس قسم کی نقلی و فرضی کتابیں [illegible] فروخت کرنی شروع کر دی ہیں۔ لہذا اصلی اُلّو تنتر منگوانے کے لئے ہمارا دفتری پتہ یاد رکھیں۔

[illegible]

# نازنینوں پر فتح پانے کے نسخہ جات

**فاسفوجین**

اگر آپ کا شمار ان نوجوان بوڑھوں میں سے ہے جو آغاز شباب میں ہی اپنی جوانی کا اپنے ہاتھوں ستیاناس کر چکے ہوں۔ اگر آپ کی جوان بیوی خون کے آنسو رو تی اور سر دھن کر رہ جاتی ہو۔ اگر آپ کی جوانی کی امنگوں پر پانی پھر گیا ہو۔ اگر آپ کے اندر جوہر مردمی کمزور اور زائل ہو چکا ہو تو آپ فوراً فاسفوجین PHOSPHOGENE کا استعمال کریں جو کہ چند روز میں ہی آپ کے اندر جوانی کی روح پھونک دیگی اور زندگی کو پر لطف اور شاد کام بنا دیگی جوانی کی غلطیوں اور کثرت مباشرت سے پیدا شدہ جسمانی دماغی اور اعصابی کمزوریوں کو دور کر کے جسم کے اندر طاقت کا ایک اُمڈتا ہوا سمندر موجزن کر دے گی۔ اس کی ہر ایک گولی میں فاسفورس یوہمبین و دامیانہ جیسی مقویات کی مقدار خاص طور پر شامل کی گئی ہے۔ قیمت فی شیشی ۶۰ گولی ایک ماہ کیلئے عہ ہر موسم میں بے ضرر۔

**فرنچ آئنمنٹ طلا**

یعنی فرانسیسی طلا۔ اس طلا کے چند روزہ استعمال سے مردہ رگوں اور پٹھوں میں نئی زندگی عود کر آتی ہے۔ اور ابھری ہوئی نسوں کا گندہ مواد حل کر تمام کجی کوتاہی اور لاغری دور ہو جاتی ہے۔ آبلہ یا زخم نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی ٹیس پیدا ہوتی ہے قیمت فی شیشی مکمل شفا کیلئے [illegible]



**آلہ نامردی**

ولایت کا انتہائی سائنٹیفک کمال اس آلہ کے ذریعہ نامردی کے دفعیہ کے لئے جسمانی خون کی شفا بخش تاثیر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی شیشہ کی نلکی کو مقامی طور پر لگا کر نلکی کی ہوا خارج کر کے خلا پیدا کیا جاتا ہے جس سے خون صالح کی ایک کثیر مقدار عضو کے اندر کھنچ آتی ہے اور مردہ رگیں اور شریانیں اس خون سے غذا حاصل کر کے از سر نو زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح مقامی نقائص اور نامردی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کسی زہریلی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر قسم کی نامردی کا تشربیہ مکمل اور مستقل علاج۔ ایک آلہ سینکڑوں مریضوں کے کام آ سکتا ہے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف پانچ روپیہ۔ آلہ خاص فربہی اور درازی کے لئے انگریزی پمپ والا۔ جو لوگ بیس روپیہ کو بیچتے ہیں قیمت صرف بارہ روپیہ آٹھ آنہ۔ محصولڈاک دونوں حالتوں میں ایک روپیہ تین آنہ۔ آدھی قیمت پیشگی آنا لازمی ہے۔

**آلہ احتلام**

جن بدقسمت نوجوانوں کا متاع شباب رات کو شیطان کے ہاتھوں لٹ جاتا ہو ان کیلئے یہ آلہ ایک نعمت ہے اس عجیب و غریب آلہ کو رات کو سوتے وقت مقامی طور پر لگالینے سے احتلام قطعی ناممکن ہو جاتا ہے یقیناً بیٹھے بٹھائے روزانہ آزمائش کا موقع [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

**برتھ کنٹرول**

یعنی زیادتی اولاد کی روک تھام کیلئے ربڑ کے آلہ جات۔ ان آلہ جات کی مدد سے بغیر نقصان کے اولاد کا پیدا کرنا طرفین کی مرضی پر موقوف ہو جاتا ہے۔ نیز اگر طرفین میں سے کوئی آتشک یا سوزاک جیسی متعدی مرض میں مبتلا ہو تو فریق ثانی خطرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ بیکاری اور غربت کے زمانہ میں ان کا استعمال عین دانشمندی ہے۔ مرد کیلئے فرنچ لیدر درجہ اول ایک پیسہ درجہ دوم ۱۲ درجہ سوم ۸ درجہ چہارم ۶۔ گرا کوڈیل خول جو کہ عورت کو مسخر کرنے میں جادو کا اثر رکھتے ہیں فی عدد بارہ آنے ۱۲

**امساک**

لطف کی گھڑیوں کو لمبا کرنے کو کس کا جی نہیں چاہتا انسان کے اندر یہ قدرتی خواہش ہے کہ ہم بستری کے لطف کو جتنی دیر زیادہ ہو سکے قائم رکھے ہماری وائروٹنٹ VIROTENT نامی گولیاں اس مقصد کے لئے عملی اثر رکھتی ہیں۔ سرعت کی ندامت سے بچنے اور تسخیر قلب محبوب کا واحد ذریعہ ہیں۔ شوقین مزاجوں کے لئے نایاب تحفہ ہیں۔ قیمت ۲۰ گولی صرف دو روپے (عہ)

**طلسماتی چٹکی**

یعنی کنٹرکٹیور CONTRACTEUR نامی سفوف کے مقامی استعمال سے عورت مثل باکرہ بن جاتی ہے۔ نیز عورتوں کی ہر قسم کی تکلیف سیلان الرحم وغیرہ کو بند کرنے میں یہ سفوف اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ [illegible] قیمت فی شیشی [illegible]

**جوبن کا ابھار**

عورت کی خوبصورتی تب تک ابھرے ہوئے جوبن پر منحصر ہے۔ جن عورتوں کی چھاتیاں بوجہ بے احتیاطی یا کثرت اولاد ڈھلک گئی ہوں ان کے دل سے ذرا پوچھئے۔ زیادہ کیا لکھیں۔ بسٹوبریس BUSTO BRACE کے بیرونی استعمال سے بدنمائی دور ہو جاتی ہے اور چھاتیاں باکرہ لڑکی کی مانند سخت اور مضبوط ہو کر شکل خوبصورت بن جاتی ہیں جسم میں جوانی کی شان پیدا ہو کر خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں قیمت فی شیشی صرف [illegible]

**سرمہ ممیرہ**

آنکھیں خوبصورتی اور محبت کا سرچشمہ ہیں۔ مرد ہو یا عورت دونوں کے چہرے کی زینت آنکھوں کی صحت پر موقوف ہے۔ اگر آنکھوں میں سرخی دھند غبار۔ جالا۔ پھولا۔ پڑوال۔ موتیا بند وغیرہ امراض ہوں تو چہرے کی رونق مٹی میں مل جاتی ہے اور انسان کا حسب اور کشش بھی کسی پر بھی اپنا جادو نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا سرمہ ممیرہ جس کو انگریزی میں کاپٹسٹیریم COPTISTYRIUM کہتے ہیں آنکھوں کی بالا تمام شکایات کو رفع کر دیتا ہے۔ اس میں ممیرہ کے علاوہ چند موتی وغیرہ قیمتی اجزا شامل ہیں یقیناً آپ اس سرمہ کو ہندوستان بھر میں لاثانی اور مفید پائیں گے۔ قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ۔ خالص ممیرہ قیمت [illegible]

**نوٹ**

ہماری ہر ایک دوائی یا آلہ کے ساتھ پرچہ ترکیب استعمال ضرور ہو گا۔
محصولڈاک اور پیکنگ کا خرچ ہر حالت میں بذمہ خریدار ہو گا۔

**پتہ: فرنچ ناولٹی سٹورز وچھوالی لاہور**

چیزیں منگاتے وقت جنتری کا حوالہ ضرور دیں

گلاب چند کپور

بک سیلرز پبلشرز انارکلی لاہور

## مقامات اشاعت مشہور عالم جنتری ۱۹۳۶ء

[illegible]



PANDIT
GIRDHARI LAL
[illegible]
SIALKOTI-1936-LAHORE

[illegible]

۱۹۳۶ء

CALL No. ٥٢٩٥٣ ACC. No. ٢٢٥٥٥

AUTHOR گرو سہائے لال بیخت

TITLE مثنوی عالم

| Date | No. | Date | No. |
|---|---|---|---|

A.M.U. LIBRARY

MAULANA
AZAD
LIBRARY

ALIGARH
MUSLIM
UNIVERSITY

-:RULES:-

1 The book must be returned on the date stamped above.

2 A fine of Re 1/- per volume per day shall be charged for text-books and 10 P. per vol. per day for general books kept overdue.